




مکالمہ طنزی



دکٹر رسرو اکبر بادی

خوبی پاکستان اور اکبیری

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi  
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ  
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ



Marfat.com

حامد حسن قادری (ادبی کارنامے)

ڈاکٹر سرور اکبر آبادی



اردو اکیڈمی پاکستان

[Marfat.com](http://Marfat.com)

# انتساب

جناب ڈاکٹر سید عبد اللہ مرحوم  
جناب پروفیسر مولانا عابد حسن فریدی مرحوم  
جناب پروفیسر ڈاکٹر مولوی محمد علی ہر فاروقی مرحوم  
والد محترم جناب حکیم سید قرا احمد مرحوم  
جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب مدد ظله  
جناب ڈاکٹر خالد حسن قادری مدد ظله  
جناب ڈاکٹر منیث الدین فریدی مدد ظله  
کے نام

کہ ان سب بزرگوں کی تربیت اور فیضانِ لفظ اس تصنیف  
کا سببِ نہاس ہے۔

سرور اکبر آبادی

سلسلہ مطبوعات :- ۱۱۵

130085

جملہ حقوق محفوظ

۱۹۹۹ء

ناشر :

ڈاکٹر وحید قریشی

جزل سیکرٹری

اردو اکیڈمی (پاکستان)

۷۹۳ - این، سمن آباد لاہور

جنگ شریر غنگ پریس لاہور

محل :

Mobile : 0300-408750  
0300-400618

انعام اشاعت :

او قارچیلی کیٹر ۵۰. لوڑ مال لاہور

نما اشاعت :

۲۵۰

۲۰۰ روپے

قیمت

انیڈیشن ادبیات کے مالی تعاون سے شائع ہوئی

# فہرست

۹	دیباچہ
۱۳	باب اول : سوانح، بیرت اور شخصیت
۴۱	(الف) تعلیم وابتدائی ادبی سرگرمیاں
۴۶	(ب) مثالہیر سے روابط و مراسم
۵۲	(ج) ملazمت
۵۸	(د) آگرہ کا قیام
۶۳	(۲) عادات و اخلاق
۷۰	باب دوم : مولانا قادری کے اسلاف اور بچپنی کی تہذیب و تمدن
	(سماجی زندگی اور اخلاقی و ندہبی تصورات)
۵۷	باب سوم : مولانا قادری بحیثیت نقاد
۵۸	(الف) فن تنقید اور اس کے مقاصد
۶۴	(ب) مولانا قادری کے تنقیدی نظریات
۸۳	(ج) تنقید میں مولانا کا مقام۔
۸۸	(د) اور نئیل رہنمائی کس

## فہرست محتوا میں

### صفحہ نمبر

۹۱	باب چہارم : تاریخ و تنقید
۹۲	(ا) مولانا قادری بھیثیت محقق ذمہ درج ادب
۹۳	(ب) داستان تاریخ اردو.
۹۴	(ج) اردو زبان.
۱۰۸	(د) اردو کی سب سے پہلی نشری تصنیف
۱۲۳	(ح) یورپیں مصنفین اردو.
۱۴۰	(و) ڈاکٹر جان گلگلکرائٹ کی ادبی خدمات.
۱۳۲	رن مصنفین بیرون کالج.
۱۳۸	مولانا فتح الداری بھیثیت مترجم
۱۳۷	(ا) تراجم کی اہمیت.
۱۳۹	(ب) نمونہ تراجم.
۱۵۰	باب پنجم :
۱۴۵	مولانا فتح الداری بھیثیت شاعر
۱۴۴	(ا) مولانا کی شاعری پر عسری رجمانات کا اثر
۱۷۲	(ب) مولانا قادری کے شعری مجموعے
۱۷۳	(ج) غزل کئے یئے مولانا قادری کی رائے
۱۷۸	(د) مولانا قادری کی رومانی شاعری.
۱۸۵	(ه) مولانا قادری کی نعتیہ شاعری.
۱۸۹	(و) قطعات و ضرب الامتثال.
۱۹۰	(ز) منظومات و مشنویات.
۱۹۸	(ح) رباعی کافن.
۲۰۵	(ط) منظوم تراجم رباعیات مولانا ابوسعید ابوالخیر
۲۰۶	(و) مولانا کی متنسقوفانہ و عارفانہ رباعیات.

۲۰۹	باب سیشم : مولانا قادری کی تاریخ گوئی
۲۱۰	( و ) فن تاریخ گوئی
۲۱۱	( ب ) تاریخ کیا ہے۔
۲۱۲	( ج ) قواعد تاریخ گوئی۔
۲۱۳	( د ) ابجد کی اقسام۔
۲۱۴	( و ) قواعدہ زیر و بنیات
۲۱۵	( ز ) اقسام تاریخ۔
۲۱۶	( ح ) اردو کے تاریخ گو شعراء
۲۳۵	( ر ) مجمع تواریخ۔
۲۳۸	( ل ) گنجینہ تواریخ۔
۲۵۱	باب سیشم : مولانا قادری کی مکتوب، سگاری، مباحث، مکاتیب، علمی جیشیت۔
۲۵۲	(الف) مکتوب سگاری کی اہمیت و افادت۔
۲۵۵	(ب) مکتوب سگاری کا آغاز و ارتقاء۔
۲۶۴	(ج) مولانا قادری کی مکتوب سگاری۔
۲۷۹	باب نهم : پچوں کا ادب
۲۸۰	(الف) پچوں کے ادب کی اقسام
۲۸۴	(ب) مولانا قادری اور پچوں کی نسبیت۔
۲۸۴	(ج) پچوں کے لئے مولانا کی تعلیمیں۔
۲۸۸	(د) پچوں کی فطرت کے مطابق مولانا کی تخلیقات
۲۸۰	(ه) مولانا کی تعلیمی تصانیف۔

## فہرست مصنابین

### صفحہ نمبر

- بائیب دھم : مولانا قادری کی نشنگاری  
۲۹۳
- (۱) مولانا زادری کی اولیہ ت  
۲۹۴
- (۲) ایشانی نشری لئنہب پرمجموی قبصہ، پہلا دور  
۲۹۵
- (۳) دوسرا دور  
۲۹۶
- (۴) فورٹ دیہم کالج .  
۲۹۷
- (۵) فورٹ دیہم کالج کی خدمات  
۲۹۸
- (۶) نشرِ اردکا متوسط دور  
۲۹۹
- (۷) محمد سر سید۔  
۳۰۰
- (۸) نشرِ اردکا چپ ٹاؤن دور  
۳۰۱
- (۹) مولانا قادری بحیثیت، دوڑا۔ پرداز  
۳۰۲
- (۱۰) مولانا قادری بحیثیت نقاد۔  
۳۰۳
- (۱۱) مزاح و نظرافت کا عنصر۔  
۳۰۴
- (۱۲) مولانا قادری کا مقام جدید تنقید میں۔  
۳۰۵
- (۱۳) فہرست ماذرات  
۳۰۶
- (۱۴) فہرست تسانیف مولانا حامد حسن قادری۔  
۳۰۷

## دیباچہ

مولانا حافظ حسن قادری اس صدی کے ممتاز اہل علم اور اہل باب قلم میں سے ہیں۔ قدیم مکتب فکر سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کو جدید تحریکوں سے بھی لگاؤ رہا ہے۔ ترقی پسند ادب کی تحریک ہو یا نظم و نثر میں مختلف اسالیب اور تحریرات یا جدید تحریکیں درج ہوتیں۔ وہ ان سب تحریکوں سے بخوبی باخبر تھے اور یہ تعلیمی کیات تو ہر تحریک اور ہر رسم و رجحان پر تنقیدی نظر ڈال کر اس کے معاسن و معائب سے بحث کرتے اور خوبیوں و خامیوں کی دبیتے تکلف نشانہ ہی کر دیا کرتے تھے۔ ان کا یہ ہی معاملہ اپنے ہم عصر ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ تھا۔ ان کی تنقیدی بہیثہ علمی اصولوں پر مبنی ہوتی تھی اور اس میں ذاتیات کا سبھی کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ وہ عجیب پوشش دہنریا پاش انان تھے۔

مولانا نے نظم و نثر دونوں میدانوں میں اپنی جولانی طبع کے جو ہر دکھائے اور نصف صدی سے زیادہ عرصہ تک تحقیقت و تالیف کی خدمات انجام دے کر اردو کے فروع و بغا اور ترقی و ترقہ کے لئے کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ذہنی ذکری کا دشون کا مطالعہ کر کے ان کی علمی و ادبی خدمات کے احتراف میں یہ مقالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مقالہ کو دس ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔

پہلے باب میں مولانا کے سواجی حالات، تعلیم، ملازمت، اخلاق و عادات، زندگی کی مختلف منازل اور ادبی زندگی کے آغاز کا ذکر ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مقالے کا یہ حصہ جتنا جامع اور مدلل ہونا چاہیے تھا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ ہے کہ

مولانا قادری کے حالات زندگی اور ادبی کارناموں کا ذکر نہیں بخوبی اور تذکروں میں نظر نہیں آتا اور اگر کہیں ہے بھی تو نہایت مختصر اور سرسری طور پر۔ ان کی یہ سوانح حیات اخبارات و رسائل میں شائع ہونے والے ان تحقیقی و تنقیدی مضمون و مقالات کی مدد سے مرتب کی گئی ہے جو ان کے صاحب زادگان نے مرحلت فرمائے۔ کچھ مولانا کے شاگردن گرامی قدر جانب ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، جانب جمیل زبیری اور جانب پروفیسر کراچی صاحب کے توسل سے میرے علم میں آئے۔

دوسرا باب مولانا قادری کے اسلاف اور بھپروی تہذیب و تمدن سے متعلق ہے اس میں دہلی کی سماجی زندگی اور اخلاقی و مذہبی اخدار و تصورات کا نقشہ پیش کیا گیا ہے تیرا باب قادری صاحب کی تنقید سے متعلق ہے جس میں مولانا کے تنقیدی اصول و نظریات پر سیرہ حاصل بحث کی گئی ہے۔ مولانا کی تنقید میں ماضی و مستقبل دونوں کے صالح اور صحبت مندرجہ ذریعے جو نظر آتے ہیں جن کو واضح کرنے کے لیے ان کی تنقیدی اور مباحثوں سے جا بجا امثال پیش کی گئی ہیں۔

چوتھے باب میں مولانا قادری کے سب سے بڑے کارنامے اور ثابتِ دوام پانے والے نقش "داستانِ تاریخ اردو" پر تفصیلی تبصرہ کیا گیا ہے اور اردو ادب میں ان قادری بخشیتِ مؤخر و محققِ متعدد کیا گیا ہے۔

پانچویں باب میں مولانا کی ترجمہ نگاری سے بحث کی گئی ہے۔ اس باب میں انگریزی سے ترجمہ کردہ تنقیدی مقالات، منظومات اور ڈراموں کے علاوہ جدید ایرلنی افانوں کے ترجمہ بھی شامل ہیں۔

چھٹے باب میں مولانا کی شاعری پر تبصرہ کیا گیا ہے اور مولانا کی حمد و لغت، نظم و غزل اور قطعات و ریاعیات کا جائزہ لیا گیا ہے۔

ساتویں باب میں فنِ تاریخ گوئی کی ابتداء و ارتقاء کا ذکر اس کی اہمیت و افادت اور مولانا قادری کے فنِ تاریخ گوئی پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔

آٹھواں باب مولانا قادری کی مکتب نگاری پر مشتمل ہے۔ اس میں مکاتیبی ادب

کی ابتداء و ارتقاء، اس کی اہمیت و افادیت اور مولانا قادری کی مخطوط نگاری کا جائزہ لیا گیا ہے۔

تو بیان باب میں سچوں کے ادب کی تخلیق و ترجمہ کے سلسلے میں مولانا کی خدمات کا جائزہ لیا گیا ہے اور یہ تبانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مولانا نے حصوں علم کے لیے سچوں میں اس طرح تحریک و تشویق پیدا کی اور خود بھی ان کی فیضت و جیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے ایسا ہی ادب تخلیق کیا جو ان کو مرغوب تھا۔ ساتھ ہی سچوں کے لیے مولانا کے پیغام اور سچوں پر اس کے اثرات کو واضح کیا گیا ہے۔

دوسری باب مقدے کا اختتامیہ باب ہے اس میں مولانا قادری کی نشر نگاری تفصیلی تبصرہ کیا گیا ہے اور اردو ادب میں ان کی اہمیت و حیثیت واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہر کیجتہ ہر باب اور اس کی تفصیلات میں کسی نہ کسی افادی پہلو کو اچاگر کیا گیا ہے۔ اس مقام کی تحریر کا عرض ایک خاص سبب یہ بھی ہے کہ مولانا قادری جیسے عظیم ادیب و محقق اور بے بوٹ و بیباک نقاد پہ تک کوئی جامع مقالہ نہیں لکھا گیا، ممکن ہے کہ اس پیچے مدار کے مقالے میں اپل علم و ادب کو کچھ کام کی باتیں مل جائیں۔

محضے اپنی علمی بے بضاعتی و فرمائیگی کا احساس ہے۔ بے عیب خدا کی ذات ہے۔ اس میں یقیناً کچھ خامیاں دکوتا ہیں ہوں گی جن کی نشان دہی میرے لئے باعث حوصلہ افزائی اور مُحِبِ احسان ہو گی۔ اگر اس میں کچھ خوبیاں ہوں تو ان کو میرے مشفق و محترم اساتذہ کرام کا فیضان نظر تصور فرمایا جائے اور خامیوں کو میری علمی بے بضاعتی تصور کیا جائے۔

اس مقالے کی ابتداء اسٹادی جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب مظلہ العالی کی رہنمائی میں ہوئی۔ آپ کے یونیورسٹی سے سبک دوش ہو جانے پر اسٹادی جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر سید سخنی احمد راشمی صدر شعبہ اردو کی رہنمائی میں پیدا گئے تھے۔ موصوف نے قدم قدم پر نہ صرف یہ کہ میری حوصلہ افزائی درہماںی فرمائی بلکہ یونیورسٹی کے کاموں میں انہماں کے باوجود میرے مقابلے کو بغورہ ملاحظہ فرمایا اس کا ایک ایک لفظ پڑھا، ہدایات دیں اور جا بجا اصلاح فرمائی۔ موصوف کی شفقتوں اور عنایتوں کے لیے میں سراپا سپاس ہوں۔

اس کام میں جن بزرگوں اور استادوں نے میری رہبری فرمائی ان کا بھی میں تہریل سے ممنون و متشکر ہوں۔ جانب محترم مولانا حامد حسن قادری صاحب کے صاحبزادگان جانب ساجد حسن قادری، جانب ڈاکٹر خالد حسن قادری (پروفیسر اردو لندن یونیورسٹی)، جانب ماجد حسن فریدی و جانب راشد حسن قادری میرے دیرینہ محسینین میں سے ہیں انہوں نے اپنے والد بزرگوار کی تایاں مطبوعہ و غیر مطبوعہ کتب اور قلمی تحریری مرجمت فرمائیں۔ میں مشہور و انشور جانب مشق نواجہ، جانب اقبال عالم، ڈاکٹر فران فتحپوری اور ڈاکٹر سید ابوالحیز کشفی صاحبان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے بھی میری وحدہ افزائی فرماتے ہوئے اپنے ذاتی کتب، خانوں سے استفادے کا موقع بخدا۔

آخر میں جانب ڈاکٹر وحید قریشی مدظلہ، ڈاکٹر سعید مغربی پاکستان اور داکٹر اکبر حسینی طور پر اور جملہ ارائیں اکادمی کامیومی طور پر سپاہی گزار ہوں کہ ان حضرات کی ادب فرازی اور علم دوستی کی بدولت یہ مقالہ شائع ہو رہا ہے۔

## مُسْرِدَرَ اکبر آبادی

یکم اکتوبر ۱۹۸۸ء

۱/۰۰۷ شریف آباد، فیڈرل، بی ایسا

کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## بَابُ اُولٌ

# سوانح، سیرت اور شخصیت

کسی انسان کو دھالنے اور اس کو ایک مخصوص طرز فکر و نظر بخشنے میں اس کی سیرت و شخصیت کو کافی دخل حاصل ہے کیونکہ اس کے کردار اور شخصیت کی سحر انگیزی سے ہی اس کی زبان و بیان میں ایک انوکھی خصوصیت پیدا ہوا کرتی ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ سیرت و شخصیت مختلف اثرات کا مرکب ہے۔ اس میں موروثی خصوصیات، گھر بیو ماہول، خاندانی اثرات، مذهبی و معاشرتی رہایات اور اس دور کے سیاسی و سماجی نظریات سب کی ہی جملہ نظر آتی ہے۔ مگر بعض اوقات انسان کی شخصیت کو نکھارنے کے لئے موروثی خصوصیات کو برقرار رکھتے ہوئے سماجی و معاشرتی حالات سے بھی بر سر پیکار رہنا پڑتا ہے۔

عموماً لوگ اپنے حسب و نسب پر فخر کرتے ہوئے آباؤ اجداد کے علم و فضل اور روشن کارناموں کو اپنے ضعف کمال کی سپرنانتے میں مولانا قادری اگرچہ ایک یہی مقیاز خاندان کے فرد تھے جو اپنے حسب و نسب اور علم و فضل کے اعتبار سے بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنے حسب و نسب یا علم و فضل پر فخر نہیں کیا۔

ان کے اسلاف و خاندان کے متعلق مولانا شمس الحق نظامی اپنے ایک مصنفوں میں قسم طراز ہیں کہ :-

” قادری صاحب کے جدِ اجد شیخ احمد اول (معروف بِ فرخ شاہ کابلی) تھے جن کے عہد تک سلطنتِ بیخ دکابیل حضرت ابو یسیم بن ادہم کی اولاد میں رہی اس کے بعد غزنة کے بادشاہ وقت نے ان کے مالک کو فتح کر لیا۔ شیخ احمد ثانی شہزادہ کابل نے ۱۹ھ مطابق تِ الہہ میں چنگز خان سے جنگ کی اور شہید ہوئے۔ ان کے صاحبزادے خواجہ شیخ شعیب اپنے خانزادے کے ساتھ پنجاب پہنچے آئے۔ کچھ دن لامور اور ملتان میں قیام کر کے پاک پن شریف جس کا پرانا نام وجود ہن ہے وہاں مقیم ہوئے خواجہ صاحب کو سلطان کی طرف سے ”ملک العلما“ کا خطاب عطا کیا گیا اور ان کا نکاح سلطان محمود غزنوی کی ہمسیرہ سے ہوا۔

شیخ کمال الدین (والدِ ماجد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی صاحبزادی کا نکاح سادات میں سید عبداللہ سے ہوا ان ہی کے بطن مبارک سے صاحبزادہ محمد و معلیٰ احمد صابر کلیری ہیں۔ یہی وہ مقدس ہستیاں میں جن کے فیوض و برکات اور انوار و تجلیات سے بر صغیر ہندو پاک کا گوشہ گوشہ منور و معطر ہے۔

شیخ کمال الدین کی زوجہ بنت مولانا وجیہہ الدین حضرت عباس عہم رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں اسی خاندان کے نامور بزرگ اور قادری صاحب کے مورث اعلیٰ حضرت بندگی میاں شیخ ذہکہ، ضلع مراد آباد میں تشریف لائے جہاں سے ان کے نبیرہ بلند مرتب حضرت شیخ مقبول عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصیر بچھرالیوں (ضلع مراد آباد) میں آکر آباد ہوئے۔ قادری صاحب قبلہ اپنی کی نسل سے میں ہوں۔

پھر لوں۔ نیلے مراد آباد (بیو پی) بیوں تو بظاہر کیسے چھوٹا سا قسم ہے مگر بڑا  
پڑم خیز خطرے واقع ہوا ہے۔ بیان بڑے بڑے لائق لوگ۔ علماء و فضلا اور  
دیندار بزرگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی کوشش و کاوشن اور جوانی طبع  
سے میدان علم و ادب اور شرود سخن میں نی نی را میں استوار کیں جن میں سے  
اکثر کی تصنیف کا ذکر مولانا قادری نے خود بھی کیا ہے۔

ان میکٹوپیڈیا آف برٹانیکا جلد ۱۵ میں مراد آباد کے سطے میں تحریر ہے۔

"Moradabad:-

A city and district located in the Rohilkhand division of Uter Pardesh, India. The city headquarters of the district and 93 miles E.N.E. of Dehli, is built on a ridge that lies on the right bank of the Ramganga river. Population is (1961) 180, 100, comprising that of the municipal area and the railway settlement.

Moradabad was founded in 1625 and named after Murad Baksh, son of the Mogul Emperor Shah Jahan, by his governor, Rustum Khan, who built the fort that overhangs the river bank, and the fine Jama Masjid or Principal Mosque (1631). There are four colleges affiliated to Agra University.

The city is known for the manufacture of metalware, especially ornamental brassware, which is coated with lac or tin and engraved, and cutlery. There is an electroplating plant; cotton weaving and printing are the principal cottage industries. The town lies on the main line of The Northern Railway.

Moradabad District forms the west central portion of rohilkhand division. Area 2,289 sq.miles, population (1961) 1,973,530. It is bounded on the east by Rampur district and west by the Ganges (Ganga). The Ramganga river crosses it on the east, cutting off a submountain section of the district towards the northeast. To the east of the Ganges lies the low "khadar" (new alluvium) land gradually rising towards the central plain area drained by the Sot river. Farther east the land drops gently towards the Ramganga. It is primarily an agriculture district, the chief crops being wheat, rice, millet, pulses and sugarcane. Moradabad has a greater number of Muslim more than one third of the total population than any other district in the state.

Besides Moradabad, the main towns are Sambhal to the Southwest, Amroha<sup>1</sup> to the West and Chandauli to the E. South.<sup>1</sup>

1. Encyclopedia Britannica, Inc. Volume 17 Printed in the U.S.A. published by William Benton

مولوی محمد علی صاحب تحصیلدار ساکن بچھرالیوں کے ساتھ میں مولانا قادری رقم طراز  
ہیں:-

”مولوی محمد علی صاحب بڑے عالم و باخبر بزرگ تھے۔ اس زمانے  
میں ایک طرف عیانیٰ اسلام پر جعلہ کر رہے تھے۔ دوسری طرف سرتیدا و  
مودی پسروغ علی نے عیانیوں کی رویداد اسلام کی تائید میں اسلام کے  
بعض مسلم فوائیں داصلوں کی توجیہ اور رائے زنی شروع کر دی ایسے مکمل  
آراء میں مطابق حدیث شریف ”اختلاف امتی رحمۃ“ (میری امت کا اختلاف  
رائے و ایتھا و بھی رحمت ہے) کجس ایک فریق حق پر ہوتا ہے کبھی دوسرا  
بھر حال مولوی محمد علی صاحب نے عیانیوں اور (لقول خود) نیچے یوں  
دونوں کے جواب لکھے۔ ۲۷۸۴ء میں کان پور سے ایک رسائلہ ”نور الافق“  
اسی مذہبی مناظرے اور مناقشے کے لیے جاری ہوا تھا اس میں مولوی سما:  
نے بھی مصائب میں لکھے:- لے

مولوی سید حامد علی صاحب جن کو قادری صاحب اور ان کے  
خانوادے سے بڑی گہری عقیدت و محبت ہے اور جو ایام طفیل سے آیا  
ضعیفی تک قادری صاحب کے دش بدوش رہے ہیں قادری صاحب  
اور ان کے گھرانے کے متعلق بیان کرتے ہیں:-

” قادری صاحب کا گھر انہ ایک علی دندبی گھر انہ تھا بسار غام  
علوم پر شرمند، علم دادب اور ذہبہ بونا۔ مہما پہ بپارہتا۔ ان کے  
والد مولوی احمد حسین صاحب ایک ممتاز دکیل، ایک جیید عالم، ایک مبتصر  
حمدشہ ہونے کے ساتھ ائمہ ایک اکمال ثانفر اور منفرد تاریخ کو بھی تھے

لہ حامدہ قادری، ”دانشنامہ ایران اردو“، گراجی، ”اردو اکیڈمی سندھ، ۱۹۶۶ء“  
ایک جو اشتھن پر .. دنیا رائے ایڈیشن، ۱۹۷۳ء، ص ۱۷۷۔

عربی و فارسی دونوں زبانوں پر ان کو پورا پورا عبور حاصل تھا۔ قادری صاحب کے چچا مولوی محمد حسن فاروقی اسلامیہ کالج پشاور میں شعبہ عربی کے صدر تھے اس کے علاوہ ان کے دیگر اعززہ مثلًا مولوی نور الدین صاحب، مولوی قیام الدین صاحب، مولوی عبدالحقیظ صاحب، مولوی محمود علی صاحب، مولوی ظہیر سرہالم حبشتی (وکیل)، مولوی فرید عالم حبشتی (سیشن جج)، مولوی محمد حسن صوفی، مولوی حامد علی صاحب، دغیرہ دغیرہ۔ جب موسیم گرام کی تعطیلات گزارنے سمجھا گیا تو میں جمع ہوتے تو علمی و ادبی معارکے چھڑا جاتے۔ مُشَاعرے و مُتَاثرے سے منعقد ہوتے۔ طرح مصروعوں پر غزلیں لکھی جاتیں تا ریخیں کہی جاتیں۔ زود گئی و بدیہی گوئی کی محفیلیں گرم رہتیں، طرح طرح کے الفاظ و محاورات، ضرب الامثال و تلمیحات موضوع بحث بنتیں۔ اور ان کی تصریحیات و توصیحات ہوتیں۔ قادری صاحب اور ان کا گھرانہ ان علمی و ادبی سمجھوٹیں میں سب سے پیش پیش ہوتا۔<sup>۱۷</sup>

راشد حسن قادری ان کے اسلاف کے متعلق اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ:-

” قادری صاحب کے پردہ دادا حضرت شیخ مقبول عالم صاحب کا سلسلہ نسب اٹھارہ پتوں کے واسطے سے شیخ الشیوخ حضرت بابا شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا ملتا ہے۔ ان کے پڑپوتے مولوی محمود عالم صاحب جو حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی کے خلیفہ اور رشته دار تھے اپنے علم و فضل کی وجہ سے سمجھا گیا کے مشہور

<sup>۱۷</sup> مولوی حسید حامد علی سیکھار و کٹوریہ انڈر کالج آگرہ، معاصر مولانا حامد حسن قادری ساکن سنہ ۱۹۶۳ ضلع مراد آباد۔

علماء و اکاابرین میں شمار کیے جاتے تھے ان کے سرستید احمد خاں اور  
مرزا غالب سے بڑے گہرے اور مخلصانہ مراسم تھے۔

یہ حقیقت ہے کہ جب غدر کا ہنگامہ ہوا تو اس وقت سرستید بجہور میں تعیاش  
تھے کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہاں کے عوام نے سرستید سے کہا کہ اس وقت اگر آپ  
ہماری رہنمائی کریں تو ہم انگریز دُن کو یہاں سے نکال باہر کریں گے اور آپ کو بجہور کا  
فاب بنالیں گے مگر سرستید تو پہلے ہی سرکاری ملازم تھے اور اس حقیقت کو بخوبی سمجھ  
گئے تھے کہ انگریزوں نے ہندوستان میں قدم ایسی مضبوطی سے جایا یہی میں کہ اب ان  
سے نہیں کوئی آسان کام نہیں ہے چنانچہ وہ اس بات پر آمادہ نہ ہوئے جس کے  
باعث بجہور کے بہت سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی خوف  
دا منگیر ہوا کہ سرستید ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے تنظام  
لبیں اس لئے مناسب ہے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی ان کا کام نام کر دیا جائے  
ادھر سرستید نے بھی اپنے تدبیر اور فہم و فراست نے بدتر سے ہوئے حالات کا بخوبی  
اندازہ کر لیا تھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بچھڑاویں بجہور سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں  
ہے۔ مزید برآں مولوی محمود عالم صاحب سے ان کے اچھے خاصے مراسم بھی تھے لہذا  
وہ خفیہ طور پر کچھ عرصے کے لئے مولوی محمود عالم صاحب کے بیان آکر مقیم ہو گئے۔  
اس واقع کا ذکر خواہ الطاف جسین حالی نے اپنی کتاب "حیات جاویدہ" میں  
صفحہ ۱۵ پر کیا ہے اور حیات جاویدہ میں کے حوالے سے راشد قادری نے روزنامہ جنگ  
کراچی کی ۲۳ جولائی، ۱۹۶۶ء کی اشاعت میں لپٹے مضمون میں اس حوالے کو یوں نقل  
کیا ہے:

"سرستید برابر اس فکر میں تھے کہ کسی طرح بجہور سے

لہ راشد سن قادری، "مولانا حامد سن قادری" (روزنامہ)، "جنگ"، کراچی

۲۳ جولائی، ۱۹۶۶ء، ص ۳

نکل کر میر ٹھہ پہنچ جائیں مگر موقع نہ ملتا تھا۔ میر صادق علی نے خود ساتھ ہو کر ان کو موضع محو لہ تک پہنچا دیا۔ وہاں سے سرستیب نے بچرا بیوں پہنچ کر بسبب علامت اور رستے کی کوفت کے چند روز مولیٰ محمود عالم کے مکان پر جوان کے دوست تھے قیام کیا۔ ”لہ قادری صاحب کی ولادت اور نام رکھنے جانے کا واقعہ بھی عجیب ہے جس کو راشد قادری صاحب نے یوں لکھا ہے۔

”انی مولیٰ محمود عالم کے بیٹے مولیٰ محمد علیم تھے جن کی ولادت میں پانچ رڑکے اور دو رڑکیاں تھیں۔ ان کے دوسرے بیٹے جن کا نام مولیٰ احمد حسن تھا ان کے بیان جب پلا بچہ رڑکا ہوا تو اس کا نام حامد حسن رکھا گیا مگر قضاۓ الہی سے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ دوسری بار بچہ رڑکا پیدا ہوا اور اس بار اس کا نام بھر دی ہی حامد حسن رکھا گیا مگر بچپن عز کے بعد وہ بھی اللہ کو پایا اہو گیا۔ ۲۵ مارچ ۱۸۸۷ء جمعہ کے دن ان کے بیان پھر ایک فرنڈ نے پیدا ہوا اور اس کا نام بھی انہوں نے بھر دی ہی حامد حسن تجویز کیا اور بھی رکھا۔ اس زمانے کے طور و طرز ت اور توہہات و خفائد کے پیش نظر یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے در نہ رسم و رواج اور عقائد و روایات کے لحاظ سے تو یہ نام سرسری سے ہی خاندان کے بھی بھی بچے کے لئے کسی بھی تجویز ہی نہ کیا جانا چلہیے تھا لیکن گیا کیا جائے کہ مولیٰ احمد حسن صاحب کو اس نام کے علاوہ کوئی نام پسند ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شاید ان کی بھی بات بھاگئی اور اس نے اس تیرے حامد حسن کو زندگی عطا فرمائی۔

بعد میں بھی حامد حسن آسمان علم و ادب پر آفتاب بن کر چکے اور مولانا حامد حسن

مل۔ راشد حسن قادری، ”مولانا حامد حسن قادری“، محوالہ بالا، ص ۳...

قادری کے نام سے مشہور ہوئے۔

قادری صاحب نے جس گھر انے میں آنکھ کھولی اور حسن ماحول میں پروردش پائی وہاں علم و ادب، شعر و سخن اور دین و مذہب کا چرچا تھا۔ لہذا قادری صاحب کو بھی یہ تمام چیزیں درستے میں ملیں۔ ان کے والد مولوی احمد حسن خود ایک صاحبِ دیوان شاعر تھے ان کا فارسی دیوان "گل زارِ ایم" (مخفوظہ) مولانا قادری کے کتب خانے میں موجود ہے۔ علاوہ ازیں مولوی احمد حسن صاحب میں ایک یہ بھی خوبی تھی کہ وہ کسی کی فرمائش کو عموماً نالانہیں کر سکتے تھے۔ ان کے نظریں کہنے کی فرمائش کرتے اور وہ کہہ کرہ کو دے دیا کرتے تھے اور لوگ انہیں اپنے ناموں سے شائع کر اکے خوش ہوا کرتے تھے اس سے میں ایک واقعہ مولانا قادری نے خود نقل کیا ہے کہ "مولوی سلطان احمد صاحب نے اس بات کا انکاف کیا کہ ۱۸۸۸ء کو حب مزاد آباد میں نمائش ہوئی تو چاند پور کے رئیس نشی محمد شکور صاحب نے والد سے قصیدہ کی فرمائش کی۔ والد نے قصیدہ کہا اور نشی محمد شکور ہی کے نام سے شائع کر دیا۔" ۱

اسی طرح ۱۹۰۳ء میں "نظم زنگین" کے عنوان سے موصوف نے ایک نظم خود مولانا حامد حسن قادری کی تعلیم کے لئے کہی اور قادری صاحب کی طبیعت علمی مشاغل کی طرف مبذول کرانے کے لئے اپنی کے نام سے "نظم زنگین" یعنی قصہ "قاضی جون پور" کے عنوان سے شائع کر دی اس سلسلے میں خود قادری صاحب نے تحریر کیا ہے:

"نظم زنگین کہ والد ماجد راقم حضرت مولوی احمد حسن صاحب برائے

تعلیم خاک رحماء حسن قادری نظم فرمودہ دخاکاره از غایت شوق طفلانہ میں جانب خود بیع گردانید و اسم تاریخی "نظم زنگین" موسوم کرد۔" ۲

۱۔ راشد حسن قادری "مولانا حامد حسن قادری"، مجموعہ بالا، ص ۳ ...

۲۔ یہ قصیدہ راشد میں قادری کے کتب خانے میں موجود ہے اور مولانا قادری کی مذکورہ عبارت حاشیہ پر تحریر ہے۔ (مقالاتہ مکار)

۳۔ لشکر صفحہ پر۔

۱۹۱۲ء سے مولوی سلطان احمد صاحب اور مولانا قادری نے مولوی احمد حسن حبب کے قلمی مسودات سے ان کا دیوان مرتب کرنا شروع کیا اور اس کی محل تخلیق و تزئین کا کام ۲۱ دسمبر ۱۹۲۵ء کو مولانا قادری کے ہاتھوں پایہ سکھیل کو پہنچا۔

## تعلیم و ابتدائی ادبی سرگرمیاں

بچپن میں حامد حسن قادری کی صحت اکثر خراب رہا کرتی تھی اور وہ عموماً علیل رہا کرتے تھے اس لئے بچپن میں ان کا سختی ساجھم دیکھتے ہوئے ان پر تعلیم کا بوججو دانے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی اس زمانے میں ان کے والد مولوی احمد حسن رام پور میں وکالت کیا کرتے تھے ان کا مکان محلہ کھنڈ سال کہنہ میں منشی امیر احمد میانی کے مکان سے کچھ فاصلے پر تھا۔

ماہول سے متاثر ہونا ایک لفیاقتی بات ہے ان کا گھر انہی علمی و ادبی ذوق کی وجہ سے ایک اچھا خاصاً "بیت الحکمت" تھا جس سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لہذا شاعری و انش پردازی کا شوق ہوا اور دنوں میں طبع آزمائی کرنے لگے اور اس طرح ان کے مقفلہ و منظومات کی اشتراحت کا سلسلہ ۱۹۰۲ء سے ہی مختلف رسائل میں شروع ہو گیا اس کا سبب گھر بھی علم و ادب اور تعلیم و تعلم کا چرچا تھا ان کے والد محترم جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے خود ایک بڑے جیید عالم، محدث اور فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اردو و فارسی کے ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ چنانچہ ان کا فارسی کلام ایک ضخیم لکھیات کی شکل میں محفوظ ہے۔ ساتھ ہی تاریخ گوئی میں بھی انہیں کمال حاصل تھا۔ ہونہا رہ بیٹے پر اثر پڑتا لازمی تھا لہذا شاعری اور مضمون نگاری کے ساتھ بچپن ہی سے تاریخیں کہنی بھی شروع کر دی گئی اور اس فن میں بھی بیداری حاصل کیا۔

۳۔ (بچپنے صفحے) حامد حسن قادری، "نظم نگین، یعنی قصہ، قاضی جون پور"، رام پور (بھارت) سن، ذیلی تحریر از قلم حامد حسن قادری برسرور

قادری صاحب کا پلا مضمون ۱۹۰۲ء میں "انتخاب لاجواب" لاہور میں شائع ہوا۔ پھر سال "زمانہ" کان پور، "علی گڑھ منتقل" اور "مختزن" لاہور وغیرہ کے لئے مضامین لکھے اور ادبی حلقوں میں خاصی شہرت حاصل کر لی۔ ۱۹۰۵ء میں جب وہ مرف آٹھویں جماعت کے طالب علم تھے انہوں نے کئی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ کر شائع کرائیں اس زمانے میں ایک انجمن "رفیق الاسلام" کے نام سے قائم تھی جو پاکستان کی ذہبی و اخلاقی کتابیں شائع کر کے مفت تعییر کیا کرتی تھی۔ اس انجمن نے قادری صاحب کی تین کتابیں: "مکمل اخلاق" رفیق تہذیب اور "حییہن" شائع کیں۔ "پیغمبر اخبار" لاہور میں بھی ایک انگریزی افانتی کا اردو ترجمہ "جادو گرنی" کے نام سے شائع ہوا۔ ۱۹۰۴ء میں جب وہ نویں جماعت کے طالب علم تھے تو سر اسی سود کے لندن جاتے وقت ان کو مقابلہ کر کے ایک طویل نظم کہی جو "علی گڑھ منتقل" کے ماہ نومبر ۱۹۰۶ء کے شمارے میں شائع ہوئی اور ادبی حلقوں میں بڑی مقبول ہوئی۔ ۱۹۱۰ء میں وہ دہلی پلے گئے اور وہاں پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاصل کا امتحان دیا اور اپنی ذہانت و فطانت کے سبب نام یونیورسٹی میں اول آتے۔ اس کے بعد ادبی فاصل کا امتحان بھی نمایاں حیثیت سے پاس کیا۔

۱۸۵۷ء کی جگہ آزادی کے بعد جوان انقلاب آیا تھا اس نے دہلی، آگرہ، لکھنؤ اور گورودار نواح کے اپل ہزار عدماً و فضلًا اور شرا و ادب کو فرمانزو اسے رام پور کی علمی و ادبی قدر دائیں کے سبب رام پور میں لا کر جمع کر دیا تھا اس زمانے میں رام پور علم و ادب کے اعتبار سے بعد اد و مصربنا ہوا تھا اور اس کا ہرگلی کو چنہ ہلم و فن کا گہوارہ تھا۔

مولانا قادری کو بھی "مدرسہ عالیہ رام پور" میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے اور علم و ادب سے بہرہ در ہونے کا موقعہ ملا۔ اسی شرہ آفاق درسگاہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اسٹیٹ ہائی سکول رام پور میں داخلہ لیا اور ۱۹۰۹ء میں میرڈک کے امتحان میں نمایاں حیثیت سے کامیابی حاصل کی۔

قادری صاحب کے دل میں علمی لگن لگانے اور شعر و ادب کا ذوق پیدا

کرنے میں دراثت کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے علمی و ادبی ماحول کا بھی گہرا دخل ہے جب انہوں نے آنکھوں کھولی تو گرد و پیش شعروں سخن کی محفلیں گرم پائیں اور فضائے شہر کو غالب و مومن اور میستر و داعٰؑ کی غنزوں سے گونجتے دیکھا۔ ان کا اس سے متاثر ہونا اک امرِ لائڈی تھا۔ وہ بھی ان اساتذہ کی غزوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، طبیعتِ موزوں تھی اس نے شعر کہنے سے باز نہ رہی اور اس زمانے میں جب ان کی ہمروں سے تیرہ باچوں بر س کی تھی اور کبھی کے سامنے زانوئے تلمذ بھی تھے نہ کیا تھا ان کے تاریخ فلکر کا عالم یہ تھا ہے

کیا خوب قم نے ہم کو وفا کا صلا دیا      فہرست سے بھی نام ہمارا اڑا دیا  
آئندہ آگے رکھ کے کہا، میں نے دیکھئے      گویا تمہیں کو سامنے لا کر بٹھا دیا

لحد سے اُٹھ کے ظالم دیکھوں میں تیری صورت بھی  
جو آیا ہے تو کر دے چال سے بپا قیامت بھی  
تراغھتہ بھی مجھ کو یاد ہے تیری عنایت بھی  
میری آنکھوں میں بھرتی ہے یہ صورت بھی وہ صورت بھی  
یہ کون آتا ہے، وہ آتے ہیں شاہد سیر گذشن کو  
خبر کے ساتھ ساتھ اُڑنے لگی چھوٹاں کی زنگت بھی!  
مولانا کی ابتدائی عمر کی شاعری کے سلسلے میں ذاکر ابوالحنیسہ کشفی بکھتے  
ہیں :-

رسالہ "محزن" کے فائل ( ) میں، میں نے  
مولانا حابد حسن قادری کو جوانی کو دیکھا۔ وہ جوانی جو غزل خوانی سے  
عبارت تھی مولانا کے بڑھاپے کو دیکھنے والے شاہد کسی اس پہلو کے  
باہر سے میں سوچیں بھی نہیں۔ " (۱)

۱۰ کشفی، ذاکر مسید ابوالحنیسہ، "ہمارے شہر کا ادب اور ادیب" ص ۱۱۰

قادری صاحب کے چھا مولوی محمد محسن فاروقی جو اس زمانے میں اسلامیہ کالج پشاور میں عربی کے استاد تھے انہوں نے ان کے ذوق شرگوں کو دیکھتے ہوئے مولانا امیر منیانی کے ایک شاگرد رشید منتشری امتیاز احمد خاں صاحب راز رام پوری سے اصلاح سخن کا مشورہ دیا۔ اس سے میں خود قادری صاحب اپنے دیوان "مراۃ سخن" کے دیباچے میں لکھتے ہیں :-

چند سال بعد چھپوئے چھا میان ر مولوی محمد محسن فاروقی لیکھ رار اسلامیہ کالج پشاور ) نے اپنے دوست منتشری امتیاز احمد خاں راز کے پاس لے گئے اور ان کا شاگرد بنایا - (۱)

اسی طرح مولانا حامد حسن قادری نے بھی راز رام پوری سے فیض تلمذ حاصل کرنے کے بعد میرانیس کا تتبع کرتے سوئے غزل گوئی کو اپنا شعار نہیں بنایا ان کا لکھرانہ چونکہ خالص علمی دندہ ہی لکھرانہ تھا والد بندگوار اگر محدث تھے تو عمّ مکرم فاضل عربی لہذا انہوں نے بھی غزل گوئی سے احتراز کیا اور ہمہ تن انشاء پر روازی کی طرف مائل ہو گئے اس سے میں وہ خود اپنے مضمون "حامد حسن قادری" میں بیان رقم طراز ہیں :-

" حامد حسن قادری شاعر ہیں مگر شاعری نہیں کرتے ابتداء میں امیر منیانی کے ایک شاگرد کے شاگرد ہوئے غزلیں کہیں بـشـاعـرـوـں مـیـں پـڑـھـیـں لیکن جب حضرت مولانا کی غزلیں " زمانہ " و " نقاد " وغیرہ میں شائع ہوئی شروع ہوئیں تو قادری ان سے نہایت متأثر ہوئے اور کہا کہ غزل یہ ہے باقی سب پسحہ ہے۔ " مخزن " میں شاد عظیم آبادی کی غزلیں چھپتی تھیں اور ان کو پس آتی تھیں پھر فافی کا کلام دیکھا اور بہت پسند کیا اس کے بعد غزل کی کائنات ہی بدل گئی۔ امیر و دانع وغیرہ کے قدیم زنگ حامد حسن قادری کی نظر سے گر

لے حامد حسن قادری "مراۃ سخن" دیوان غزلیات قادری ۔

گئے۔ قدیموں میں صرف ریاض و جلیل کو پڑھنے کے قابل سمجھتے تھے۔ اب یہ متفرقات کے شاعر ہیں یا رہنماییات و فلسفات کے۔ ”(۱)

ان کی اس تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت بھی حدود پسند واقع ہوئی تھی اور وہ چنان سے ہوتے نہیں کو چنان یا لکھنے کا فقیر بننا پسند نہ کرتے تھے جیسا کہ سطور بالا سے ظاہر ہے انہوں نے محمد حاضر کے تجدید پسند شاعروں کے کلام کو نیظر تھیں دیکھا۔ انہوں نے جدید غزل گوئی کے درجہ کیا مگر ان کے دل و دماغ پر امیر و داعی کارنگ غالب تھا لہذا یہ سمجھ کر کہ شاید زمانہ کا ساختہ زندے سکیں اور جدید طرز کو سجن و خوبی نہ سکیں غزل گوئی ہی کو خبر باد کہہ دیا۔

ملٹ حامد حسن قادری، خود نوشت حالات“، ”اردو نامہ“ ترقی اردو پورڈ گرائچی؛  
جنوری تا مارچ ۱۹۵۵ء، ج، ش ۱۹، ص ۳

## مشائیر سے روایات و مراکم

قادری صاحب نے جس گھر انہی میں آنکھ کھولی وہ خود علم و ادب کے ایک گھوٹے سے کمر نہ تھا جہاں دن رات علمی و ادبی تذکرے رہتے تھے ان کے خاندان کے لوگوں کا فہارمک کی مشہور و معروف سیلوں میں ہوتا تھا۔ لیکن قادری صاحب نے کبھی اس پر فخر و ناز نہیں کیا بلکہ خود اپنے دست و باندھ کے بھروسے پرمیدان ادب میں اترنے والے اپنی ذاتی قابلیتیوں اور احیا علمی صلاحیتوں کی بدولت ایک بلند مقام حاصل کر لیا۔ مک کے بیشتر موقر جرائد و رسائل کے مدیر اُن کی نگاہ تھات کو شائع کرنا باعث فخر تھا کہ کرتے اور نئی تخلیقات کے خواہاں رہتے مگر وہ فطری طور پر صوفی مشق اور حرف گزیں واقع ہوتے۔ اس نے نام و نمود اور نیاش و نماش سے گزیاں رہتے تھے۔ اگر تفاق سے کسی کا سامنا ہو بھی گیا تو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ حادثت قادری بیس -

مگر با وجود اس کے چونکہ وہ یوپی کے ایک ممتاز کالج (سینٹ جانس کالج اگرہ) میں صدر شعبہ تھے اور مختلف یونیورسٹیوں اور تعلیمی بورڈوں کے متن رہتے تھے اس نے ظاہر ہے کہ تعلیمی اداروں سے تعلق یادیگر اہل علم حضرات سے ان کے اچھے حصے مراسم ہوں گے لہذا وہ لوگوں کی نظر سے بخ کر کہاں جاسکتے تھے۔ بہت سے شوار و ادیا ان کے ہاں اکثر آتے رہتے تھے اور خاص طور پر یونیورسٹی کے تحت جب مختلف شعبہ کے اجتماع ہوتے تو نہ صرف صوبہ یوپی کے کابجون کے اساتذہ

بلکہ دوسرے صوبوں کے آئے ہوئے بیشتر دانشور و اساتذہ کرام قادری صاحب، ان کے بھائی مولوی عابد حسن صاحب فریدی یا ڈاکٹر مولوی محمد ظاہر صاحب فاروقی کے پیام ہمہن رہتے اور کئی کمی روز علمی مباحثت اور مجالس قائم رہتیں۔ ملک بھر کے بڑے بڑے ادبیوں اور تقاضوں سے مختلف موسنونات و مباحثت پر ان کی خط و کتابت کا سلسلہ چارہ می رہتا ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کون صاحب علم ایسا ہوگا جو ان کی شخصیت سے تعارف اور ان کی لیاقت کا اعتراف نہ کرتا ہو لیکن با ایں ہمہ وہ تنہائی پسند کرتے اور نئے دینے رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کی اس گوشہ نشینی کا یہ عالم تھا کہ برسوں تک بعض اصحاب سے صرف غایبانہ خط و کتابت رہتی اور کوئی ملاقات نہ ہوتی اور اگر کبھی ملاقات ہوتی بھی تو وہ بھی کسی نہایتی خاص تقریب، خاص موقع یا خاص سبب کی وجہ سے اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے:-

”حامد حسن قادری کا نام کافی مشہور ہے۔ مقالہ مکار بھی میں تقاضا بھی شاعر بھی، مصنف بھی، کسی نہ کسی حیثیت و عنوان سے ان کا نام یا کام رسائل و جسمائیں آتا رہتا ہے لیکن یہ بات بھی ہے لکھنے کے قابل کتاب میں کہ بہت سے لوگوں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا اور انہوں نے بھی بہت سے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ اکبر اللہ آبادی، خواجہ حسن نظامی، پیر یلم چنڈ، راشد الجیری، چکبرت ڈاکٹر اقبال، شیخ عبدال قادر، حفیظ جالندھری، سجاد حیدر، ڈاکٹر عابد حسین، اثر لکھنؤی، فراق گورکھپوری، علی عباس حسینی، سعادت حسن نسٹو، کرشن چدر، جگن ناتھ آزاد، وغیرہ وغیرہ بے شمارہ مشاہیر میں جن کی زیارت و ملاقات کا حامد حسن قادری کو کبھی الفاق نہیں ہوا۔“ (۱)

قادری صاحب کے اس نہ ملنے اور نہ دیکھنے کے سلسلے میں ایک طفیلہ کافی مشہور ہے جس کا ذکر خود مولانا حامد حسن قادری نے بھی کیا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ بابا سے اردو

۱۔ حامد حسن قادری، ”خود نوشت“، ”اردونامہ“ محوالہ بالا، ج، شمارہ ۱۹، ص ۲۹۔

مولیٰ عبد الحق صاحب نے جو اس وقت نجمن ترقی اردو، دہلی کے سینکڑی تھے اور وہاں سے ایک رسالہ "اردو" کے نام سے نکالا کرتے تھے۔ اس کی اکتوبر ۱۹۴۲ء کی اشاعت میں پروفیسر آنی حمد سُرور، اور مولانا حامد حسن قادری کو نوجوان نقادوں کی صفت میں شمار کرتے ہوئے از راہِ شفقت و محبت دعا دی کہ "یہ دونوں نوجوان خوب کام کر رہے ہے بہن۔ خدا انہیں نظرِ بد سے بچائے۔"

اس وقت آنی حمد سُرور صاحب تو خیر بے ریش دبڑت تھے ہی بلکہ آج بھی ہیں مگر اپھے خاصے جوان تھے۔ البتہ مولانا حامد حسن قادری کو اپنے متعلق یہ دعائیہ جملے پڑھ کر بہت ہی لطف آیا کیونکہ ان کی عمر اس وقت بھی چھپن ستاون سال کے قریب تھی اور نورانی چہرے پر پسیدائی صبح کی طرح سفید ریش جگلگارہی تھی۔ مولیٰ عبد الحق صاحب انہیں بھی نوجوانوں میں شمارہ فرماتے تھے۔ مولانا حامد حسن قادری اور ان کے احباب مولیٰ صاحب کا بہتر تبصرہ پڑھ کر بہت مخطوط ہوئے۔ اتفاق کی بات کہ اسی دورانِ ہندوستانی اکیڈمیِ اللہ آباد میں ایک ادبی اجلاس منعقد ہونے والا تھا جس کے میسران میں مولیٰ عبد الحق صاحب اور مولانا حامد حسن صاحب قادری کے صلاوہ نیاز فتح پوری، رشید احمد صدیقی، سید سلیمان ندوی، ڈاکٹر عبد استار صدیقی اور ڈاکٹر حاجی حسن وغیرہ بھی شامل تھے۔ لہذا موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مولانا حامد حسن قادری نے عبد الحق صاحب کے تصریح کا شکریہ ادا کرنے سے ان کی دعا نقل کر کے اور دعا پر آہن کہہ کر لکھا:-

میرا ارادہ اکیڈمی کے جلسے میں اللہ آباد جانے کا ہے۔ امیہ ہے کہ آپ بھی تشریف لے جائیں گے۔ وہاں ملاقات ہو گی۔ اس جلسے میں کچھ جوان بھی ہوں گے جیسے ڈاکٹر عبد استار صدیقی اور سید سلیمان ندوی اور "نوجان" بھی ہوں گے مثلاً نیاز فتح پوری اور چند "الفعال" بھی ہوں گے جیسے ڈاکٹر حاجی حسن اور رشید احمد صدیقی۔

اور اس کے بعد لکھا کہ آپ اسی تصریح میں میرے متعلق لکھ چکے ہیں کہ "لبیعت میں کسی قدر شو خی بھی ہے۔" مولیٰ عبد الحق صاحب اس شو خی کو سمجھ گئے بہت لطف بیا

اور فوراً لکھا کہ معلوم ہوتا ہے مجھے کبی وجہ سے فلسط فہمی ہوئی اور پھر جب اللہ آباد کے جلسے میں دونوں الگ الگ پہنچے تو حامد حسن قادری نے مولوی عبد الحق صاحب کو پچان بیا اس نے کہ ان کی تصویریں بہت دیکھیں تھیں لیکن مولوی صاحب نے قادری صاحب کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی اس نے ذرا ادھر ادھر نظریں دوڑا کر قیاس سے ہی پہچانا اور دوسرے دونوں میں اشارے کئے ہوئے ہیں<sup>(۱)</sup>۔

اس لطیفے سے پتہ چلتا ہے کہ قادری صاحب کے مثابرے سے فائیان طور پر بڑے گہرے مراسم لختے اور وہ ان کی ادبی خدمات کا اعتراف بھی کرتے رہتے مگر قادری صاحب کا نام و نمود سے نفور کم آئیزی، عزلت گزینی و کسر نفسی اکابرین سے ملنے میں بہتیہ مانع رہی مگر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب کوئی مشہور و معروف ادیب، عالم یا شاعر قادری صاحب سے ملنے ان کے گھر آیا اور چند سے مقیم رہنے کے بعد رخصت ہوا تو ان کی علیٰ دادبی شخصیت سے مناثر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے حسن اخلاق کا بھی دل سے معتقد ہو گیا۔ انباب بیاست میں بھی بہت سے لوگوں سے ان کے درستاد مراسم لختے بھارت کے وزیر آپاشی حافظ محمد ابراہیم مرحوم ان کے بڑے گہرے دوست اور ہم جماعت لختے اسی طرح بھارت کے مرکزی وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم سے بھی ان کی خاصی یہ تکلفی تھی۔ اس سلسلے میں بھی انہوں نے ایک لطیفہ لپٹے مضمون میں لیوں لکھا ہے:-

”بِسْكَنْدَرَةِ مِنْ حَامِدِ حَسَنِ قَادِرِيٍّ كَوْ دُنْ قَصْبَهْ بَجْهَرَ الْوَيْنْ، ضَلَعْ

مراد آباد میں ایک قومی جلسہ ہوا اس میں تقریر کرنے کے لئے خواجہ غلام التقلید اور مولانا ابوالکلام آزاد بلائے گئے۔ آزاد صاحب نے بڑی دھوکاں دھار تقریر کی اور حامد حسن قادری نے ایک طویل نظم پڑھی۔ اس رمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد اور قادری دونوں ہم عمر رہ کے رہتے۔ سترہ سال کی عمر ہو گی دونوں بے ریش دیروت، سرخ و سفید، مگر ایک دراز قد، ایک کوتاہ قات

۱۔ حامد حسن قادری، ”خود نوشت حالات“، محوالہ بالا، ”اردو نامہ“ ش ۱۹، ص ۳۔

یعنی قادری بڑھ کر بھی پابند فٹ رہے اور آزاد سارے ھے پا پابند فٹ نہیں بدل گئے۔ ابوالکلام آزاد کی پرچوش و عالمانہ تقریب سن کر جلے اور قبیلے کے بوجوگ جیران تھے۔ رات تھے لوقت ان شے پوچھتے تھے۔ آپ کی کیا عمر ہے۔ آزاد کہتے تھے سترہ سال، لوگ یقین نہ کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی ڈارٹھی موچھ نہیں نکلتی۔ اس جلے کے بعد آزاد اور قادری کا پھر کہیں کسی جلے یا کسی شہر میں ہلنے کا اتفاق نہیں ہوا اور ہوا بھی تو پورے چھپا 1951ء میں مولانا ابوالکلام آزاد بحیثیت وزیر تعلیم آگرہ آئے اور آگرہ کینٹ ریلوے اسٹیشن پر اپنے سیلوں میں قیام کیا اور سینٹ جانس کالج کو ٹیکنیکیون کر کے حامد حسن قادری کو ہلنے کے لیے بلا یا اس ملاقات میں بچھرا ہوں کے اس جلے کا تذکرہ بھی رہا۔ یہ آزاد صاحب کے حافظے کا کمال ہے کہ انہوں نے اس جلے کے وہ مناظر اور حالات بیان کیے جو قادری کو یاد بھی نہ رہے تھے۔<sup>(۱)</sup>

قادری صاحب اپنے زمانہ طالب علمی میں ہی بلا کے دُور میں، دور رس اور مردم شناس تھے۔ انہوں نے کوئی مقام حاصل کرنے کے لئے حکام یا صاحب اقتدار لوگوں کی تعریف میں مدحیہ قصائد یا منظومات نہیں لکھیں، لیکن بزرگان دین، مخلص یا انسانوں یا اہل علم حضرات کی خدمات کو عوام سے روشن تھا اور ان کو اپنے فرائض منصبی کا احساس دلانے کے لئے ضرور تھیں لکھیں اس سلسلے میں دو واقعات کا تذکرہ یہاں بے جا نہ ہو گا۔

1952ء میں سرستید کے پوتے اور سر محمود کے بیٹے راس مسعود تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں لندن گئے سفر سے پہلے اخبار "وکیل" امرتسر نے ایک مضمون لکھا جس میں راس مسعود کو خطاب کر کے ان توقعات کو بیان کیا جوان کی ذات سے والی تھیں۔

۱۔ حامد حسن قادری، "خود نوشت حالات"، "اردو نامہ"، محلہ بالا، ص ۳

جب اکابرین قوم راس مسعود کو جہاڑہ پر سوار کرنے بھئی گئے تو نواب محمد بن الملک نے تقریب کی اور راس مسعود کو اخبار "دکیل" کا وہ پرچہ دے کر اس پر عمل کرنے کی ہدایت کی حامد حسن قادری کے گھر اخبار "دکیل" بھی آتا تھا اور "علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ" بھی ان سے یہ حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے راس مسعود کو خطاب کر کے ایک طویل نسلم بھی جونومبر ۱۹۰۷ء کے "علی گڑھ منتعلی" میں شائع ہوئی ۔

اسی طرح علامہ اقبال کی ذات سے بھی وہ بہت متاثر تھے کیونکہ ان کے ترانوں نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک نئی لگن، نیا ولہ اور جوش و خروش پیدا کر دیا تھا ۔

جب علامہ اقبال جرمی سے پی اپچ ڈی کر کے وطن آئے تو انہوں نے ایک نظم خیر قدم کہہ کر مدیر "محزن" شیخ عبدالقدار کو ارسال کی "محزن" کاشمار اس وقت کے اعلیٰ و مؤقر جرائد میں ہوتا تھا۔ علامہ اقبال کی بھی اکثر نظمیں اور مصنفات میں اس میں شائع ہوتے رہتے تھے۔ "محزن" میں وہ نظم علامہ اقبال نے بھی پڑھی۔ تو مولانا حامد حسن قادری کو خط میں لکھا ։

"میری آزو بھی یہی بھی کہ قوم کی علمی و تعلیمی  
خدمت کر دوں لیکن بعض مصلحتوں کی بتا پر میں  
بیرونی اختیار کرنا بہتر سمجھتا ہوں؟" (۱)

اسی طرح ۱۹۱۲ء میں حب شاہ دلگیر اکبر آبادی (۲) نے اپنا مشہور رسالتہ "تفاہ" اگرہ

۱۔ مکتوب اقبال نام مولانا حامد حسن قادری، غیر مطبوعہ مملوکہ ڈاکٹر خالد حسن قادری پر فریلندن یونیورسٹی ۔

۲۔ حضرت سید نظام الدین شاہ دلگیر اکبر آبادی آستانہ عالیہ قادریہ کے سجادہ نشین اور آنریئلی مجسٹریٹ تھے اور رسالت آپ کے ہاں میوہ کڑہ آگڑہ میں عرس کے موقع پر ایک عظیم الشان مشائخ رہنماء تھا جس میں اکبر آباد اور بیرونی شعرتے کرام بھی شریک ہوتے تھے۔

سے جاری کیا تو سب ہی یارانِ نکستہ دان کو صلاحتی عالم دی۔ شاہ صاحب بذات پر  
بھی ایک انجمن تھے۔ تمام عمر علم و ادب کی ترویج و اشاعت کے لئے کوشش رہے  
اور بڑی پورہ خلوص خدمات انجام دیں۔ ان کی صدا پر سب ہی نے لیتیک کہا اور اس طرح  
”نقاد“ میں تذکیر و دُور کے بڑے بڑے شعراء و أدباء کی اچھی خاصی محفل جنم گئی۔  
نیاز فتح پوری کی شہرت کا ذریعہ بھی یہی رسالہ ہوا۔ کیونکہ حامد حسن قادری اور نیاز فتح پوری  
عام طور پر اس کے لئے مضافین لکھا کرتے تھے اس لئے اس کے توسل سے دونوں میں  
غائبانہ شناسانی شروع ہوئی اور یہ غائبانہ دوستی ایک ہی شیخ پر مسلط چلتی رہی اور اس  
میں اس وقت اور مزید استحکام پیدا ہو گیا جب اس دوران نیاز فتح پوری نے بھی لکھنؤ سے  
اپنے رسالہ ”نگار“ جاری کیا اور قادری صاحب اسی طرح جس طرح ”نقاد“ کے لئے مضافین  
لکھا کرتے تھے ”نگار“ کے لئے بھی لکھتے رہے لیکن اس تین پیشیں سال کے عرصے  
میں دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایک دوسرا سے غائبانہ دوستی کے علاوہ روشناس  
نہ ہوا۔

۱۹۳۸ء میں ایک سلسلے میں مولانا حامد حسن قادری کا لکھنؤ جانا ہوا وہاں انہوں نے  
پروفیسر آل احمد سرور کے محلان پر قیام کیا۔ قادری صاحب نے چونکہ اپنے پروگرام  
سے نیاز صاحب کو مطلع کر دیا تھا لہذا بجانے اس کے کہ قادری صاحب طاقتات  
میں سبقت کرتے نیاز صاحب یہ نازی جیت گئے اور دونوں غائبانہ دوستوں کی پیشیں  
سال بعد سیلی مرتبہ روشناسی ہوئی۔

اسی طرح اور مناہیں مدد و پاک جن میں علماء و فضلاء اور شعراء و ادباء شامل  
ہیں اکثر سے مولانا حامد حسن قادری کے دیرینہ مرکم تھے۔

## ملازمت

مرزا غالب کا قول ہے کہ اگر کبھی شخص کا مشغله زندگی ہی اس کے لئے ذریعہ  
معاش بن جائے تو گویا یہ اس شخص کے لئے ایک طرح کا عیش ہے۔ مولانا قادری نے

بھی محلی کو پستہ کیا۔ اندر ہاما وہ اور کانپور میں شعبیہ تعلیم سے والیت رہے۔ ۱۹۴۷ء  
میں سینٹ جانس کالج آگرہ میں صدر شعبہ اردو کے عہدے پر فائز ہوئے اور ۱۹۵۵ء  
میں ملازمت سے سبکدوش ہوتے کے بعد اپنے صاحب زادے ڈاکٹر خالد حسن قادری  
کے پاس کراچی آگئے اور یہیں ۶ جون ۱۹۶۰ء کو استقال کیا اور پاپوش نگر کے قبرتی  
میں آسودہ خاک ہوئے۔ اپنے مشغله زندگی کے متعلق وہ خود تحریر کرتے ہیں :-

”حامد حسن قادری کا مشغله زندگی بجز لکھنے پڑھنے کے کچھ

نہیں رہا لذکرپن اور طالب علمی میں بھی کھیلوں اور میچوں میں حصہ نہیں لیا  
 بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ کھیندا کیا معنی، ان کو کھیل دیکھنا بھی نہیں آتا۔

متلاشیں میں گینید کی ضربوں اور آمد و رفت کے نام و نمبر ان کو نہیں آتے  
 متلاش کے کھیل کی قسمیں اور ترکیبیں بھی ان کو معلوم نہیں۔ ان کی درزش  
 صرف ٹھہر رہی ہے اب بھی روزانہ صحیح کوتین چار میل کا چکر لگا آتے  
 میں اس کے بعد دن رات یہ ہیں اور کتابیں“ (۱)

## آگرہ کا قیام

آگرے میں مولانا کا قیام مختلف محلوں میں رہا۔ اس سلسلے میں مولانا کے صاحبوں کے  
 ڈاکٹر خالد حسن قادری (پروفیسر شعبہ اردو لندن یونیورسٹی) سے جو تفصیلات  
 میں ان کے مقابلے آگرے میں مولانا نے باوجود استطاعت و وسعت ہونے کے  
 اپنے قیام کے لئے کبھی کوئی ذاتی مکان نہیں خریدا۔ جب آگرے کے سینٹ جانس کالج  
 میں آپ کا تقرر ہوا تو اس وقت آپ کے برادر خُرد مولوی عابد حسن فریدی صاحب  
 سینٹ جانس کالج آگرہ میں صدر شعبہ اردو تھے اور ان کا قیام پیپل منڈی میں ہتھ  
 مگر یہ مکان دو توں بھائیوں کی قیامگاہ بننے کے لئے کفالت نہ کرتا اس لئے بساون

۱۔ حامد حسن قادری، ”خود نوشت حالات“، ”اردو نامہ“، محولہ بالا۔ شمارہ ۱۹، ص ۳۳۰۔

گلی میں بیڈی ڈاکٹر "تارا" کا خرید کردہ مکان کرائے پر لیا اور جولائی ۱۹۶۷ء سے قادری صاحب اور فریدی صاحب وہاں مقیم ہوتے۔ یہ مکان ریٹائرڈ ڈپیٹ ڈاکٹر عبدالغفار صاحب مرحوم کے صاحبزادے سے عبد الرحمن الحسینی صاحب سے ڈاکٹر تارا نے خرید لیا تھا۔ کالا محل یا (کلان محل) جہاں مرزاغاں لب کا رکھنے گزرا یہ ان سے قریب ہی واقع ہے تھیں ہند کے بعد اب یہ ایک گزر ڈگری کالج میں تبدیل ہو گیا ہے۔

## عادات و اخلاق

عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ "پردم سلطان بود" والی شال پر عمل کیا کرتے ہیں اور ان کے قول و فعل میں مناسبت و مطابقت بہت کم ہوا کرتی ہے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ انسانیت ہی سب سے بڑا جب نسب سے اور بقول ایک مغربی مفکر کے کردار ہی ایک ایسی شجر ہے جس کے سلسلے تک انسان کی شخصیت پر وان چھٹی ہے مقصد یہ کہ انسان کی سیرت ہی وہ معیار ہے جس کی بدولت کسی انسان کی خلقت و بزرگی، ذلالت و پیش کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ انسان کا کردار اور اس کی ظاہری شخصیت ہی عام طور پر اس کی زندگانی کا ترجمان ہوا کرتے ہیں۔ اس کا اسلوب نگارش و تحریفات اور طرز لفظی اس کی نظرت کے آئینہ دار ہوتے ہیں کسی حد تک لباس کی وضع قطع یہی اس کی شخصیت کو سمجھنے میں مدد و معاون ہوا کرتی ہے لہذا مولانا حامد حسن قادری کی شخصیت کے سلسلے کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں بندوپاک کے نامور ادیب و نقاد پروفیسر خواجہ احمد فاروقی کے ذریعہ الفاظ میں کہنچی ہوئی مولانا حامد حسن قادری کی قلمی تصویر ہی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ لکھتے ہیں ।-

"خوب گورا چارنگ، معمولی ناک نقش، موٹی سی عینک

لگکے ہوئے سفید نورانی ڈارسی، پستہ قد، ببلے پتے، چھوٹی بوٹی کے چکن کی بہت صاف اور دہلی ہوئی شیر و انی، پتے کی پہلی دار سفید نوئی، جس کا کلفت اسی طرح قائم تھا لیکن نکے دار نہیں دصلی کی کسی مولویانہ اور گہری

علی گزہ کاٹ پا جامہ لیکن شخون سے اونچا آگرے کا سیاہ پپ گزارے  
بنے ہوئے ۔ (۱)

یہ تھے مولانا حافظ سن قادری۔ جامہ زیبی، نفاست اور بناشت و فرحت  
کا مجسم ان کی یہ نفاست و پاکیزگی اور بناشت و جامہ زیبی نا زیست یونہی قائم رہی  
اور یہ سادہ و پُر و فارغ شخصیت اپنی گوتا گوں خوبیوں کی وجہ سے آج بھی اسی طرح  
یاد کی جاتی ہے جیسے دور حیات میں پیش نظر رہتی تھی۔ وہ دراصل تکلف و تصنیع  
اور دکھاوت و بناوت کے قائل نہ تھے مگر اپنی سادگی اور وقار کو ہر حالت میں برقرار  
رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی تمام زندگی تصنیعیت تالیف، تحقیق و تنقید اور قلم و کتاب  
سے عبارت رہی ہے۔ شہرت اور نام و نمود سے بھیشہ بے نیاز و بے پرواہ ہے اکثر  
دیکھا گیا ہے کہ جب اعلیٰ سیانے پر اجلاس منعقد کیئے جلتے ہیں تو بہت سے نام و  
نمود کے خواہاں لوگ صدارت یا مجلس استقبالیہ کی نمبری کے ہی جوڑ توڑ میں لگ  
جلتے ہیں مگر قادری صاحب نے کئی مرتبہ بڑے بڑے مثاعروں اور جلسوں کی صدارت  
سے لوگوں کے اصرار کے باوجود پسلو تی کی۔ وہ صحیح معنی میں ایک عالم با عمل اور درویش  
صفت انسان تھے۔ علمی معاملات میں نہایت صاف گوناقد اور بے لگ سبقتر تھے۔ ان کی  
اعلیٰ اطرافی اور بڑائی کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کا بھی اعلیٰ اعلان  
اعتراض کر دیا کرتے تھے۔ وہ احباب کے محب، غیر دل کے مددگار اور طلبہ کے بے حد  
شفیق استاد تھے ایک اور بڑا صفت ان میں یہ بھی تھا کہ کبھی ہی عظیم المربیت و مقبول  
ترین شخصیت کیوں نہ ہو انہیں بات بُر ملا، بلا جھجک اور بغیر کسی رو رعایت کے کہہ  
دیسی بعد میں اس کے عواقب ذاتی خواہ کچھ بھی ہوں۔

مام دنیوی معاملات میں بھی وہ کسی قدر محتاط رہتے اور لحاظ و پاس داری سے کام

لہ احمد فاروقی، ذکر خواجہ، حافظ سن قادری، "مضمون" نقوش، لاہور ۱۹۵۵ء،  
شمارہ جات ۳۶-۴۷م، شعبہ دسمبر ۱۹۵۵ء، ص ۴۸۰۔

یتے اس کا اندازہ اس واقعہ سے نہ ہو سکتا ہے جو ان کی مشہور تالیف "داستان تاریخ اردو" کی پاکستان میں اشاعت کے ملے میں واقع ہوا۔ اس کتاب کے حقوق طباعت انہوں نے آنگھے کے ایک اشاعتی ادارے کے مالک لکشمی نرائن اگر وال کو دے رکھے تھے۔ ہندو پاک کی راہیں مدد و ہونے کے سبب کتاب میں پاکستان نہیں آسکتی تھیں اور بیان بھی کسی قسم پر دستیاب نہ تھیں۔ یہ دیکھ کر انہی کے خانوادے کے ایک عقیدت مند نے جو پاکستان کے صفت اول کے مشہور سپلائرز میں سے ہیں ان کے صاحب زادگان کے ذریعہ سے بی عرض کرنا چاہا کر دہ بیان "داستان تاریخ اردو" کی اشاعت کی اجازت دے دیں کیونکہ وہ کتاب پاکستان کی یونیورسٹیوں کی ڈگری کلاسیں کے نصاب میں شامل ہے اور طلبہ کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ہندوستان و پاکستان دو الگ مملکتیں ہیں اس کو بیان شائع کرنے میں کوئی قانونی قباحت بھی نہیں اور جب خود مصنف یا مؤلف اجازت دے تو کوئی بات ہی پیدا نہیں ہوتی۔ رمضان شریف کامبار کی ہمینہ تھا افطار کے وقت حسب معمول عقیدت مندان، تلامذہ اور صاحب زادگان سب مجمع تھے۔ افطار کے بعد سب نے نماز ادا کی اور دترخوان بھی گیا۔ گفتگو کا سلسلہ چھڑا اس وقت ان کے صاحب زادگان میں سے ایک نے کہا: "بیان! آپ" داستان تاریخ اردو" بیان شائع کرانے کی اجازت دے دیں میں شانتا نہ کر کارک فارمی صاحب غیر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور نہایت بر بھی سے کہا "اچھا تو... اب آپ زندگی کے ان آخری آیام میں مجھ سے بد دیانتی کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کے جملہ حقوق لکشمی نرائن کو سونپ چکا ہوں۔ اب کتاب ان کی اجازت سے تو چھپ سکتی ہے مگر میری اجازت سے نہیں۔"

اور اس کے بعد باوجود یہ دن پھر روزہ سے تھے اور سب کا شدید اصرار تھا مولانا نے کھانا نہیں کھایا اور خفگی کا اظہار کرتے رہے بعد میں یہی کتاب کراچی میں شائع ہوئی مگر اس وقت جب ان کے صاحب زادے سے ڈاکٹر مخالف حسن قادری نے آگرے سے لکشمی نرائن اگر وال کا تحریری اجازت نامہ ان کی خدمت میں بیٹھ کر دیا۔

لہذا دُنیوی معاملات میں بھی ان کا ایسا محتاط اور معاملہ سچا ہونا اور بھی ایک غیر ملک اور غیر مذہب کے آدمی کے ساتھ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ ایک ہون و خدا ترس اور شان استغنا کے مالک ہے۔

عوّما ایسے لوگ کم ہی نظر آتے ہیں جو سختی کے ساتھ اپنے اصولوں پر قائم رہیں لیکن ٹھے ان نوں کی بڑائی کا ایک راز یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی خوف، لاجح یا مفاد کی خاطر ذاتی اصولوں کا سودا نہیں کرتے۔ قادری صاحب کے کردار میں یہ بات شامل تھی کہ جو بات منہ سے نکلتی تھی نہایت ہی مناسب اور با اثر ہوتی تھی اور پھر وہ اس پر آخر دم تک قائم رہتے تھے مگر علمی و ادبی مجالس میں بطور کسر نفسی اور اخلاقی اپنی خلطیوں کا بر ملا اعتراف کر لیا کرتے تھے وہ زندگی کے اور تمام ہنگاموں سے بجا گئے مگر علم و ادب کی خدمت میں ہمہ تن مصروف رہتے۔ وہ اپنی جلوں، مثاعروں اور شبستوں میں شرکت کرنے سے بہت گھبرا تھے کیونکہ اس سے ان کے ادراد و فعالیت اور علمی کاموں میں خلل واقع ہونا لہذا یہ اپنی ہنگاموں سے بے زاری کی کبر و نجوت کے سبب ہرگز نہیں تھی اس سلسلے میں ڈاکٹر کشی کہتے ہیں "لندن یونیورسٹی کے ایک اساتذہ میں رالف رسیل موصوف بے دانع لمحہ میں اُردو بولتے ہیں وہ جب کراچی آئے تو مولانا سے اس طرح بلے جیسے کوئی عقیدہ تند مرید اپنے پرے سے ملے؟ مولانا قادری کچھ عمر اور کچھ تصوف کے سبب چینی جی علاقِ دنیوی سے اپنا رشتہ توڑ پچلے تھے" (۱)

اور حقیقت یہی ہے کہ قادری صاحب ایک عالم بالعمل تھے جن کے دل میں عشق خدا ، عشق رسول اور عشق مرشد کی شمع روشن تھی۔

وہ ایک درویش، عارف باللہ، صوفی، باصفا اور فطری طور پر عاشق رسول اور ماشی خدا تھے بہت سے مثالیوں سے مولانا کے پڑھوٹی دوستانہ مراسم لختے مگر اپنی گوشہ نشینی

لے کشی، ڈاکٹر سید ابوالحیز، "ہمارے حمد کا ادب و ادب" کراچی۔ جادید پرنس

کے سبب پہلو تھی کرتے رہے۔ اپنی اسی روشنی کے سبسلے میں خود ہی لیکھتے ہیں:-  
 ”بہت سے لوگوں نے ان کو صحی نہیں دیکھا اور انہوں نے  
 بھی بہت سے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ ارباب سیاست میں انہوں نے پڑت  
 جواہر لعل نہرو، ڈاکٹر اجندرا پر شاد، پتلت پنچھ، آصف علی، محمد علی جناح۔  
 لیاقت علی خاں وغیرہ بہت سے لیڈر ڈول کو نہیں دیکھا۔ گاندھی جی کو  
 بھی پہلی اور آخری یاد اس وقت دیکھا جب ۵ دسمبر ۱۹۴۷ء میں سینئریون  
 کا بخ آگرہ کے ڈائیس پر آ کر بیٹھے تھے؟ (۲)

اسی طرح ابھی جلوں یا مشاعروں میں جانے سے ان کو کوئی رغبت نہ تھی۔ ان کی ثمرت  
 کے سبب مختلف ادبی انجمنیں اور سوسائٹیاں اپنے سالانہ جلوں کی تقریبات کی صدارت  
 کے لئے کہتے تو وہ نہایت خوش اسلوبی سے مال دیتے۔ بقول مولوی شید حامد علی  
 ۱۹۴۱ء میں ماہنامہ افکار نے کراچی میں ”جشن جوش“ کے موقع پر ایک شاندار نمبر  
 نکالا اور اس موقع پر ایک شاندار تقریب بھاپرہ و گرام بھی ترتیب دیا گیا۔ صدارت  
 کے لئے قرعہ فال قادری صاحب کے نام بھلا اس تقریب کے روح و روان  
 مبین الحق صدقی، پیر حامد الدین راشدی اور مولانا ماروق الجزری وغیرہ نے مل کر  
 مولانا حامد حسن قادری صاحب سے درخواست کی کہ عہدہ صدارت کو قبول فرمائیں  
 مگر قادری صاحب نے اپنے روانی انداز میں انہیں مال دیا اور مکرتے ہوئے کہا  
 ”بعی میں تو ہمیشہ سے جشن و جلوس سے بھاگتا رہا ہوں اور اب آخر میں کیا اس جشن جوش  
 میں شرکت کروں گا؟“ اکثر یہ بھی ہوتا کہ مک کے منور اخبارات درسائل کے نائبے  
 آپ کا انٹر دیو بیٹنے آتے آپ سب سے نہایت ہری پُر خلوص انداز سے بیٹتے اور  
 خوب خاطر تواضع کرتے مگر انٹر دیو دیبنے کو ہرگز تیار نہ ہوتے اور وہ بھی آپ  
 کی مشاہد و بزندگی کے آگے مجبور ہو جاتے۔“

۱۔ حامد حسن قادری، مولانا، ”خود نوشت حالات“، ”اُردو نامہ“، محوالہ بالا، ص ۲۹۔

ریڈیو پاکستان کے ڈپی گنٹر و لہ جمیل نسیری جو سینٹ جانس کالج آگرہ میں  
مولانا کے شاگرد رہے ہیں بتاتے ہیں : " ۱۹۵۵ء میں جب آپ پاکستان آئے تو پانچ  
ایک عزیز راز مراد آبادی سے بننے کے لئے ریڈیو پاکستان کراچی آئے۔ راز صاحب  
نے ان کا تعارف ڈائیکٹر کھنزل ریڈیو پاکستان سے کرایا اس وقت دہائی کچھ اور  
بھی اہل علم و فن حضرات موجود تھے جنہوں نے اصرار کیا کہ قادری صاحب اپنی  
کوئی تقریر رکھا کرایں مگر قادری صاحب راہنی نہ ہوئے اور معذرت کر کے  
دالپیں چلے آئے۔

جانشیک ادبی جلسوں کی صدارت یا متأعروں کی صدارت کا تعلق ہے مولانا اس  
سلسلے میں خود یوں رقم طراز ہیں :-

" ادبی جلسوں اور متأعروں میں لوگ حامد حسن قادری کو صدر  
بنانا چاہتے ہیں اور ان سے تقریر کرانا چاہتے ہیں۔ مقامے پڑھوانا چاہتے  
ہیں مگر یہ ہر کام سے پہلو تھی کرتے ہیں۔ دہلی، آگرہ، علی گڑھ وغیرہ میں  
یومِ مومن، یومِ اصغر، اور یومِ ظفر مناسے گئے دو بڑے ادبی جلسے ہوئے  
حامد حسن قادری کو بھی دعوی کیا گیا بعض منتظمین نے خود آگرہ آ کر اصرار  
کیا لیکن انہوں نے بکھرا پڑھنا تو درکنار خاموشی شرکت بھی نہ کی (۱)  
 قادری صاحب کی ذات مجموعہ خوبی ہائی گوناگوں تھی۔ نماز کے علاوہ دو تین  
باتوں کے نہایت سختی سے پابند تھے خواہ کچھ ہو مگر ان میں شاذ و نادر بی فرق آتا تھا  
اول چیل قدمی کرنا دوم روز ناجپت عمری لکھنا۔ کم خوردن و کم گفتن و خوابش حرام" والا  
مقولہ بھی ان پر صادق آتا تھا۔ کیوں کہ ان کی خوراک بہت مختصر تھی۔ صحیح ملکے سے  
ناشترے کے بعد وہ چاۓ سے پیتے، ناشترے میں تھوڑا سا انڈے کا حلواہ اور ایک  
چھوٹا سا نرم بن ( Bun ) شامل ہوتا۔ انڈے کے ذریعہ بنائی جانے والی

لہ حامد حسن قادری، مولانا، "خود نوشت حالات" "اردو نامہ" محولہ بالا شمارہ ۱۹، ص ۲۱

اور دوسری چیزوں میں اس کا حلہ انہیں بہت مرغوب تھا۔ کھانے میں چاول اور گوشت خوب پسند کرتے تھے مگر غذا کے معاملے میں وہ اس قدر محتاط تھے کہ ایک آدھ چپاتی یا آدھی پلیٹ چاول حالانکہ دستخوان پر زنگار نگ کھانے پڑھنے ہوتے تھے۔ سیخ کے کلب، کیک، پنگ، چیلی، دہی بڑے دغیرہ بھی ان کو بہت پسند تھے اور اکثر شام کے وقت جب ان کی والدہ ماجدہ عصر یا مغرب کی ناز کے لئے باورچی خانے سے اٹھ کر جاتیں تو قادری صاحب باورچی خانے پر قابض ہو جاتے احمد ان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مرغوب غذا کے تیار کرنے میں لگ جاتے۔ (۱)

قادری صاحب کو تصویریں کھینچوانے کا خاص شوق تھا۔ وہ سال میں کئی مرتبہ اپنی تصویریں کھینچوانے تھے اور انہیں اپنی ڈائریوں میں چپا کر لیتے۔ عام طور پر بیٹے تکلف [Natural] تصاویر انہیں بہت پسند تھیں۔ ان کی سینکڑوں تصاویر اب بھی یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ تصویریں کھینچوانے کا ان کو اس قدر شغف تھا کہ سائیکل پر سوار ہیں تو تصویر اتر والی، چار پانی پر ٹھیک ہیں تو تصویر کسی باغ کی سیر کر رہے ہیں تو تصویر، کسی نے کوئی تحفہ پیش کیا تو تصویر، غرض پر کہ وہ موقع بہ موقع اپنی تصویر کھینچوانے رہتے اور اپنے پاس محفوظ رکھتے۔ مگر انہوں نے یہ تصاویر نہ کبھی کسی دوست یا رشتے دار کو بھیجیں اور نہ کسی اخبار یا رسائی میں جھلوپیں شاہ ایڈم کیپنی آگرہ نے جب ان کی کتاب "نقد و نظر" شائع کی تو اس بات پر بڑا اصرار کیا کہ سر درق کے بعد قادری صاحب کی تصویر بھی شائع کی جائے۔ اور جب سپبلش صاحب بہت پر ضد ہوئے تو قادری صاحب نے فرمایا کہ اچھا آپ فکر نہ کریں، "میری تصویر" ضرور شائع ہوگی" اور پھر میری تصویر کے خواں سے محقرسی مندرجہ ذیل عبارت اور ایک قلمع لکھ کر ان کو دے دیا۔ انہوں نے دہی میں و عن شائع کر دیا۔

قادری صاحب ایک نہایت ہی یادوں اور سلیقہ شوار انسان تھے ان کے ہر کام سے ایک نفاست اور شاکنی جملکی نظر آتی تھی۔ کتابوں کی ترتیب اور جامہ زیبی کے مولے میں بہت محتاط تھے کتابوں کی بڑی حفاظت کرتے اور بس بھی ہمیشہ صاف سھنرا پہنچتے گھر میں بچوں کو بھی صاف سھنرا بس پہنانے کی تاکید کرتے جس پر سختی سے عمل کیا جاتا۔ اگر داری لکھنے بیٹھتے تو بھی سو سو تکفات برستے۔ اگر کسی رسالے میں کوئی مضمون، نظم، یا غزل پسند آ جاتی تو اسے بڑی خوب صورت اور احتیاط سے کاٹ کر دائری میں چپاں کر لیتے۔ انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی سے کر اب تک جو مقالات۔ مضمایں نظمیں اور غزلیں دغیرہ رسائل کو دیں اور وہ شائع ہو میں ان سب کے تراشے ایک خوب صورت جلد میں ان کے ذاتی کتب خانے میں موجود ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کسی بھی کام میں بد سلیقی کو پسند نہیں کرتے تھے۔

---

[Marfat.com](http://Marfat.com)

## باب دوم

# مولانا قادری کے اسلاف اور

## بچھراوی تہذیب و تمدن

"بچھراوی" ضلع مراد آباد کا ایک قصبہ ہے۔ تحریر میں عموماً اسے بچھراوی ہی لکھا جاتا ہے مگر اس کا صحیح تلفظ "بچھراون" ہے۔ جیسے بدایوں لکھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ "بداؤن" اسی طرح تحریر میں علی گڑھ اور اعظم گڑھ لکھتے ہیں۔ اور بولتے میں یہ بھی "علی گڑھ" اور "اعظم گڑھ" بولے جاتے ہیں۔ (۱)

چنان تک مولانا قادری کے اسلاف کا تعلق ہے ان کا ذکر آگے آئے گا۔

یہاں بچھراویوں کی تہذیب و تمدن کے متعلق صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ انگریز دن کے ابتدائی زمانے میں یہاں مولویوں اور چھوڈھریوں کے خاندان آباد تھے جن کا کام زمین داری اور تعلیم و تعلم تھا۔ شام کو سب ایک جگہ جمع ہوتے اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتیں۔ مسائل حاضرہ پر تبصرہ ہوتا، مضامین و مقدمات کے سلسلے میں فیصلے دیئے جاتے اس کے ساتھ ہی شعرو شاعری ہوتی۔ فارسی علمی زبان تھی اس لئے اس میں شاعری کرنا بھی شرافت کی ایک دلیل تھی۔ علم سے تعلق مولوی خاندان کے لوگوں کا دراثہ تھا۔ یہی سبب تھا کہ اس خاندان کے بیشتر افراد تعلیم و تدبیس کی طرف راغب رہے اور زمینداری کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔

---

۱۔ طاہر فاروقی، ڈاکٹر مولوی محمد، "متاہیر بدایوں" مخطوطہ، ملکوکہ مصنف، ص ۲۔

مولانا حامد حسن قادری کے آباؤ اجداد موضع ڈھکہ تحریل حسن پر صلح  
مراد آباد کے تھے۔ ڈھکہ فریدی حضرات کا مستند مکن تھا۔ یوپی میں چار پانچ مقامات  
مستند اور مصدقہ ہیں جہاں شیخ شیوخ العالم بابا فرمادین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ  
علیہ کی اولاد امداد آ کر آماد ہو گئی تھی۔ ڈھکہ کے یہ فریدی حضرات پیری مریدی کے  
علاوہ کاشت کاری اور زمینداری بھی کیا کرتے تھے۔ بعد میں ان کی حیثیت نہ ہوا  
کاشت کاروں کی روگئی اور جوز میں دارہ باتی رہے وہ بھی معمولی حیثیت کے۔  
ان حضرات میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو باہر گئے۔ تعلیم حاصل کی اور بُرے کاروں  
ہوئے۔ مولانا قادری کے جد امجد مولوی مقبول عالم صاحب جو پانچویں پشت میں  
دادا تھے۔ یہ ڈھکہ پھر لکڑے پھرالیوں آگئے تھے۔ ان کی اولاد میں رہی اور یہاں  
کے خواص میں پردوں اور مولویوں کے خاندان کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کا خاص  
سبب یہ تھا کہ یہ لوگ ذمہ بہ و شرعیت کے سختی سے پابند تھے اور اخلاق  
و کردار بھی مثالی رکھتے تھے۔ ان میں سب سب سب سے لوگ علم و فضل سے آواستہ  
ہوئے اور انہوں نے مختلف علمی و ادبی اور تعلیمی و تدریسی متأفل اختیار کیے۔  
زمینیں رکھتے ہوئے بھی ان میں زمینداری اور جاگیرداری کی بُو باس نہ آئی بلکہ  
رفتہ رفتہ زمین داری بھی کاشت کاری تک محدود ہو کے رہ گئی۔

پھرالیوں میں اس وقت دوسرے جو خاندان آباد تھے اور جن کو "مولویوں"  
کا خاندان کہا جاتا تھا۔ ان سے مولوی مقبول عالم صاحب کے خاندان سے رشتہ ناطے  
ہوئے اور پھر یہ سب بمل کر "مولوی" کہلاتے ہے۔ اس وقت پھرالیوں میں دوسرا  
برائی قبیلہ چودھری صاحبیان کا تھا۔ یہ نو مسلم راج پوت کے جاتے تھے۔ مولویوں  
اور چودھریوں میں دوستانہ روابط و مراسم بھی تھے مگر جاگیر دامانہ و زمیندارانہ  
روابطیں و مخاصمتیں بھی پیدا ہوتی رہتی تھیں۔ تیسرا بڑا طبقہ ہندوؤں کا تھا۔ ان میں  
زمین داری سے زیادہ ساہو کاری بھی مگر عموماً مولویوں اور چودھریوں ہی کو پھرالیوں کی ناک  
سمجا جاتا تھا۔ انہی سے پھرالیوں کا سارا بھرم قائم تھا۔ ہندوکم تعداد میں تھے اور ان کے

مقابلے میں کوئی مرتبہ نہیں رکھتے تھے۔ باقی آبادی چھوٹی ذات کے اور مختلف پیشوں کے لوگوں کی تھی۔ یہاں کی کل آبادی دس سے پندرہ ہزار تک رہی ہے۔

گذشتہ صدی میں ”مولوی خاندان“ کے پھرالوں میں کمی قبیلے اور خانوادے تھے۔ حضرت شاہ عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعظم پور کے بڑے بزرگ تھے ان کا شجرہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تھا۔ ان کا مزار شریف اعظم پور ہی میں تھے۔ اعظم پور پھرالوں کے قریب ہی ہے۔ یعنی دھکہ سے پھرالوں کوں پر ہے تو اعظم پور اس سے بھی کم شاید پندرہ میں کوس ہو گا۔ راستے ہی میں پھرالوں اور اعظم پور کے درمیان ایک گاؤں آتا ہے۔ ”کھابڑی“ اسے کھابڑی شریف کہتے ہیں اس لئے کہ وہاں ایک بزرگ کانوگر مبارک مزار ہے جس کے متعلق مشور ہے کہ یہ صحابی تھے۔ اور اسی عہد میں تشریف لائے تھے۔ اعظم پور شاہی دور میں مشہور مقام تھا۔ امراء سے محمد یہاں رہتے تھے۔ ابوالفضل اور فیضی کے مدرسے کی عمارت پہنچتا ہیں سار قبل تک محفوظ تھی۔ کہتے ہیں ان بھائیوں نے یہیں ابتدائی تعلیم پائی تھی۔ بعد میں شہروں میں گئے۔ اب یہ عمارت تو اصلی حالت میں نہیں البتہ اثار و نثار باقی ہیں۔

غرض یہ کہ حضرت شاہ عبدالغفور کی ایک شاخ پھرالوں آنکے آباد ہو گئی تھی ان حضرات میں بڑے زمیندار اور بڑے اہل علم پیدا ہوئے۔ حضرت مفتی نور الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اودھ کی نوابی میں لکھنؤ میں ”مفہی اعظم“ کے منصب پر فائز تھے۔ ان کے پوتے مولوی منظہر اللہ صاحب، تحصیل دار تھے۔ اور ریاست رام پور میں نواب مشائق علی خاں تھا۔ کے قبل از وقت استقال کے بعد ر نواب حامد علی خاں کی کم سنی کے سبب منتظم اعلیٰ رہے۔ یہاں یہ تباہیا بے جا نہ ہو گا کہ ریاست رام پور روہیلہ گھنڈ مکشی میں بریلی اور مراد آباد کے درمیان میں لائیں پرہ واقع ہے۔ مکشی یہاں دائرائے کامائندہ یا ایجینٹ ہجوا کرتا تھا۔ اس نے جو انتظامیہ ان دنوں میں یہاں قائم کی۔

مولوی مظہر اللہ صاحب اس کے ایک اہم رکن تھے اسی لئے ان کے خاندان کے لوگ اور قادری صاحب کے والد مرحوم دغیرہ ان دونوں رام پور آکر پہنچ لگتے تھے اور سرکاری ملازمتوں پر فائز تھے یا وکالت دغیرہ کرتے تھے۔

مولوی کریم اشتر خاں صاحب، صدر القادر (سب صحیح) تھے۔ مولوی مقبول عالم صاحب کے پوتے (مولانا قادری کے پیر دادا) مولوی محمود عالم صاحب سرشنستہ دار تھے اور بخور میں تعینات تھے۔ ۱۸۵۱ء کی جنگ آزادی میں سرستیدہ بھی بخور ہی میں تھے۔ دونوں میں اپنے دوستانہ مراسم تھے۔ ہنگاموں کے سبب جب سرستیدہ کو بخور چھوڑنا پڑا اُز مولوی محمود عالم صاحب کے ساتھ اُفیل۔ پھر الوں ہی میں اُکر مقیم ہوئے جس کا ذکر "حیاتِ حاویدہ" میں مولانا حائل نے بھی لکھا ہے۔ ڈاکٹر مولوی محمد طاہر قادری صاحب ان دونوں کی سُنی ہوئی تکھریلوں روایت یہ بتاتے ہیں کہ:-

"بُہلیٰ میں سرستیدہ کی ایک جو قیمتی گہبیں گر گئی بھی پھر الوں پسخے تو کیا پہنسیں۔ اس وقت کے پھر الوں میں دلی کی نری کی جو قیمتی کہاں۔ مجبوراً پھر الوں کے چارہ کی بنائی ہوئی ادھوڑی (۱) اسڑالی جوتیاں سرستیدہ کو پہنسی پڑیں۔ انہوں نے ایسا بڑا جوتا کبھی کاہے کو پہننا تھا بڑی تکلیف ہوئی ہو گی۔"

مولوی محمد علی صاحب بھی پھر الوں کے ایک بڑے رئیس تھے۔ ان کے پوتے مولوی حامد علی صاحب سے مولانا قادری کی اکتوبری بہن طوب تھیں۔ یہ مولوی کریم اللہ خاں صاحب کے پوتے تھے۔ محمود الحسن صاحب جو کہٹ اُن پکڑ بنے۔ انہی کے بھائی تھے۔ خان بہادر مسعود الحسن جولندن سے پیر سڑا بیٹ لاد ہو کر آئے تھے۔ نواب حامد علی خاں کے انتقال کے بعد ریاست رامپور میں چیف مشریعی رہے۔

مولانا قادری کی جوانی کے زمانے میں پھر الوں کو بیان کے مولوی رو سا اور الکابر کے سبب بڑی عزّت اور شہرت حاصل ہو جئی تھی۔ مولوی قیام الدین صاحب، مولوی

عبد الحفیظ صاحب اور قادری صاحب کے عہم محترم پروفیسر مولوی حسن فاروق صاحب اور دیگر رفقاء کی بدولت معن شو قیہ طور پر پھر انہیں میں "بچھراں کلپ" کے نام سے ایک علمی و ادبی انجمن قائم ہوئی۔ مولوی خاندان کے سب بزرگ اس کے رکن اور سب نوجوان اس کے کارکن تھے۔ اس صدی کے اوائل میں کلب کی دعوت پر یہاں کئی بڑے جلسے ہوتے جن میں مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے اکابرین نے شرکت کی اور ملی و نہ ہی جلسے ہوتے رہے مگر بعد میں یہاں نوجوانوں کی کوششوں سے ڈرامے، مشاعرے، اشعاری مطلبے، بیت بازی، اور اسپورٹس وغیرہ بھی ہونے لگے۔ اس کلب کی رونقی اور سرگرمی آخود کم برداشتی وجون کی تعطیلات میں عرفج پر ہوتی تھیں کبھیوں کہ ان اوقات کے علاوہ بیشتر نوجوان اور جوان سال افراد تعلیم یا ملازمت کے سلسلے میں پھر انہیں سے باہر ہوتے تھے۔ ان مخلوں میں نشیتیں عام طور پر فرشتی ہوتی تھیں البتہ کرمی کے موسم میں منڈھے اور ہر سیاں، آرام کر سیاں ہوتی تھیں۔ پان اور حلقے کا دور بھی چلتا رہتا تھا۔ چلائے ابتدا میں مطلق نہ تھی۔ بعد میں اس کا رواج ہو جانے پر اس کا دور بھی چلنے لگا۔

دیوان خانوں میں یا موسم گرم میں صحنوں میں جوشیتیں ہوتی تھیں عام طور پر تھا صی طویل ہوتی تھیں اور عموماً پابرج پابرج چھپھے گھنٹے صرف ہو جاتے تھے۔ ان مخلوں میں ہر طرح کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ شعرو شاعری، قصتے کہانیاں، ذاتی تجربے، مقامی واقعات اگر کوئی شاعر موجود ہے تو اس کا نازہ کلام اور اگر کوئی ادیب ہے تو اس کی نازہ خلائق اگر کوئی سفر سے واپس آیا ہے تو اس کے تجربات اور یا ہر کی دنیا کی نئی نئی باتیں بعض اوقات اخبارات بھی پڑھے جاتے اور سب سنتے تھے۔ کبھی اخبارات کی خبروں پر تبصرے ہوتے مثلاً جنگ بلقان، جنگ بطرابیں، پہلی جنگ بخطبیم کے نازہ حالات۔ اسی طرح خداون میں پیش آنے والے واقعات اور حکومت کے لئے قوانین یا مرکزی اسمبلی کی کارروائیاں اور تقریریں زیر بحث آئیں۔ ایسے موقعوں پر جانے والے اگر کمی افراد ہوتے تو وہ بھی باری باری سے آداب گفتگو کو ملحوظ رکھ کر بات کرتے۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح بیک وقت کی کمی ادمیوں کا بدنہ بڑا معیوب تھا۔ کوئی دوسرے کی بات کو کافی نہ

کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اول ایک بتوادوس سے سنتے۔ اگر کوئی بات تفصیل طلب یا قابل بحث ہوتی تو سوال و جواب میں مکمل آداب اور توانن و شاستگی برقرار رکھی جاتی ہتی۔ نیا آنے والا محفل میں شامل ہوتا تو آداب و سلام اور خوش آمدید کے باہمی مراسم عمر اور مرتبے کے لحاظ سے ادا کیے جاتے۔ اسی طرح اگر کوئی درمیان سے اٹھ کر جانے لگتا تو عذرخواہی اور آداب کے ساتھ خصوصیت ہوتا۔ اس دوران پان اور حقے کا درجہ باری رہتا۔ چھوٹے بڑے کے سامنے حقہ تو پی ہی نہیں سکتے تھے۔ پان بھی نظر بچا کے اور چپا کے کھاتے تھے۔ البتہ بزرگ یا ان سے ذرا کم عمر کے مگر خاصے برشے حضرات حقے اور پان میں شرکیب رہتے تھے۔ اس زمانے میں چائے یا سوڈا یعنی دغیرہ کار و اج نہیں ہوا تھا البتہ گرمیوں کے موسم میں یہ ضرور ہوتا کہ شربت کا دور جلت۔ یا کوئی معترض شخص آس کے شامل ہوتا تو اس کی فضیافت کے لئے شربت لایا جاتا جس میں دوسرے بھی شرکت کرتے۔

مولانا قادری کی نوجوانی یا لاکپن سے پہلے کے بزرگوں میں کھیل کو دکار والج نہ تھا۔ میدانی کھیل تو مردوں ہی تھے۔ داخلی کھيلوں میں بھی گنجفہ، شطرنج اور چوسر بھی عام مخلوقوں میں نہیں ہوتے تھے۔ بزرگوں میں سے بعض شطرنج کے شوقین تھے۔ یقول مولوی سید حامد علی صاحب داکٹر مولوی محمد طاہر فاروقی صاحب کے والد بزرگ دار پروفیسر مولوی محمد محسن فاروقی صاحب شطرنج کے بہترین کھلاڑی تھے مگر ان کے مخفون احادیث تھے اور وہ صرف انہی کے ساتھ شطرنج کھیلتے تھے۔ وہ بھی اکثر بعض دضر سے اچاب کی بخشیوں میں۔ البتہ کبھی ان میں سے کوئی فاروقی صاحب کے بہان آ جاتا تو وہیں بساط بچھ جاتی تھی۔ دوسرے بزرگوں میں فاروقی صاحب جیسے شطرنج کے کھلاڑی دیکھنے سننے میں نہیں آئے۔

دیوان خانوں میں یا بھی گھر یو مخلوقوں میں علمی، ادبی اور شعری گفتگو میں البتہ اکثر وسیطہ ہوا کرتی تھیں۔ جو اعززہ باہر کے شرودوں میں تھے، جب وہ پھر اوبیں آتے تو ان کی موجودگی میں جموماں سے ایسی باتیں سنی جاتیں۔ سوال کیے جاتے اور تشریح و تسلیح کی جاتی۔ اس گفتگو کے دوران چھٹے اور کم عمر بھی مخلوق میں موجود ہوتے تھے اور ظاہر ہے کہ

ان تمام باتوں سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا تھا۔ کم عمر دن کی تربیت اور تعیین کے لحاظ سے یہ محفوظ نہایت حفید ہوا کرتی تھیں۔ یہ بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ یہ کم عمر لوگ عموماً خاموش سامع کی حیثیت میں ہوتے تھے۔ ایسا شافرہی ممکن تھا کہ ان کے دل میں کوئی خیال اور سوال آئے اور وہ گفتگو میں مداخلت کی جرأت کریں اس دور کے طریق و آداب آج کل کے آداب و اطوار سے قطعی مختلف تھے۔ اس زمانے میں آج کل کی سی رد و فتح اور نقش و جرح اور مداخلت بے جا کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ غرض کنشت و برخاست، بات چیت، آمد، رفت، میل ملاقات میں اس ننانے کے روایج کے مطابق نام ادب و آداب فائم تھے۔ بچھرا لوں اور مراد آباد ہی کیا یوپی بیرون میں شرف کی محفوظ کا یہی دستور تھا۔ قصبات میں اور زیادہ اہتمام نظر آتا تھا۔ چھوٹے بڑے بڑے سامنے زانوئے ادب تھے کیونکہ رہتے تھے۔ تمیز و سلیقہ سے آہستہ آوازیں بات کرتے تھے۔ بلا سبب اور اپنی آواز میں کوئی بات نہ کرتا تھا۔ انٹھنے بیٹھنے اور سونے جل گئے ہیں رہی مکمل ادب و آداب ملحوظ رکھنے جاتے تھے۔ بچھوں کو تاکید تھی کہ سونے سے قبل آیتہ الکری ضرر پڑھ لیں اور صبح اٹھ کر سب بڑوں کو سلام کرنا ان کا فرض اُپنی تھا۔ کوئی شخص گھر سے باہر نکلا حتیٰ کہ اپنے گھر کے ہی مردانے جھتے یا دیوان خلنے میں آتا تو بھی شیر و انی اور ٹوپی پہننا لازم تھا۔ ٹوپی گھر کے اندر بھی ہمہ وقت سر پر ضرور رہتی تھی۔

ادب و ادب کی اس بزرگ نمائش کے سلسلے میں بیان ڈاکٹر مولوی محمد طاہر فاروقی صاحب کا بیان کردہ ایک لطیفہ ستدیا جائے تو اس دور کی تہذیب و تمدن کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

ایک بزرگ خاندان گرمیوں کے موسم میں صحن میں تشریف فرمائیں۔ دوسرے داشتہ دار مختلف عورتوں کے منڈھوں، چارپائیوں یا کرسیوں پر بیٹھیے ہیں مئی جون کا زمانہ ہے۔ ہم لوگ تعطیلات گرامیں بچھرا لوں گئے ہوئے ہیں۔ فریدی صاحب مرحوم بھی بیٹھیے ہیں اور میں بھی مودب حاضر ہوں۔

اتنے میں زادہ میاں<sup>(۱)</sup> آئے۔ اس وقت کوئی نو دس سال کے ہو گے انہوں نے کڑک دار آداز میں "استلام علیکم" کیا۔ چھا میاں مر حجم نے پاس بلایا۔ شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اور محبت کے اظہار کے بعد کہا "بیٹا! تمہیں یہ جلا ہوں کے سلام کرنے کا طریقہ کیس نے سمجھا یا ہے۔ دیکھو جب بڑے کے پاس جاتے ہیں تو ادب سے جھک کر ہاتھ مانھتے تک لا کر "آدب عرض ہے" کہا کرتے ہیں۔ زادہ میاں بے بی سے اپنے والد اور چھا کی طرف دیکھو رہے تھے کہ آپ نے ہی تو مجھے سلام کا یہ طریقہ سمجھا ہے۔ اب دفاع کیجھنے نا! مگر ہماری کیا مجال تھی جو ایسی حرکت کرتے۔ ایسا کرنا سخت بے ادبی ہیں داخل تھا۔ یہ تقریباً آج سے پچاس سال قبل کی بات ہے۔

یہ نام باتیں بیویں صدمی کے اول رویع سے متعلق ہیں۔ ۱۹۳۰ء کے بعد سے پہلے ادب و آدب میں جو تغیر رونما ہوا اس کی رقار بڑی تیز تھی۔ مغربی تہذیب کا سیlab اپنے ساتھ نام پرانی اقدار کو بہا کر لے گیا۔ اس اور پھر فیض پاکستان کے بعد پاکستان کے گھروں میں جو انقلاب نظر آیا۔ اس میں زمانے کے ساتھ اس بات کو بھی بڑا ذہل ہے کہ بیان "نؤ د ولیوں" کی کثرت ہو گئی۔ صنعت و تجارت نے دولت کی ریل پیل کر دی۔ پشت پرد کوئی "تہذیب اور ثقافت" نہ تھی۔ ان لوگوں کی دیکھادیکھی دوسرے جلدے سے جلد بکھرے۔ حتیٰ کہ وہ بھی جن کے گھروں میں پرانے آداب اور قدیم تہذیب کو دخل حاصل تھا۔ پاکستان میں شہری زندگی صرف چند شہروں تک محدود ہے اور ان میں ایسے ہی لوگوں کی کثرت ہے۔ بعض وہ شہر یا بڑے قبصے جہاں پرانے خاندان آباد ہیں۔ ان میں اب بھی قدیم روایات اور پرانے

۱۔ زادہ میاں فریدی، مولوی عاجیض فرمی، پر فہریز فارسی سینٹ جانس کالج آگرہ کے صاحبزادے جو آجکل چکوال کالج میں پسپیل ہیں۔

آداب کم و بیش نظر آ جاتے ہیں۔

بچھرالوں میں قدیم رسم درواج فاصم طور پر قائم تھے۔ عیدوں پر مکمل اہتمام ہوتا شب برات میں حلوا اور آتش بانہ دنوں کا خصوصی انتظام ہوتا۔ محروم کے عذرے میں سبیلیں لگتیں۔ کچھڑی کی دیگریں پکتیں، نذر و نیاز اور فاتحہ کا خصوصی انتظام ہوتا البتہ مولوی خاندان کے حضرات تعزیہ داری نہ کرتے تھے۔ مگر اس پر اعتراض بھی نہ کرتے بلکہ دوسرے مخلوقوں میں زیارت کے لئے تعزیوں پر جاتے۔ اسی طرح عذرہ کے دن تعزیہ مخفذے کے کرنے کے لئے کربلا کے جلتے جاتے تو سبیلیں لگاتے اور گھروں ہی سے ہی تعزیٹ کی زیارت کرتے۔ بعض خاندان بیان ایسے بھی تھے جو ان باتوں اور کاموں میں شرکیہ نہ ہوتے تھے۔ ان میں مولوی سلطان حسن صاحب، حکیم محبوب حسن صاحب اور مولوی عبد الحفیظ صاحب کے خاندان خصوصیت سے مشہور تھے۔ ان حضرات پر دیوبندی عقائد کا اثر تھا لہذا ان سب کو لوگ "وہابی" کہا کرتے تھے۔

بچھرالوں میں میلاد شریف کی مغلبیں بڑے اہتمام اور پابندی سے منعقد کی جاتی تھیں۔ بڑی مخلوقوں میں ساری برادری اور تمام خاندان کے لوگ مدعو ہوتے تھے۔ جبکہ چھوٹی مخلوقوں میں صرف گھر کے افراد اور قریبی رشتہ دار شرکت کرتے تھے۔ زنا فی اور مردانی دنوں طرح کی مغلبیں ہوتی تھیں۔

مولانا قادری کا لیکپن اور طالب علمی کا نامہ رام پور میں گذرा۔ اس زمانے کی کچھ علمی و ادبی باتوں کا ذکر خود انہوں نے اپنے مضمون "موسومہ" "حامد حسن قادری" (خود نوشت حالات) میں بھی یوں کیا ہے:

"حامد حسن قادری کو مرصا بین نشر و نظم لکھنے کا شوق رکپن ہی سے پیدا ہو گیا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ گھر میں علم و ادب، تعلیم و تعلم لاہی چہر جاتا تھا۔ ان کے والد عالم و فقیر و محدث تھے۔ فارسی کے شاعر تھے، ضغیم کلمات ان کی یادگار موجود ہے۔ تاریخ گوئی میں بھی کمال رکھتے تھے"

حامد سن قادری کو تاریخ گوئی کا شوق انہی کافیضان ہے۔ ان کے چھا  
ر مولوی محمد محسن فاروقی) اسلامیہ کالج پشاور میں فارسی و عربی کے پروفیسر  
ادبی و شاعر اور عالم و مصنف تھے۔ ان کے پاس اخبار و رسائلے گتے  
تھے۔ ان رسالوں کو پڑھ کر حامد سن قادری کو بھی مضافاً میں لکھنے کا شوق  
ہوا۔ سب سے پہلے انتخاب لا جواب لاہور میں ۱۹۰۲ء سے لکھنا  
شروع کیا پھر رسالہ "زمانہ" کان پور میں ۱۹۰۵ء سے "علی گرڈھ منتقلی"  
و "علی گرڈھ میگزین" کا پیشرو) ان کے علاوہ بھی اس زمانے کے اکثر  
رسائل میں مضافاً میں لکھے مثلاً "زبان" دہلی، شمس، ہلکتہ، "صحیح بیان"  
میسور، "آزاد" لاہور، "تہذیب" رام پور، "تہذیب نسوان" لاہور،  
یہ تمام مضافاً میں مدرسے و اسکول کی طالب علمی کے زمانے میں لکھے  
گئے ہیں؟ (۱)

مولانا قادری کی شخصیت کو نکھرانے اور ان کو علم و ادب کا شیرا بنانے میں  
رام پور و بچھراویں کی تہذیب و ثقافت کا بڑا دخل رہا ہے۔ اس کا انہا ازہ مولوی  
عبداللطیف خاں صاحب کو شترے کے اس بیان سے سخوبی ہو سکتا ہے:  
" قادری صاحب نے آنکھ کھولی تو ایک علمی گھر انے میں  
باب، چھا، ر مولوی محمد محسن فاروقی پروفیسر عربی اسلامیہ کالج پشاور)  
سب علمی منافق میں مصروف، مطالعہ کے ہادی اور تصنیف و تالیف  
کے شوقیں۔ ان کے والد عالم، محدث اور ایک کامیاب و کیلہ ہونے  
کے علاوہ ایک خوش گو شاعر اور بلند مرتبہ مصنف بھی تھے۔ قادری  
صاحب کا گھر، ان کے بزرگوں کے علمی ذوق اور ان کی علمی دستی کی

۱۔ حامد سن قادری، مولانا، "حامد سن قادری (خود نوشت حالات)"  
" اردو نامہ"، محولہ بالا، ش ۱۹، ص ۳۳۔

دھے کے ایک اپنے خاصاً "بیت الحکمت" تھا جس میں اہل علم جمع ہوتے، اخبارات و رسائل آتے اور پڑھے جاتے۔ علمی بحثیں ہوتیں اور ہمہ وقت شعر دادب کے چھپے رہتے تھے۔ تعلیم پانی تو مدرسہ عالیہ رام پور میں جو اس زمانے کے ہندوستان میں جامعۃ ازہر مصر کا قائم مقام تھا۔ اور جس کے شہر آفاق اساتذہ اپنے اپنے دارہ کمال میں، امام فتن کا درجہ رکھتے تھے اور حمالک دور دراز کے تلقین علوم شرقیہ ان کے سامنے زاوٹے تاگردی تھے کہ نے کو اپنے لئے باعث فخر جانتے تھے۔ (۱)

مندرجہ بالا اقتباسات سے پھرالیوں کی تہذیبی و تمدنی اور علمی و ادبی اقدار کا بڑی حد تک ادازہ ہو گیا ہو گا۔ پھرالیوں تہذیب و تمدن کی بڑی خوبی خلوص و سادگی اور اسلام کی اقدار کو بدھ قرار رکھتا تھا۔ مولانا قادری بھی اس سے بڑی حد تک متاثر ہوئے البتہ تقیم ملک کے بعد جو انقلاب آیا اس نے ان اقدار کو بڑی حد تک ختم کر دیا۔

تقیم ملک کے بعد جب زمین داری کا خاتمه ہوا تو مولوی خاندان کی دوسری شاخوں میں جوز میں دار تھے وہ سب بھی اس سے متاثر ہوئے اور حالات میں بڑا انقلاب آگیا۔ جن حضرات کے باغات بڑے اور وسیع تھے ان کے لئے تو باغات بہت بڑا ذریعہ معاش بنے۔ اس لئے کہ تقیم سے قبل جس باغ کی "ہمارہ" (فصل) پانچ سور و پے میں جاتی تھی۔ اب اس کی قیمت دس سے پندرہ ہزار تک ہو گئی ہے جس کے باغات چھوٹے تھے یا کم تھے ان کا حال ضرور ابتر ہے۔

لہ گشته، مولوی عبداللطیف خاں، "مولانا حامد حسن قادری"؛ "اردو نامہ" کراچی: جنوری تاریخ ۱۹۴۵ء، ش ۱۹، ص ۸-۹،

مولانا قادری کے سب بزرگوں کا دنیہ یہ رہا کہ لکھو پڑھو اور کھاؤ  
اسی لئے ان کے جدتی اعزاز میں بڑے اہل علم بھی ہوئے۔ ان کے عالم بزرگوار  
پر فیر مولانا محمد محسن فاروقی صاحب بڑے روشن خیال اور آزاد منش ان  
تھے۔ موصوف نے پچھرا یوں کے عوام کی فلاح و بہبود اور اصلاح کی خاطر ۱۹۱۶ء  
میں دہاں ایک مڈل اسکول بھی قائم کیا تھا۔ جو ایک عرصے تک چلنے کے بعد  
چند دن بہت کی بنا پر بند ہو گیا۔ خاندان کے رہکوں کے علاوہ پیرزادوں اور  
چودھریوں کے جن بچوں نے یہاں تعلیم حاصل کی تھی وہ بعد کو یہاں سے مراد آباد  
کے رضا ذگری کالج اور علی گڑھ یونیورسٹی بھی گئے۔ یہ مولانا قادری صاحب  
کے خاندان کی نور و ایت ہی یہ تھی کہ وہ اسکول کالج اور یونیورسٹی تک پہنچتے ہی تھے  
یہاں پاکستان میں بھی مولانا کے صاحبزادوں میں سے ماجد حسن فریدی صاحب نے  
خاندانی روایت کو قائم رکھتے ہوئے کہی اسکول قائم کیے جس میں سے "نیو میچنڈ  
اسکول" کا افتتاح خود قادری صاحب نے فرمایا اور قادری صاحب کی وفات کے بعد  
 قادری صاحب ہی کے نام پر ایک "مولانا قادری اسکول" دستیگیر کراچی میں بھی قائم کیا  
مولانا قادری کے عالم بزرگوار پر فیر مولوی محمد محسن فاروقی صاحب کے اصلی  
خیالات اور مخلصانہ جذبات کا اندازہ اس امر سے بھی ہو سکتا ہے کہ خاندان اور  
پچھرا یوں کی ترقی کا توازن کو خیال تھا یہ مگر استھن (Smith) نے اپنی  
کتاب "تاریخ ہند" میں خاکسار تحریک اور اس کے  
یافی علامہ مشرقی مرحوم کے اسلامیہ کالج پشاور کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے  
کہ ۱۔

" ان پر مولوی محمد محسن فاروقی کے خیالات کا بہت اثر پڑا  
تھا اور فاروقی صاحب علامہ جمال الدین افغانی" کے ارادت مندوں میں کے  
تھے۔

اس سے کا ذکر جب پر فیر مولوی محمد محسن فاروقی کے صاحب زادے

جناب ڈاکٹر مولوی محمد طاہر فاروقی سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ۔ ۱۔

” علامہ جمال الدین الفقانیؒ کی تحریریں سے اور تحریکیں سے  
اکثر تعلیمیافتہ اور روشن خیال مسلمان متأثر تو ضرور ہوئے تھے مگر میں اس  
امر کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ والد صاحب ان کے ارادت مند بھی تھے ۔  
غرض یہ کہ پرانے بزرگوں کے جو رسم و رواج، تہذیب و تمدن، ادب و آداب  
طور طریق، میل جوں، معاشرت و مراسم لکھر دیں اور مغلوں میں خصوصی شعائر کی  
پابندی، رہن سہن، رکھ رکھا د اور خلوت و جلوت میں جو خصوصیات پائی  
جاتی تھیں وہ سب بچھاروں میں پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں تھیں اور  
مولانا قادری کے خاندان میں تو یہ تمامیں سمجھوئی نظر آتی تھیں۔ کہ اچی آنسے پر  
بھی مولانا نے اپنی ان خاندانی روایات کو اسی طرح قائم رکھا جن کا ذکر اکثر  
حضرات نے اپنے مرضیاں اور مقالات میں بھی کیا ہے لیکن یہ حقیقت  
ہے کہ آج کے اس دور میں اور اس نسل میں اس کا تصور و تخیل بھی نہیں کیا  
جا سکتا۔ البتہ یا تو اوراق پاریتہ میں ان کی جھلک ملتی ہے یا کچھ بزرگوں اور  
پرانے لوگوں میں اب بھی اس معاشرت و مراسم اور طور طریق کی پابندی دیکھنے  
کو مل جاتی ہے ۔

**Marfat.com**

## باب سوم

### مولانا قادری بحیثیت نقاد

## فن تعمید اور اس کے مقاصد

ادب اور تنقید دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزم ہیں ان دونوں میں ہمیشہ سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ ادب زندگی کا آئینہ ہوتا ہے اس لیے یہ ہمارے لئے نہایت ہی دل کش و دل آؤنیہ ہے اور جب ادب وجود میں آتا ہے تو ہی سے تنقید کا بھی آغاز ہوتا ہے یعنی اس کو پر کھٹے کا شعور بھی بیدار ہوتا ہے جس کے لئے بعد میں اصول و قوانین بنائ کرہ باقاعدہ فن کے زمرے میں شمارہ کر لیا جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک شاعر و ادیب اپنی تخلیقات کو منتظر عام پر لانے سے پہلے ہر ایک شعرو بھلے کو جانپختا و پر کھتنا ہے۔ اس طرح وہ اپنی تخلیقات کا پہلا ناقد خود ہی ہوتا ہے اس سلسلے میں ڈاکٹر عبادت بریلوی کا قول ہے:-

”جس وقت بھی انسان کو یہ معلوم ہو جانا ہے کہ فلاں بات کو فلاں انداز میں نہیں بلکہ فلاں انداز میں کہنا زیادہ بہتر ہے اور جب بھی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو فلاں چیز سے زیادہ پسند ہے۔ اسی وقت سے تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت ادب کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے تنقید وجود

میں آجائی ہے۔ ” (۱)

وہ نقاد جو کسی ادیب و شاعر کی تخلیقات پر تنقید کرنے کی کوشش کرتا ہے درحقیقت ایک ایسی بات کو زیر بحث لاتا ہے جو زندگی سے نہایت قریب کا تعلق رکھتی ہے اسی طرح نقاد کسی شاعر یا ادیب کی تخلیقات پر تنقید کرتے وقت خود پر بھی وہی کیفیات و جذبات مسلط کر لیا کرتا ہے جو شعر کہتے وقت ادیب یا شاعر پر مسلط رہے ہوں گے۔

ادب اور تنقید زندگی کی ناطق افتدار ہیں۔ تنقید ادب کو سنوارتی ذمہ دار اور زندگی کے تجربات کو واضح کرتی ہے۔ تنقید کی بنیاد اصول و قوانین اور فہم و ادراک پر فائز ہے۔ ادبی تحریر دل کو تنقید کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد جو نتائج برآمد ہوتے ہیں ان کو بھی اس نظر سے دیکھنا کہ وہ کس حد تک سجا اور درست ہیں۔ تنقید ہی کام ہے ناقد تنقید کرتے وقت اجتماعی و انفرادی ذوق و میلان اور اقدار و اوقات کو بھی بدینظر رکھتا ہے۔ تنقید نیں ناقد کی بتکروں فن اور ذوق و پسند کو بڑا فعل حاصل ہے کیوں کہ اس کے ذریعہ ہی وہ ادب کی فنی حیثیت منعین کرتا اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کر کے ادبی احکام دیسکے کرتا ہے:

ادب اگر ادیب کے جذبات و احساسات کا آئینہ دار ہے تو تنقید اس کے وجود ان کی عکاس، تنقید مادی ارتقا، اور ادبی شعور کو زیر بحث لا کر حقائق کو منکشف کرتی اور منطقی استدلال و قیاسات کو عملی زندگی پر منطبق کرتی ہے۔ تنقید کے بلے میں ڈاکٹر عبادت بریلوی رقم طراز ہیں:-

”تنقید کا وجود زندگی کے لئے بہت ہی ضروری اور

اہم ہے اگر ان کو اچھائی برائی میں امتیاز کرنے کی تمیز نہ ہوگی۔ اگر برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دینے کا خیال نہ آئے گا، اگر اس کو

۱۔ عبادت بریلوی، ڈاکٹر، اردو و تنقید کا ارتقاء، کراچی، انجمان ترقی اردو، ۱۹۷۱ء، ص ۵۔

اس بات کا عمل نہ ہو گا کہ زندگی کن چیزوں سے زیادہ بہتر، زیادہ مکمل اور زیادہ خوشگوار بن جائے گی اور کن چیزوں سے غیر مکمل اور ناخوشگوار، اگر اس کا شعروں پر یہ امر روشن نہ کر دے گا کہ کن اصول پر گامزن ہونے میں اس کو طاقت کامنا کرنے پڑے گا، تو گویا اس نے زندگی کی اصلیت اور حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ خصوصیات ہر انسان کے اندر ہوتی ضروری ہیں۔ اسی کو تنقید کرنے میں، اسی کے ساتھ اسے وہ زندگی کے تہام اسرار و رموز سے واقفیت حاصل کرتا ہے اور یہ تنقید اس کے ہاتھوں اس وقت تک عمل میں نہیں آسکتی جب تک وہ زندگی کو پوری طرح نہ سمجھ لے۔ کیونکہ جب تک زندگی کے متعلق اس کو علم نہ ہو گا وہ اس پر راستے زندگی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو کسی خاص راستے پر کس طرح لگا سکتا ہے؟ یہ دونوں لازم و ملزم ہیں، زندگی کو بغیر پوری طرح سمجھنے ہوئے اس کی تنقید نہیں ہیں اور تنقید کے بغیر زندگی ایک قدم آگے نہیں پڑھ سکتی۔<sup>۱۱</sup>

ادب ماحول اور شخصیت سے چھوپتا ہے۔ تنقید ادب کے افادی اور جایا تی پہلوں پر نگاہ رکھتی ہے اور پاکینگٹنی خیال کے ساتھ طرز و اسلوب کی طرف توجہ دیتی ہے۔ تنقید فکر و فن کو نکھار کر نظم و ضبط کے اصول سکھاتی اور قلب و ذہن کو سیداری سخنی ہے۔ ناقد صرف ادب کا پارکھ ہی نہیں ہوتا بلکہ ادب کی تخلیق میں ادیب و شاعر کے ذاتی مشاہدات و مطالعات پر اپنی علمیت و بصیرت کی بنا پر گہری نظر ڈالتا ہے۔ ناقد اقدار کا تبااض، تجربات کا مبصر اور حالات و کیفیات کا مشاہد ہونے کے ساتھ ساتھ داخلی و خارجی حقائق اور عصری میلانات درجنات سے بھی بخوبی واقع ہوتا ہے۔

<sup>۱۱</sup> عبادت بریلوی، ڈاکٹر، ”اردو تنقید کا ارتقاء“، محوالہ بالا، ص۔ ۲  
مطبوعہ الحجمن ترقی اردو،

تنقید صرف عروض ادب کی مشاٹگی ہی نہیں کرتی بلکہ وہ ایک رہبر کی طرح اس کی رسمائی اور ایک مصلح کی طرح اس کی اصلاح بھی کرتی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ وہ ایک ماہر بحیم و مصالح کی طرح اسے صحت مند معاشرے سے بھی آشنا کرتی ہے شاعر یا ادیب کو بھی اکثر بقول سعدی : ع ” زمانہ یا تو زاد، تو بازمانہ بیان ” پر عمل کرنا پڑتا ہے اور یوں وہ دنیا کو بدلتے کی کوشش میں خود کو بھی بدلتا ہے اور سچرا پسند افکار و خیالات اور نقطہ ہاتے نظر کو اس انداز سے پیش کیا کرتا ہے جس سے اس کے دلی جذبات و احساسات کا بھی بخوبی انعکاس ہوتا رہتا ہے اور اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے نظریات و خیالات بھی اس سے الگ نہیں۔ نقاد اس کی تخلیقات پر تنقید کرتے وقت یہ بات بھی مدینظر رکھتا ہے کہ اس ادب و شاعر کے ذہن و دلاغ پر کیا کیا افکار و تخیلات سلطنت تھے اس کا ماحول کیا تھا؟ اس کے حالاتِ گرد و پیشیں کیسے تھے اور اس کے عہد کی اقدار کیا تھیں اور آج ان میں کس حد تک تغیر و تبدل روپا ہو چکا ہے۔

ماہیت کے اعتبار سے شاعر و نقاد میں کوئی واضح فرق نہیں بلکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ کہ نقاد عمل ” تبصرہ و تجزیہ کا زیادہ ماہر ہوتا ہے جب کہ شاعر اپنے اصول فن اور اسالیب سخن کا غیر شعوری احساس رکھتا ہے۔ نقاد کسی فن پاہے کے ادنی سے ادنی اجز کو بھی نظر انداز نہیں کرتا اور انہیں بڑی گہری نظر سے پرکھتا و جانتا ہے۔ اس کی نظر میں الفاظ کا زیر و نیم درد بست، لب و لہجہ کی نزاکتیں معنی کی گہرائیاں اور بلاغتیں سب ہوتی ہیں۔ نقاد میں یہ صلاح ہوتی ہے کہ وہ شعرو ادب کی ترجیحی کر سکتا ہے یادہ ان ہی کیفیات و تخیلات کو خود پر عیط کر سکتا ہے جیسی کہ خود شاعر یا ادیب پر ہوتی ہیں اور اس طرح وہ بجا طور پر اپنے فرض سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔

ہمارے ادب میں ایسی بست سی مثالیں موجود ہیں کہ شاعر بیک وقت شاعر بھی ہے اور نقاد بھی۔ اردو میں میر سودا، قائم، پجمی نواب شفیق، صائب،

بصحتی، میر حسن، شاعر ہوتے ہوئے نقاد کا کام کرتے رہے ہیں۔

ہمارا اردو ادب فارسی ادب کا مریون بنت ہے اس کے نام سالیب روایات، روز و علام، اشادات و کنایات فارسی کے ہی مشت کش ہیں۔ تعمیر حقائق کے لئے تشبیر و استعارہ، اشارہ و کنایہ اور صفات بذریع کا ویلہ بھی نہایت موثر و کار آمد ہے۔ فارسی والوں نے ان سب سے خوب استفادہ کیا ہے۔

در اصل فارسی میں اقل اول تنقید کے اصول مرتب و مدون نہ تھے اس لئے ایجاد میں اردو ادب بھی اس سے محروم رہا۔ دیگرہ اور فنون لطیفہ کی طرح تنقید کا آغاز بھی سب سے پہلے یونان میں ہوا۔ اہل یونان اپنی تنقیدی صلاحیتوں کا اظہار شعراء کے لکلام کے محسن و معائب بیان کر کے کیا کرتے تھے۔ اگرچہ ان کے پیش نظر تنقید کے کوئی خاص اصول و قوانین نہ تھے مگر اس میں ان کا ذوق اور پسند پیش پیش ہتھی۔ لہذا وہاں ذوق ہی معیار تنقید تصور کیا جانے لگا مگر ( Homer ) ہومر کی ایلیڈ ( Iliad ) اور اڈلیسی ( Odyssey ) کی تدوین کے بعد ان کے یہاں بھی تنقید کا بتدریج ارتقا ہونے لگا۔

اردو کی پیدائش اور اس کے مولد و مکن کے لئے بھی یوں تو کمی نظریے ہیں مگر عموماً وگ اس بات پر متفق ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد فارسی اور ہندوستانی کے اتصال اور میل جعل سے جوز بان وجود میں آئی وہ کمی ریخت، کمی ہندوی، کمی ہندی اور کمی ہندوستانی کہلانی۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں بھی فارسی کو سرکاری زبان قرار دیا۔ اور جوں جوں ان کی سلطنت کی حدود دیسخ ہوتی گیں اس زبان کے جانتے اور بولنے والے بھیلتے گئے۔ عربی مثل ہے کہ "الناس على دين ملوكهم"۔ اہل دربار نے بھی فاتحین کی سی وضع قطع، طرز و طریق، گفتگو و تبہہ، ادب و آداب، نشت و برخاست اور تہذیب دشائستگی کو اپنایا۔ ان کی طرح خوام نے بھی اپنا طرز رندگی انہیں فاتحین کی روشن پر اختیار کیا اور ان کی اس تنقید پر مختصر کرنے لگے۔ فارسی شاعری سے اردو شعراء کے متاثر ہونے کا سبب خصول زر اور قرب سلطانی بھی تھا۔ اس دور کے بیشتر شعراء کا لکلام تنقیدی و تصریحی نظر آتا ہے مگر اس دور میں بھی شعراء کے معائب و محسن پر نظر رکھی

جاتی تھی۔

یوں تو مغربی تنقید سے پہلے اردو میں بھی تنقید کا وجود بیاض ہو، تندکروں، تقریظوں، دیباچوں اور مکاتیب کی شکل میں ہوتا ہے مگر یہ نہایت محدود اور روایتی ہے۔ مغرب کے اثر سے اردو میں جو خوشگوار افضل فہرست ہوئے ان میں فنِ تنقید سب سے اہم ہے۔ مغرب میں جس شخص نے سب سے پہلے نہایت جرأت کے ساتھ اپنے تنقیدی خیالات کا اظہار کیا وہ جان ڈرائیڈن (John Dryden) تھا۔

یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے مقالات کے ذریعہ انگریزی تنقید کا سُنگب بنا دیا۔ یہ شخص اسنہ قدیم کا بھی ماہر تھا۔ اس نے شیکی پیر کے ڈراموں کا متاثر نہ کے ڈراموں سے موازنہ کر کے بتایا کہ یہ ان سے کسی طرح بھی کم مرتبہ نہیں ہیں۔

جان ڈرائیڈن (John Dryden) کو الزستجو کے دور کے تنقیدی نظریات اور فنی تخلیقات میں بعد المشرقین مختار آیا۔ اس دور میں نقادوں کا کام نظریات پیش کرنا اور تمثیل نگاروں کا کام ان کو رد کر دینا تھا۔

ڈرائیڈن (Dryden) کو بھی اس دور کے ادب اور تنقیدی اصولوں میں مغایمت پیدا کرنے میں بڑی دقت کا سامنا ہوا۔ لیکن اس کے بعد آنے والے دوسرے نقاد بھی یہ کسے بغیر نہ رہ سکے کہ ہر صفت اور ہر تصنیف اپنا معیار خود مقرر کرنے میں کیونکہ کبھی تصنیف کی کامیابی یا ناکامی کا دار دار اس کے قارئین کی اثر پذیری کی نوعیت پر منحصر ہے۔

ڈرائیڈن (Dryden) کی تحریروں کے اثر سے دیگر فنون بطيہ کے انتقاد نے انگریزی ادب کی تاریخ میں بہلی بار ایک اہم فن کی حیثیت اختیار کی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائیڈن (Dryden) کے بعد انگریزی میں تیزی سے لوگ تنقید کی طرف مائل ہونے لگے۔

جب ادب پر سیاست کے اثرات پڑنے شروع ہوئے تو ان اثرات کے تحت ادب اور زندگی کا چرچا ہونے لگا۔ تنقید نگاری کے بھی اصول و طریق اور قواعد و ضوابط ترتیب

دیئے جانے لگے۔ مغربی تنقید کے اثر سے اردو تنقید بھی نئی راہوں اور نئی منزلوں سے آشنا ہو چلی گئی اور تنقید نگاروں نے ادبی مسائل و یہودی گروپوں کو سلب ہانا شروع کر دیا تھا مگر اس میں کوئی کلام نہیں کہ صحیح معنی میں تنقید کی ابتداء حالت سے ہوئی ان کی "مقدمہ شعرو شاعری" ہمارے اردو ادب کے تنقیدی میدان میں پہلا قدم ہے۔ حالی کو تنقید میں اولیت حاصل ہے۔ ایک اعلیٰ نقاد کبھی ادیب یا شاعر کی تخلیقات کا یادہ بارہ بغير مرطاب کر کے اس کے دل کی نیفیں کو چھوڑ لینے کے لئے کوشش رہتا ہے۔ وہ اس کی روح کی گہرائیوں اور ذہنی کیفیتوں کا سراغ لگاتے کی کوشش کرتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ وہ متسام وارداتِ فلبیر کو بھی خود پر اسی طرح مسلط کر لینا چاہتا ہے جس طرح وہ خود اس شاعر یا ادیب پر طاری نہیں۔ اس سلسلے میں پر فلیر مخنوں گھور کھپوری لکھتے ہیں ۔۔۔

"نقاد کے لئے بھی کائنات اور انسانی زندگی کا مرطابہ اور مشاہدہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا شاعر کے لئے ورنہ وہ یہ نہ سمجھے گا کہ شاعر نے اپنی تخلیق کیلئے مواد کہاں سے حاصل کیا ہے، اور اس مواد کو اس نے جو صورت دی ہے وہ کس حد تک موزوں اور ناگزیر ہے۔ نقادر کو زندگی کے خارجی و داخلی واقعات و واردات کا ویسا ہی حقیقی اور سمجھر لپور شعور ہونا چاہیے جیسا کہ فن کار کے لئے ضروری ہے، نہیں تو فن کاری میں زندگی کی جو نمائشگی کی جائے گی نقادر اس کا احاطہ نہ کر سکے گا۔" (۱)

اس سے یہ مقصد تھیں کہ نقادر حالات و واقعات کے اضطراری نقوش و اقسامات کو ہی زندگی کے شعور سے تعبیر کر لے بلکہ شاعر کے ساتھ ساتھ اس کو بھی زندگی کی ارتقائی متأذل کا بخوبی علم ہو وہ ماہنی و حال کے ساتھ مستقبل کے امکانات کا تصور بھی رکھے۔ زندگی ایک متحرک حقیقت ہے، اس میں ماہنی، حال اور مستقبل کے نقوش ہر جگہ نمایاں ہیں۔ جب ہی تو نی۔ الیں۔ ایلیٹ (T.S. Eliot)

(۱) مجنوں گور کھپوری، "ادیب اور زندگی"، کراچی، مشہور آفٹ پرنس، ۱۹۷۹ء، ص ۳۵۔

یہ کے بغیر نہ رہ سکا کہ :-

”حال کے شعور میں ماضی کی پوری آگاہی کام کرتی ہوتی ہے اور مستقبل کا تصور حال کے شدید احساس سے بے تعلق نہیں رہ سکتا۔“

اس سے یہ سجھوئی واضح ہو جاتا ہے کہ فن کار و نقاد دونوں ہی کے لیے یہ امر لازم ہے کہ وہ ماضی کے مطابعے، حال کے متابعے اور مستقبل کے اشارے ٹینے دہن میں واضح رکھتے ہوں۔ اس سے ایک طرف فن کار کو تخلیقی کارناموں میں تو دوسری طرف نقاد کو تنقیدی حاکموں میں بڑی مدد مل سکتی ہے، اس طرح تخلیق و تنقید میں جو ایک گہرا ربط ہے وہ بھی برقرار رہ سکتا ہے۔

ماہر نفیات کی حیثیت سے تنقید، فن اور فنکار کی شخصیت میں جو ربط ہونا ہے اس کو پہچانتی اور اس کی وضاحت کرتی ہے۔ مؤرخ کی حیثیت سے تنقید ادب کے ادوار متعین کر کے اس کے عہد بعد ارتقاء کا جائزہ لیتی، اور ادب جن خارجی حالات سے متاثر ہوتا ہے ان کی بھی عکاسی کرتی ہے۔

پرانے زمانے میں جب کسی ادب پارے یا کتاب پر تنقید کی جاتی تھی تو صرف اس کے موضوع و مضمایں پر سرسری سی نظر ڈال لی جایا کرتی تھی اس کے لعنت و معانی صرف دخوا، وغیرہ کے سلے میں زیادہ بحث نہ ہوتی تھی لیکن موجودہ فن تنقید بہت بلند ہے آج جبکہ کوئی شخص تنقید کرتا ہے تو اسے یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ علم و ادب کی تاریخ میں یہ کتاب کس درجے پر رکھے جانے کی مسخر ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے اس کے مضمایں کو موضوع سے کہاں تک تعلق و مناسبت ہے اور اس تصنیف کو مصنف اور اس کے عہد و ماحول اور عصر حاضر سے کیا ربط و تعلق ہے۔

دور حاضر کا نقاد سب سے پہلے مصنف کے حالات و سوانح پر نظر ڈالتا ہے اس کی قوم و دھن اور خانوادے کو بھی پیش نظر رکھتا ہے اس کے سچپن اور عہد شباب کا بھی جائزہ لیتا ہے اس کے حالات گرد و پیش بھی اس کی نظر میں رہتے ہیں اس کی زندگی کے تجربات و متابعات پر بھی کڑی نظر رکھی جاتی ہے اور پھر

نقاد ان تمام پاؤں کو پیش نظر اس کی تصنیف کے سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ سب سے پہلے ارسطو نے یونان کے عظیم انشاد پردازوں کی تحریروں کو دیکھ کر اصولِ استقادِ ادبیات مرتب کیے یونان میں ہومرا (Homeric) عظیم شاعر تسلیم کیا جاتا تھا لہذا ارسطو نے دیکھا کہ ہومر کی نظموں میں پہلے تمہید یا تشبیب ہوتی ہے اس کے بعد وہ اصل واقع کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ پیش کر دیا کرتا ہے لہذا اس نے ہر زمینہ نظم (Epic poem) کو ان ہی تین حصوں (تمہید، اصل واقع، نتیجہ) میں تقسیم کرنے پر زور دیا۔ ارسطو کے بعد ٹوئر لیس (Horace) وغیرہ نے کچھ اور اصول مرتب کیے۔ سولہویں صدی کے ایک نقاد ارٹینور (Artino) کا مقید کے سلسلے میں خیال تھا کہ "شخص و انفرادی ذوق کے سوا نقد و استقاد کا کوئی معیار نہیں ہے"۔

**میتھیسو آر نلڈر** (Mathew Arnold) کا خیال ہے کہ "تقید وہ گوشش ہے جو ہم عالم خیال کی بہترین پیداوار کے سکھنے کے لیے کرتے ہیں اور اس گوشش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تازہ اور سچے خیالات کی ایک لہر پیدا کر دینتے ہیں"؛ فی ایس ایلیٹ (Thomas Stearn Eliot) نے مقید کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے پہلے حصے میں وہ دو سوال کر رہا ہے کہ:

۱۔ اشعار کیوں لکھے جاتے اور کیوں گائے جلتے ہیں؟

۲۔ یہ اشعار ہماری کوئی خواہش کو تکین دیتے ہیں؟

دوسرے حصے میں وہ شاعری کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کی مہارت کرتا ہے اور اس کی چند منزلیں بھی معین کی ہیں:

۱۔ شاعری سے لطف اندوز ہونا۔

۲۔ شاعری پر تبصرہ کرنا۔

(اس میں جنماتی طریقے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ذہنی مقید کا عصر بھی شامل ہو جاتا ہے)

۳۔ شاعری کو کما حقہ سمجھنا ۴۔ خیالات کو اذ سر نو ترتیب دینا۔

یعنی نئی نظم یا غزل چند نئے تجربات بخشتی ہے ان نئے تجربات کو اپنے دینے تجربات سے ہم آبینگ کرنا اور ان کے لئے اپنے عالم خیال میں مناسب مقام نامزد کرنا<sup>(۱)</sup>) ایڈٹ نے اپنے خیالات کو قدر سے عالمانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کا اندازہ بھی دلکش ہے لیکن اس نے اشعار سے کچھ زیادہ سروکار نہیں رکھا بلکہ نفسیاتی تحلیل پر زیادہ زور دیا ہے۔ نفسیاتی تحلیل ضروری اور بڑی حد تک ضروری ہے لیکن اشعار کو ان کی عبادت اور الفاظ کو سراسر نظر انداز کرنا غیر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اشعار اور نظمیں عام طور سے بہت زیادہ مرتب صورت میں پیش نہیں کی جاتیں۔ ان کے بعض گرشے بالکل تاریک ہوتے ہیں۔ اکثر مقامات پر الجھاؤ ہوتا ہے کہیں کہیں الفاظ کا صحیح مفہوم بھی واضح نہیں ہو پاتا یا کہیں اشعار کی وضاحت و تصحیح کی ضرورت بھی در پیش آتی ہے۔

نقاد کا کام تخلیقات کو جانتا اور پڑھنا ہوتا ہے اور یہ جا پہنچنے و پڑھنے کی صلات اک عظیمہ خداوندی ہے جو سر اک کو میر نہیں ہوتا۔ شاعر، مقصود اور نگ تراش، فنکار ہوتے ہیں اور فن کارانہ صلاحیتیں اکتابی نہیں ہوا کرہتیں۔ وہی ہوتی ہیں۔ اس طرح فن تنقید کے لئے بھی فن کارانہ صلاحیتوں کی ضرورت ہے اور جس طرح ہر فنکار کے فن پر اس کی شخصیت اور کردار کا نقش ثابت ہوتا ہے اسی طرح ناقد کے فن سے بھی اس کی شخصیت و کردار کے نقوش جھلکتے نظر آتے ہیں۔ وہ ایک چاہک دست با غبان کی طرح چمن بندی کر کے ادب و زندگی کا ایک معیار پیش کرتا ہے مثلاً علامہ اقبال<sup>۲)</sup> کی شاعری سے ہمیں ایک نیا جوش اور جذبہ اور دولہ و امنگ ملتی ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں ان کے مذہبی و سیاسی نظریات اور مدنیات کی تہذیب و تمدن اور اعمال و افکار کا مکمل نقشہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ اور اسی قسم کی نامہ با تین ہمیں اپنے ادب میں نظر آتی ہیں۔ ان سب پر ناقد کی کڑی نظر جو فی چاہئے۔

(۱) جو انکوہ، اردو ادب کا تنقیدی سرطائی "اگرہ: عزیزی پریس اگرہ ۱۹۵۱ع، ص ۱۵۔

ناقد کا کام نہایت اہم ہے اور اس کو اپنا کام سمجھن و خوبی انجام دینے کے لئے بڑے نظم و ضبط اور صبر و تحمل کی ضرورت ہے اس کے ہاں نہ دوست کا پاس ہو اور نہ دشمن سے خدا و نہ دولت کا لحاظ ہونا غربت سے تنفر وہ نہ چذبات سے مغلوب ہو اور نہ کسی کے جاہ و حشم سے مرعوب اور یہ باتیں کسی ہام کردار کے انسان میں ملنا نہایت دشوار ہیں۔ نقاد کی حیثیت ایک نجح یا منصف کی سی ہوتی ہے اور اسی حیثیت سے اس کا ایک اہم فرض صحیح فیصلہ صادر کرنا ہے۔ فیصلہ کرنے کے لئے غیر جانب داری ضروری ہے اگر اس نے ذرا بھی لحاظ و پاس داری سے کام لیا تو اس پر حرف آجانا لازمی بات ہے۔ اس کو دو متفاہد اقدار کو سامنے رکھ کر کھوٹے کھرے، اپھے بُرے، جدید و قدیم، بلند و پت، ہر چیز کے دونوں پہلوؤں کو واضح کر کے صرف ایک کی اہمیت کا اقرار و اعتراف کرنا ہوتا ہے۔

اس طرح نقاد تابیخی شعور کی روشنی میں تحقیق کر کے واقعات کو پیش کرتا اور فن پارے کی ترجیحی کر کے قاری کے ذہن کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ قاری کے ذہن کی تہہ بیت کرتا چلنے کے ساتھ ساتھ اقدار کی تخلیق، تحریک اور روایات کا فرق، ان کا معیار کے مطابق یا معیار سے ساقط ہونا، ان کی جدت و قدامت، ان کی ابدیت و خصیت وغیرہ تامہم، ہی باتوں سے قاری کو روشناس کرانا جاتا ہے۔

ناقد کے فرالفظ کے لئے اسکا ڈ جیمس ز

Scot James

کا قول ہے کہ ۔

”ناقد خاموش نہیں رہ سکتا، وہ ایک وقت میں کمی چیزیں ہوتا ہے۔ اس کی آواز دراصل قاری کی آواز ہوتی ہے جو منصف کی آواز سے ہم کلام ہوتی ہے وہ بعض امور کا جوانہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی تحریک کے مرکزی نقطے پر جا پہنچے اور آرٹلڈ کی طرح تازہ اور پچھے خیالات کی ایک نئی لہر پیدا کر دے۔ اب وہ ترجیحی اور وضاحت کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرنا بلکہ اس امر کی کوشش کرتا ہے کہ وہ صداقت

اور سخیدگی جو دنیا میں سب سے افضل ہے جلدے جلدے جلد عالمگیر ہو جائے ॥<sup>(۱)</sup>

اس کا بھی ( ) کے اس نظریے سے مترکھ  
ہوتا ہے کہ ناقد بیک وقت بصر بھی ہے ترجمان بھی، محقق بھی ہے مورخ بھی،  
اسی طرح فن کار کا بھی کمال اسی میں مضمرا ہے کہ وہ زندگی کے حقائق کا عکاس ہوا و  
جو ہمیں امید و رجا اور مسترت و شادمانی سے ہم کنار کر سکے کیونکہ بقول اقبال،  
شاعر کی نوا ہو کر مُفتی کا نفس ہو، جس سے چن افراد ہو وہ باد سحر کیا؟  
ہم ان ہی شہر پاروں کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جن میں حقائق  
زندگی کی صحیح اور مکمل ترجمانی ہوتی ہے۔ اگر فن پاروں میں حقائق کا فقدان ہے تو وہ  
فن کی ملندی کو نہیں چھو سکتے۔

اسی بات کی طرف اشارہ کرنے ہوئے ڈاکٹر یوسف حسن خاں "زخم اقبال" کے  
دیباچے میں تحریر کرنے ہیں:

"شعر جسی لطیف چیز جس کی پرداش آغوش وجدان میں  
ہوتی ہے منطقی تنقید و تحبسزی کی گراں باری کی متھل نہیں ہو سکتی جب  
تک کہ نقد و نظر کرنے والا اپنی فکر کو شعر کی طرح تخلیقی نہ بنالے وہ اپنے  
فرض سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ ضرور ہے کہ اس پر بھی کم و بیش اسی  
قیمت کی قلبی واردات گزر جکی ہو جس سے شاعر کو شعر کہتے وقت واسطہ  
پڑا تھا ورنہ اس کی تنقید خلوص سے عاری رہے گی، جس کے بغیر ادب  
حالیہ کی تخلیق ممکن نہیں۔ میں اس ضمن میں شعر کہتے والے اور شعر سمجھنے  
والے دونوں کو شامل سمجھتا ہوں، تنقید تخلیقی ہونی چاہیئے اس واسطے  
کہ اس کا مقصد و منتها ان کیفیات کی بازا آفرینی ہے جو شاعر یہ گزی  
نمیں۔ تحبسزی میں جب تک تخلیقی عنصر شامل نہ ہو نقد و نظر کا

(۱) عبدالشکور، "اُردو ادب کا تنقیدی سرمایہ؟" محوالہ بالا، ص ۳۹۰-۳۹۱۔

حق ادا نہیں ہو سکتا۔“ (۱)

اردو تنقید کے مسئلے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ دورِ جدید کی پیداوار ہے اور پروفیر  
کلیم الدین احمد کے خیال میں تو اردو تنقید کا وجود مخفی فرضی و خیالی ہے اور اس مسئلے  
میں وہ اردو کے قدیم تذکروں کو بھی خیال میں نہیں لاتے اور لاتے بھی ہیں تو اسے ادنیٰ  
درجے کی تنقید کہتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے بیشتر میں صحیح انتقادی فصیلے ملتے ہیں۔  
ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اردو کے اہم ایڈی دور کی تنقید ہے مگر اُس دور کا تنقیدی شعور  
چھ ایسا ہی تھا کہ عروض و قواعد کی موتگافیوں، حادرات و روزمرہ کے استعمال اور زبان  
و بیان کی نوک پلک سنوارنے پر زیادہ زور صرف کیا جاتا تھا اور شاعر بھی ایہام گوئی ،  
مبالغہ آنا لی اور صنعت گری وغیرہ کی طرف زیادہ مائل تھے۔

قدیم زمانے میں تنقیدی شعور کا پتا ہمیں مشاعروں یا تذکروں سے مل جاتا ہے جس  
طرح مشاعروں میں شعراء کے کلام کے خوب و ناخوب ہونے کا اندازہ داد و تحیین اور  
سکوت و خاموشی سے ہو جاتا تھا۔ اسی طرح تذکروں میں بھی تحسین و تکریم اور تنقید و  
تعزیز کی شکل میں اظہارِ خیال کر کے تنقید کا حق ادا کیا جاتا تھا۔ اس وقت کے تذکرے  
کسی تمہرے سے یا تنقید کی حیثیت نہ رکھتے تھے بلکہ یہ ادبی یادداشتیں یا خیرہ سمجھی قسم کی  
ابھی تاریخیں ہوا کرتی تھیں جن میں مرچیز سرسری اور مختصر طور پر بیان کردی جاتی تھی۔  
قدیم تذکروں میں نہ شرعاً کے مفصل حالات ہیں نہ ان کے حادات و اطوار کا کوئی خاص  
ذکر ہے نہ ان میں اس دور کی تہذیب و تتمدن، معاشرت و سیاست، اقتدار و اقدار  
اور تصورات و خیالات کی کوئی خاص جگہ نظر آتی ہے۔ شرعاً کے کلام کو منتخب کرنے  
میں بھی کوئی معیار و اصول پیش نظر نہیں رکھا گیا ہے۔ بہترین یا بدترین جیسے بھی اشعار  
جہاں سے بھی ہل گئے وہ پیش کر دیئے گئے ہیں۔ اُس وقت کوئی تنقیدی اصول و نظر یہ

(۱) یوسف حسن خاں، ڈاکٹر ”روحِ اقبال“ جیدر آباد دکن، ادارہ اشاعت اردو  
(مزاقی مثنیں پرنس) ۱۹۳۳ء (طبع ثانی) دیباچہ ص۔ ۱۵۰۶

یا کوئی کلیقہ قاعدہ تذکرہ نگار کے پیش نظر نہ تھا اس لئے جہاں کہیں اس نے مناسب و موزوں خیال کیا ہے سرسری طور پر اپنی راستے کا بھی اظہار کر دیا۔ اس طرح یہ تذکرے تنقیدی طور پر بالکل تہی دامان یہیں بلکہ بعض میں مفروضات و قیاسات سے بھی کام لیا گیا ہے لیکن پھر بھی یہ کہے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ اس دور کے تذکرہ نگاروں کے ذہن میں بھی شعرو ادب اور فکر و فن کے کچھ اصول و معیار ضرور تھے جن کو مد نظر رکھ کر، ہی وہ شرار کے کلام پر اپنے خیالات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور یہی اس دور کی تنقید تھی۔

دکنی دور سے لے کر انیسویں صدی کے وسط تک ہمارا تنقیدی سرمایہ صرف ان ہی تذکروں کی صورت میں تھا۔ لیکن ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد اردو میں سرستید احمد خاں کی سہرگیر اصلاحی تحریک کے سبب تخلیقی و تنقیدی دولوں ہی قائم کے ادب میں اضافہ ہوا۔ ۱۸۷۰ء میں سرستید احمد خاں نے "تہذیب الاخلاق" مباری کیا۔ اس ماہوار رسائلے کے اجراء نے اردو ادب کے قالب میں ایک نئی روح پھونک دی۔ سرستید کی یہ تحریک ایک نئے دور کا پیش خیمہ تھی بھی وہ دور ہے جب زندگی و ادب کے نئے نئے معیار متعین کیے گئے۔ سرستید نے ہر چیز کا تنقیدی نظر سے مطالعہ کیا۔ تہذیب و تمدن اور سماج و معاشرے کی اصلاح کے لیے زبان ادب کو اک برداشتیہ و ذریعہ سمجھ کر اس کا سہارا لیا۔

"تہذیب الاخلاق" نے جہاں ادبی و ثقافتی اور سیاسی و سماجی خدمات روشناس کرایا۔ "تہذیب الاخلاق" کے ذریعہ سرستید احمد خاں نے نواب محسن الملک، خواجہ الطاف جیں حاکم، مولانا شبیل نعمانی اور ڈپٹی نزیر احمد جیسی ہستیوں کے افکار کے ذریعہ مسلمانوں کی ذہنی نشوونگا کا کام کیا لیکن اس کے علاوہ "تہذیب الاخلاق" کا خاص مقصد تنقید نگاری کو بھی فروع دینا تھا اور بقول داکٹر محمد علی الدین قادری، زور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ "اردو میں تنقیدی ادب کی ابتداء کا سہرا سرستید ہی کے سرستے" ۱۱) زور، داکٹر محمد علی الدین "مردیج تنقید"، ص ۱۹۔

سرستید احمد خان نے اصلاح مذاق اور آزادی خیال کی جس تحریک کو شروع کیا تھا اس میں شعر و ادب کے سربراہ حآلی شبیل اور آزاد بھی تھے ان ہی سنتیوں کے ہاتھوں سرستید کے نظریات کی روشنی میں شعر و ادب کی تنقید کے معیار وضع ہوئے اور انہی لوگوں نے جدید تنقید کی بنیاد ڈالی۔

حالی کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب پرانی اقدار مٹتی جا رہی تھیں اور ان کی جگہ نئی قدر دوں نے یعنی شروع کر دی تھی ہر کم قوم کی گرفتی ہوئی بنیادوں کو سنبھالنے کی فکر میں تھا۔ حالی ان نام بانوں کے بہترین ترجمان و نقاد ہیں۔ حالی نے ادب و تنقید کو اک پُر خلوص مزاج اور نئے تغیرات و تخلیقات سے روشناس کیا۔ لیکن انہوں نے قدیم روایات و اقدار سے مکمل انحراف بھی نہیں کیا۔ ان کے لب و لمحے سے خلوص و انس متاثر و سنجیدگی اور گیرائی و گہرا فی نمایاں ہے۔ ان کا مقصد تنقید یہی تھا کہ جو لوگ ادب کو صرف تفریح طبع کا سامان تصور کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ ہر ادب کوئی نہ کوئی مقصد لئے ہونا ہے اور اس سے سماج و معاشرے کی عکاسی ضرور ہوئی چاہیے۔ قدرت نے حالی کو تنقید بخاری کی جملہ صلاحیتیں دلیعیت کی تھیں۔ ان کی تنقید دن سے ان کی بے بوئی وغیرہ جانب داری اور اعلیٰ ظرفی و سنجیدگی کا پتا چلتا ہے۔

مولانا شبیل اگرچہ مذہب کی طرف مائل تھے مگر ادب سے بھی خاص گناہ تھا وہ بیک وقت شاعر و فلسفی، نقاد و سوانح بخاری تھے۔ آزاد کے بیان بھی کم و بیش ایسی ہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ غرض جذبہ اصلاح اور نیا تنقیدی شعور و رجحان ان دونوں حضرات کے بیان بھی کا رفرما ہے اور انہوں نے بھی حالی کی طرح قدیم و جدید کے درمیان کا ستہ اختیار کیا ہے۔ اس طرح یہ بات سخوبی و اضطراب ہو جاتی ہے کہ ان تینوں حضرات کے ہان سماجی اصلاح کے خیال کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر عبادت برٹلی یونیورسٹری کرنے ہیں:-

”حالی، شبیل اور آزاد کی تنقید کے اثرات بہت گہرے اور ہمہ گیرتھے۔ ان کی تنقید کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو میں تنقید سے دل ہی پڑھنے

لگی اور سر طرف تنقید اور تنقیدی خیالات کے چرچے نظر آنے لگے علم و ادب سے دلچسپی لینے والے افراد نے اس طرف خاص طور پر توجہ کی۔ اپنے ادب سے دلچسپی لینے کی ایک فضابھی سر تنقید کی تحریک کے زیر اش پیدا ہوئی چکی ہتھی۔ اس بات نے تنقید سے دلچسپی کو اور بھی بڑھایا اور کئی لکھنے والوں نے اپنی دوسری مصروفیتوں کے باوجود تنقید بھی لکھنی شروع کی۔<sup>(۱)</sup>

اردو میں باقاعدہ تنقید کا آغاز مولانا حائلی سے ہوتا ہے۔ ان کے تنقیدی کا نام اور دو میں باقاعدہ تنقید کا پہلا شہرپارہ ہے جو آج بھی اردو زبان و ادب میں "مقدمہ شعرو شاعری" اردو تنقید کا پہلا شہرپارہ ہے احمد اردو ادب کے طالب علموں کے ذہن کی آبیاری میں ایک نگہ میل کی حیثیت رکھتا ہے احمد اردو ادب کے طالب علموں کے ذہن کی آبیاری کے لئے نہایت اہم خیال کیا جاتا ہے جس طرح یورپ میں اس طور کی "بوطیقا" یا "فن شاعری" کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اسی طرح حائلی کے "مقدمہ شعرو شاعری" سے استفادہ کرنا بھی آج کے ہر نقاد کے لئے نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اس میں حائلی نے شعرو سخن کے مختلف پہلوؤں کو احاجاً گر کیا ہے۔ "مقدمہ شعرو شاعری" کی اہمیت واضح کرتے ہوئے ڈاکٹر مولوی عبد الحق لکھتے ہیں:-

"مقدمہ شعرو شاعری" میں شاعری کی ماہیت، حیات و سماج سے اس کا تعلق اس کے لوازم، زبان کے مسائل، اردو شاعری کی احتساب، سخن، ان کے عیوب و محسن، اور اصلاح پر بہت معقول اور ملکگر آنے بحث کی ہے۔ اردو زبان پر تنقید کی یہ پہلی کتاب ہے اور اس موصوع پر اب تک اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔<sup>(۲)</sup>

(۱) عبادت بریلوی، ڈاکٹر، "اردو تنقد کا ارتقاد"؛ محوالہ بالا، ص، ۲۱۶  
مطبوعہ اجمان ترقی اردو، کراچی۔

(۲) عبد الحق، ڈاکٹر مولوی، "بادحالی" (رمضان)، "مسہ ماہی" اردو، دہلی:  
حوالی، ۱۹۳۵ء، ج ۲۵، ش ۳، ص ۲۳۶-۳۸۔

این اس کتاب "مقدمہ شعروشاوی" کا خاکہ خود مولانا حائلی نے بھی اپنے مکتوب میں یوں پیش کیا ہے:-

"میں ایک لمبا چورا مصنون مسلمانوں کی شاعری پر لکھنا چاہتا ہوں جس میں زبانہ مجاہدیت سے لے کر آج تک ان کی شاعری کی حقیقت لکھی جائے گی اور عربی، فارسی اردو اردو تینوں زبانوں کی شاعری پر بحث کی جائے گی مقصود اس سے یہ ہے کہ اردو شاعری جو نہایت خرا اور عصر ہو گئی ہے اس کی اصلاح کے طریقے بتائے جائیں اور یہ ظاہر کیا جائے کہ شاعری اگر محمد اصولوں پر مبنی ہو تو کسی قدر فرم وطن کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔" (۱)

حائلی کے بعد دور سرستید کے دوسرے بڑے نقاشی نعمانی میں جنہوں نے اپنے اعلیٰ ذوق سے تنقید میں اچھا خاصاً اضافہ کیا۔ وہ سرستید احمد خاں اور تجوہ اطاف حسین حائلی سے متاثر ہو رہیں تھے مگر انہوں نے ان کی بعض باتوں سے اختلاف بھی کیا ہے۔ وہ ادب میں صوری و جمالیاتی پہلوؤں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ شیلی کے نزدیک شاعری ذوقی و وجہانی چیز ہے وہ احساس یا جذبے کو شاعری کا دوسرا نام دیتے ہیں لہذا وہ "شعرالجم" جلد چہارم میں لکھتے ہیں:-

"جو کلام انسانی جذبات کو برائی گیختہ کرے اور ان کو تحریک میں لائے دے شعر ہے۔" (۲)

مولانا شبیلی بیک وقت ایک شاعر، عالم، نقاد، مورخ، سوانح نگار اور ماہر زبان و لسان ہیں۔ انہوں نے اپنی تنقید میں زبان و لسان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی

(۱) غلام مصطفیٰ خان، ڈاکٹر، "حائلی کا ذہنی ارتقاء"، لاہور، مکتبہ کاروان،

- ۲۳۳۔ ص ۳۵۔ ۱۹۵۶ء۔

(۲) شبیلی نعمانی، حلامہ "شعرالجم"، اعظم گردہ ندوۃ المصتفین، بیج چہارم ص ۳۰۲۔

ڈالی ہے۔ زندگی اور اس کے خوالق پر ان کی نظر گھری ہے جس سے ان کے تنقیدی شعور اور علم و تجربے کا سخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ مغربی علوم سے متاثر تو ہتے مگر مرجوں نہ ہتے وہ اہل مغرب کے علم و فن، تلاش و تشخص کے مذاج بھی ہتے مگر اسلامی تہذیب کو مٹا ہوا دیکھتا ہمیں چاہتے ہتے۔ انہوں نے نہ صرف خود حیثیت و تنقید کی اعلیٰ روایات قائم کیں بلکہ اپنے بعد ایسے ادارے اور شاگرد بھی چھوڑ گئے جو ان کی قائم کردہ روایات کو آگے بڑھا سکیں۔ ان کی تنقیدی تصانیف میں "شعراعجم"، "موازنہ انیس و دبیر"، ان کے بلند و پاکیزہ ادبی ذوق کی ترجمان ہیں۔

حالی و شبیتی کے بعد مولانا محمد حسین آزاد کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ان کی تصنیف "آبِ حیات" کو بڑی شہرت و مقبولیت حاصل ہے۔ یہ ان کی ادبی کاوشوں کا ثمر نورس ہے۔ بعض لوگ اس کو ارد و تنقید و تبصرہ کی ایک اہم کتاب سمجھتے ہیں۔ وہ بیک وقت محقق، نقاد اور صاحبِ طرز نشنگار ہیں۔ ان کی تحریروں سے ان کے تحقیقی و تنقیدی رجحان کا پتا چلتا ہے۔ ناقدین کا قول ہے کہ ان کی نشر میں بھی نظم کا سلطنت آتا ہے یہ بات اپنی جگہ سجا ہی مگر ایسی نشر جس میں نظم کا سلطنت آتا ہو تحقیقی و تنقیدی موضوعات کے نئے کبھی صورت میں مناسب و موزوں قرار نہیں دی جا سکتی لیکن بیاریں ہمہ ان کی "آبِ حیات" نے بہت سے مصنفوں کو آبِ حیات بخش کر زندہ جاویدہ بنادیا ہے۔

## مولانا قادری کے تنقیدی نظریا

آبِ حیات میں آزاد نے اردو شاعری کی تاریخ مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے مختلف موضوعات پر بھی تبصرہ کیا ہے۔ "نگاہستان فارس" اور "سخن دان فارس" کے مطالعہ سے بھی ان کے تنقیدی رجحان کی سخوبی عکاسی ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ سرستیہ کی تحریک سے براہ راست متاثر نہیں ہتے مگر ان سے ایک دلی تعلق ضرور رکھتے ہتے۔ آزاد بھی اذیں سماجی اہمیت کے خاص طور پر قابل ہیں وہ شعر کے بیسے خیال، موزونیت اور اسلوب،

بیان کو ضروری خیال کرتے ہیں۔

آزاد کی عملی تنقید کو ان کے اسلوب بیان کی زنگبینی و لغاظی نے بہت نقصان پہنچایا۔ انہوں نے مغرب سے بھی اثر قبول کیا لیکن اس سے مکمل طور پر استفادہ نہ کر سکے۔ البته انہوں نے شاعروں کے حالات و حصوصیات کلام، عادات و اطوار اور ان کے دور کی عکاسی سمجھوئی کی ہے۔

غرض اس طرح حالی، شبیلی اور آزاد کے ذریعہ صحیح قسم کی تنقید کی ابتدا ہوئی۔ اس سے قبل تخلیقی تصانیف میں تنقیدی اشارے ضرور ملتے ہتھے مگر کوئی ایسا اہم تنقیدی کارنامہ نہ تھا جس کو سمجھا طور پر تنقیدی فن پارے کے کاتا نام دیا جاتا۔ حالی اور شبیلی و آزاد نے نہ صرف فن تنقید کی دلائی بلکہ اس میں نئے نئے رجحانات و خیالات کا بھی اظہار کیا۔ مثلاً نئے رجحانات کے اعتبار سے نظریاتی، عملی اور سائنسیک تنقید کی ابتدا حالی سے ہوئی جبکہ جمالیاتی اور تقابلی تنقید کا آغاز مولانا شبیل نعمانی نے کیا۔

حالی، شبیلی اور آزاد کے بعد دوسرے دور میں ڈاکٹر مولوی عبد الحق، سید سلیمان ندوی، نیازہ فتح پوری، عبدالسلام ندوی، محمود شیراٹی، ڈاکٹر محی الدین زور، عبد القادر سروری، آل محمد سرور، ڈاکٹر احتشام حسین، مولوی محمد سعیدی تہناء جیسے مورخین ادب کے کارناموں کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ ان نقادوں کی تنقیدوں میں تحقیقی رجحان زیادہ نمایاں ہے۔ ان حضرات کی تنقیدوں میں تصریح کا عنصر تحقیق سے کہیں زیادہ ہے مگر قدر ( ) سے کم ہے۔ کیونکہ ان کے زمانے میں اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی اور یہی روشن سالہا سال تک جاری رہی تحقیقی تنقید کا تعلق اپنی تاریخ سے زیادہ ہوتا ہے اور ادب میں تنقیدی رجحان کو فردغ دینے اور تنقید کا صحیح ذوق پیدا کرنے میں ان مورخین ادب کا گران قدر سرمایہ موجود ہے۔

ڈاکٹر مولوی عبد الحق نے اپنے مقدمات کے ذریعہ اردو میں محققانہ تنقید کے ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ ڈاکٹر احتشام حسین کا شمار اردو کے ان نقادوں میں ہے جو تنقید کے مباحث و مسائل اور شعرو ادب کے قواعد و صوابط پر زیادہ

زور دیتے ہیں۔ نیاز فتح پوری نے روانیت دھنریا تبیت سے زیادہ اثر لیا ہے اور ایک شخص انداز سے زبان و بیان پر تنقید کی ہے مگر ان کے احسان جمال کی شدت نے ان کو سماجی مسائل کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ ڈاکٹر محمد الدین زور نے مغربی فنِ تنقید سے مبتاثر ہو کر مشرقی ادب کو بھی اس کی افادیت و اہمیت سے روشناس کرایا ہے مگر اس سے بے جا طور پر متأثر نہیں ہوتے۔ پروفسر امیل احمد سترور نے تنقید کو ادبی و سلیقہ اور تخلیقی رکھ رکھا و بخش کر ایک واقع فن کی حیثیت دی وہ تنقید میں افہام و تفہیم کے قائل ہیں اور اپنی رائے کو زبردستی منونے کے حق میں ہیں۔

ان ہی تنقید نگاروں کے زمرے میں ایک شخصیت مولانا حامد حسن قادری کی نظر آتی ہے۔ وہ اپنی تحقیقی تنقید کی بدولت ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ارد و ادب میں ان کا مرتبہ بھی دیکھا جو مذکورہ بالامور خیں و تاقدیں ادب کا ہے۔ ان کے یہاں تھی خال خاطر احباب کا گزر ہے اور نہ مصلحت بینی کی روشن۔ وہ نہ مشرق کے پرستاہ ہیں اور نہ مغرب سے منحرف۔ البتہ انہیں برصغیر پاک و ہند کی روایات کو معدوم ہوتے دیکھنا گوارا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غالب جیسے عظیم شاعر اور علامہ سیماں اکبر آبادی جیسے عزیز و مخلص دوست سے بھی مرغوب نہ ہو سکے۔ انہوں نے دونوں کے کلام پر دل کھول کر بے لگ تنقیدوں کیں اور ہر ایک کے معامل و معاملہ کو سچوںی واضح کیا۔ مولانا قادری کے تنقیدی رجمانات و نظریات کا جائزہ لینے سے قبل ہتر ہو گا کہ شعر و ادب کے سبیلے میں ان کے نظریات کا بھی مختصر سابیان کر دیا جائے۔ کیوں کہ تنقید میں خود تنقید کے اصول و نظریات کا مطالعہ بھی لازمی ہے اور ادبی تصنیف کے مطالعے میں بھی اصول و نظریات کا ادب و زندگی سے رشتہ، حقیقت و تخیل، افادیت و اہمیت، ابلاغ و تبلیغ، مواد و ہدایت کا تعلق، حسن و عشق کا مفہوم، شعر و ادب میں زبان کی حیثیت، طرز و اسلوب، فنی اصول اور روایات و تجربات سب ہی شامل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی تنقید نگار کے تنقیدی تاثرات کو جانپنے اور پرکھنے کے لئے اس کے تنقیدی نظریات کا علم ہونا نہایت ضروری ہے۔

مولانا قادری بنیادی طور پر ایک بلند پایہ نقاد و محقق ہیں اور بڑی حد تک  
حالي و شبلي کے قبیل کے ایک فرد نظر آتے ہیں۔ وہ انگریزی ادب اور جدید مغربی  
تفقید کے اصول و نظریات سے واقعیت رکھتے ہیں۔ روزمرہ و معاورہ، زبان  
و بیان اور عروض و قواعد کی غلطیاں ان کی طبیعت پر گراں گزرتی ہیں اور اگر دیکھا  
جائے تو یہی چیز مشرقی ترقید کا ظفر ائمہ افیاض ہے اسی لئے مغربی ترقید سے واقف  
ہونے کے باوجود ان کی ترقید میں مشرقی اثر زیادہ نمایاں ہے اور اس کا اعتراف  
وہ خود بھی یوں کرتے ہیں :-

”القلابِ جریدہ کے اثرات سے اردو شاعری کے  
محضیات میں تغیر ہو جائے۔ قدیم اصناف تبدیل ہو جائیں۔ نئے  
نیجربات کیسے جائیں۔ نئی افادی حیثیت پیدا کی جائے کوئی مضائقہ  
نہیں مگر ہندوستانیت فنا نہ ہونی چاہیے۔ مشرقیت نہ تباہ ہو جائے“ (۱)  
لقطہ نظر کے سلسلے میں انہیں اپنی ذمہ داری کا بڑا احساس رہا ہے اور  
محاسن و معائب دونوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور کیا مجال کہ ترقید میں کہیں  
بھی ذاتی تحصیب یا بے جا طرفداری شامل ہو جائے۔ ان کی ترقید اول تا آخر  
ترقید ہی ہوتی ہے۔ اور تقریباً کارنگ اختیار نہیں کر پاتی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض نافذ  
کھجوری پر بڑے شاعر کی شخصیت و بڑائی کے درجے۔ میں اس کی ادنیٰ تخلیقات کو بھی اعلیٰ قرار  
دے دیا گرتے ہیں۔ مولانا قادری اس بات کے قابل نہیں۔ انہوں نے بغیر کسی رُور عایت  
اوہ لگ پیٹ کے وہی بات کہی ہے جسے وہ جائز و حق تصور کرتے ہیں۔ قادری صاحب  
کی مشرق پرستی کارنگ ان کی مشهور ترقیدی کتاب ”تقد و نظر“ میں جا بجا نظر آتا ہے۔  
آخر غالب کی غالیت اور اولیت و اولیت سے کسے انکار ہے مگر مولانا قادری

(۱) کشہ، مولوی عبداللطیف خان، حامد حسن قادری (مصنفوں)، ”اردونامہ“ مطبوعہ ترقی اردو  
بودھ کراچی۔ جنوری تا مارچ ۱۹۹۵ع، شمارہ ۱۹، ص ۱۶۔

”نقد و منظر“ میں غالب پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”دیوانِ غالب سے زیلوہ کوئی دیوان نہ پڑھاگیا، نہ سمجھا  
گیا، نہ چھاپاگیا اور یہ جو کچھ بھی ہوا بالکل سجا ہوا۔ انیسویں صدی کا کوئی  
شاعرِ غالب سے زیادہ اس کا حق دار نہیں تھا۔“ (۱)

اور یہ حقیقت ہے کہ آج غالب حلقۂ شام و سحر سے بخل کر نہ مدد جاوید ہو گئے  
ہیں مگر مولانا قادری غالب کی غالیت سے قطعی مرعوب نہیں وہ ان پر تنقید کرتے  
ہوئے سکتے ہیں۔

” غالب پرست یہ بات بھول گئے کہ غالب شاعر ہوتے  
کہ ساتھ انسان بھی ہتھے۔ اور ذرا اٹیرے میں آدمی ہتھے۔ اور وہ سے بسح کر  
چلئے اور اپنی راہ الگ مکالنے کی ان کو ایسی دھن ہتھی کہ جدت آفرینی  
میں قواعد زبان، اصول شاعری وغیرہ کسی چیز کی پروا نہ کرتے  
ہتھے۔ جو لوگ ان سے مرعوب ہو چکے ہتھے انہوں نے کلامِ غالب کو آیت  
و حدیث سمجھا اور ایک ایک لفظ، محاورے، خیال، اسلوب کو اٹلی،  
محکم اور ملہم غیر سمجھ کر اس کو معنی پہنانے شروع کر دیئے۔ کم تقادی یہ  
ہتھے جہنوں نے بھائے خود غور کر کے فیصلہ کیا اور اخلاقِ غالب بیان کیے  
حقیقت یہ ہے کہ غالب نے وہ سب غلطیاں کی ہیں جو شاعری میں ہو  
سکتی ہیں مگر غالب جیسے شاعر سے نہیں ہونی چاہیں۔“ (۲)

اس ضمن میں انہوں نے غالب کے بیان محاوروں کا غلط استعمال تعقید لفظی و  
معنوی، غرابت الفاظ اور غیر مألوس تشبیہات وغیرہ کی متعدد مثالیں ”نقد و منظر“ میں  
پیش کی ہیں۔ اس سے ان کا مقصد غالب کی منقصت کرنا نہیں بلکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے

(۱) ماجن فادری مولانا، ”نقد و منظر“، آگرہ، آگرہ اخبار پر ۱۹۳۲ ص ۱۱۰۱۲۔

(۲) ایضاً، ص ۱۲۔

کے سمجھیت ایک اعلیٰ شاعر کے توانہ غالب کے مذاہ و قدر دان ہیں مگر جہاں غالب کے یہاں خامیاں ہیں وہاں سمجھیت ایک ناقد کے ان پر تنقید کیسے بغیر نہیں رہتے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ غالب ان کے ذہن پر بھی غالب سمجھتے جن کا اعتراف وہ خود بھی ہوں کرتے ہیں:-

”بُحْسَنَةً غَالِبَ بِمُدِيشَةٍ سَمِعَنْ“  
لی کوٹشش بھی کی ہے۔ یہی اس کو قدیم غزل کا مجدد اور جدید غزل کا محسن مانتا ہوں۔ غالب نے اپنے دیوانِ فارسی کو ”دینِ سخن“ کی ”ایزدی کتاب“ کہا ہے۔ یہی اس قول کو ارادہ دیوان کے حق میں درست سمجھتا ہوں۔ (۱)

وہ غزل گو شعرا سے جس قبم کا طرز و اسلوب ر ) طلب  
کرتے یا جو جزویات رکھتے اور غزل میں جو جو خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے سلسلے میں لکھتے ہیں:-

”غَزْلُ كَالْطَّفْ وَ اثْرُ اسْ بَاتِ پَرْ مُخْصَرٌ هُوَ كَهْ صَيْحَ جَذْبَاتِ،  
اَصْلُ وَارِدَاتِ اور سچے معاملاتِ بیان کیسے جائیں، پیرا یہ بیان موثر ہو، تخيّل  
کارنگ کیچھل ہو، الفاظ شیریں، بند شیں چست، محاورے سے صیحہ اور صنائع  
لفظی و معنوی قریب الفہم ہوں۔“ (۲)

قادری صاحب چونکہ قدیم طرزِ تنقید کے دبستان سے متعلق ہیں اس لئے وہ الفاظ کی صحت و موزو و نیت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ زیان و محاورہ کی غلطیاں جیسا کہ اوپر بیان کیا ان کو فوراً کھنک جاتی ہیں اور بھی چیزیں مشرقی تنقید کے لئے بڑی اہم اور امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔

آخر سلسلے میں ڈاکٹر مولوی عبد الحق لکھتے ہیں:-

(۱) حامد حسن قادری، مولانا، ”نقد و نظر“، محوالہ بالا، ص ۱۶ مطبوعہ اگرہ اخبار پریس۔ اگرہ۔

(۲) ایضاً۔

”پہلے نقید کا مدار شعر کے ظاہر پر پوتا تھا مسئلہ محاورہ درست  
ہے یا نہیں۔ زبان کی کوئی غلطی تو نہیں، بندش کیسی ہے، قافیہ شیک بیجیا  
ہے یا نہیں؟“ (۱)

اس محاورے کے بعد میں ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی (۲) اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت مولانا فیض سکالنے کا ارادہ کیا اور ایک خط میں مولانا قادری کو لکھا کہ ”حضرت مولانا کی زندگی اور شاعری کے مختلف پہلوؤں کو بے نقاب کرنے کے لئے مندرجہ ذیل عنوانات انتخاب کئے گئے ہیں：“ قادری صاحب نے فقط ”بے نقاب“ کے استعمال کو پسند نہیں کیا اور جواباً خط میں تحریر کیا کہ ۔

”محاوروں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ ان کی صحت، روح  
عام، اور قبول خاطر پر مخصوص ہوتی ہے اور محاورے کے مختلف پہلو اور  
مختلف استعمال معنی میں فرق پیدا کر دیتے ہیں..... آپ نے مبے نقاب“  
کے حقیقی اور مجازی معنی پر غور نہیں کیا اور چار شاعروں کی مثالیں لکھ دیں جن  
میں سے ایک بھی آپ کیلئے مفید نہیں۔ اس لئے کہ ان سب میں حقیقی معنی مراد  
ہیں۔ یعنی چہرے سے نقاب اٹھانا، طالبِ الوری اور جو شعر کے اشعار  
میں تو حقیقی معنی ظاہر ہیں۔ اقبال کے شعر میں ”از مرخ معنی“ کے الفاظ  
نے مجاز کو حقیقت سے مشابہ کر دیا ہے یعنی نقاب بہرحال رُخ سے اٹھایا  
گیا ہے۔ اگرچہ معنی کا رُخ ہے۔ چہرے کا بے نقاب ہونا۔ سیرت کا بے نقاب  
ہونا۔ زندگی کا بے نقاب ہونا۔ قابلیت کا بے نقاب ہونا۔ دعوے کا بے نقاب  
ہونا اور بات ہے۔ ان میں لا محالة معاہب کا بھی بے نقاب ہونا مفہوم۔

(۱) عبد الحق ڈاکٹر مولوی، ”بادحالی“ (مصنفوں)، اردو (رسہ ماہی)، جولائی، ۱۹۳۷ء۔

(۲) ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی صاحب مولانا قادری کے عزیز، اور دہلی یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو ہیں

ہوتا ہے بلکہ ذہن سب سے پہلے معاہب ہی کی بے نقابی کی طرف منتقل ہوتا ہے اس لئے اس محاورے کو کسی ایسے شخص کے متعلق استعمال کرنا مناسب نہیں جس کا احترام مدنظر ہو۔ مثلاً اگر زید نے غالب کے متعلق لکھا ہے تو میرے تزدیک درست ہے اس لئے کہ اس کا کوئی خاص احترام میسے مدنظر نہیں اور مجھے اس کی زندگی اور شاعری دونوں میں معیوب پہلو نظر آتے ہیں اور بعض پہلو اب تک واقعی پوشیدہ بھی ہیں یا تھے لیکن یہ فقرہ حسرت مولانا کے لئے لکھا جائے تو میں پسند نہ کروں گا۔ ”حسرت مولانا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بے نقاب کرنا“ ذرا اس کو بار بار پڑھیے، دیکھئے اور سوچیے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مذموم پہلو بیان کرنے تھے ہیں۔ ایک عرصہ ہوا ”نگار“ اور ”نیزنگ خیال“ میں مصنون باندی ہوئی تھی۔ آرگس نے ایک مصنون لکھا تھا۔ ” غالب بے نقاب“ اس کا جواب دیا گیا۔ آرگس بے جواب ” غالب بے نقاب“ کے الفاظ ہی سے ظاہر ہوا ہے کہ غالب کے معاہب کا بیان ہے۔ یہ ہماری زبان، محاورے سے اور رواج کی بات ہے، ورنہ ممکن ہے کہ ایران میں ان الفاظ کا یقیناً مفہوم نہ لیا جائے۔<sup>(۱)</sup> خواجہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس خط کے بعد میں نے پھر لکھا کہ کیا حسرت مولانا کی زندگی اور شاعری کے متعلق دو ایکیں نہیں ہو سکتیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ان میں سے کسی رائے سے متفق ہوں اور کسی رائے سے نہ ہوں۔ کم از کم ان کی شاعری پر تو ”منحر فانہ“ نظر بھی ڈالی گئی ہے اور ابھی حال میں ذاکرِ عذر لیب شادانی نے بعض اعتراضات ایسے کیے ہیں کہ اٹھائے نہیں اسکتے۔ اس کے

(۱) خواجہ احمد فاروقی، ذاکر، ”حامد حسن قادری“، (مصنون)، ”نقوش“ لاہور: جنوری ۱۹۵۵ع، ش ۷۳، ۲۸، (شخصیات نمبر)، ص ۹۱-۲۸۹۔

جواب میں پھر مولانا نے خسرو رکیا کہ :-

”میرا بھی وہی خیال ہے زندگی کو بے نقاب کرنے اور شاعری کو بے نقاب کرنے میں فرق ہے۔ حضرت کی شاعری کو جتنا چاہیے بے نقاب کیجئے لیکن جب کہیے گا ”حضرت کی زندگی کو بے نقاب کرتا ہے“ تو فوراً ذہن ان کے عیوبِ اخلاقی کی طرف جائے گا۔“ (۱)

ڈاکٹر شادانی نے حضرت پر جو اعتراضات کیے ہیں وہ میں نے حرف بہ حرف کہی یار پڑھے ہیں اور ان کا جواب ڈاکٹر صاحب کو لکھ دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں اسٹھا کے نہیں اٹھتے۔ میں نے سب اٹھا دیئے کوئی پڑا نہ رہا۔ ڈاکٹر صاحب سے میری پرانی شناسائی ہے ۲۶ سال کی، وہ مجھ سے بڑا خلوص رکھتے ہیں۔ ان کے اعتراضات ایک خاص نظریہ کی بنا پر ہیں اور صرف حضرت کی ذات پر نہیں بلکہ قلی قطب شاہ اور ولی دکنی سے لے کر جگہ حضرت تک میزاروں شاعروں پر ہیں بلکہ ایران، عرب اور مصر وغیرہ سب ان کی زد ہیں۔“ (۲)

قادری صاحب کی تنقید نگاری سے پتا چلتا ہے کہ ان کی تنقیدیں غور و فکر کی دعوت دے کر ادبیات کو اک نئے انداز سے دیکھنے و پر کھنے کی طرف مائل کرتی ہیں۔ وہ تنقید کے محور و مرکز سے بخوبی واقف ہیں۔ یہی سبب ہے کہ وہ خود بھی شعر و ادب اور نقد و تنقید کے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل پیرا رہتے اور اس کے مباحث و مسائل اور مدارج و مراحل پر خصوصیت سے زور دیتے ہیں۔ تنقید کا صحیح ذوق رکھنے کے ساتھ خود بھی ایک ادیب و شاعر ہیں لہذا

(۱) خواجہ احمد فاروقی، ڈاکٹر، ”حامد حسن قادری“، (مضمن)، ”نقوش“

محولہ بالا، ص ۹۱-۲۸۹،

(۲) ایضاً، ص ۹۱-۲۸۹،

وہ صرف تنقید ہی نہیں کرتے بلکہ ادیب و شاعر کی ذات میں سختگی، عقل و شعور اور بلندی فکر و منظر کے بھی متلاشی رہتے ہیں اور چاہئے یہیں کہ ہمارا ادیب و شاعر قدر و نباض اور زندگی کا معما ہو، وہ ہم کو مغربی اقدار و خیالات سے نجات دلائے کر مشرقی فضای میں رہتے ہوئے بالیہ گی و سر بلندی کا درس دے۔ عصمت چغتائی؎ نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ :-

”تنقید کرنے والے کا مرتبہ اگر وہ ایمان داری سے اپنا فرض انجام دے تو بہت بلند ہے ایک طرف وہ ادیب کے دماغ کو خوارک پہنچانا ہے تو دوسری طرف وہ ادب کی حفاظت کرتا ہے۔“ (۱)

مولانا مشرقی ادب پر گہری منظر رکھتے کے ساتھ ساتھ انگریزی ادب پر بھی اچھا تھا صحاحت رکھتے ہیں۔ وہ ایک دقیقہ سخن، سخنہ رس اور سخنیدہ ذوق کے حامل ہیں۔ ان کی تنقید میں عملی دلیل و تعبیری پہلو نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ ذہانت و فطانت، بے باکی و دراکی اور نگاہ کی دُور رسی الیٰ خصوصیاً ہیں جو ایک کام یا ب تنقید نگار کے لئے ضروری خیال کی جاتی ہیں اور یہ ان کے ہاں پیدا جوا تم موجود ہیں۔ تنقید میں انہیں اپنی ذمہ داری کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ ”تقد و نظر“ کے موقع پر وہ محاسن و معافی دلوں پہلوؤں پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کی رائیں تہاست صائب اور مدلل ہوتی ہیں۔ رائے دینے میں وہ بڑے تذمیر اور بے باک ہیں۔ لگی لپیٹ نہیں رکھتے۔ مگر ساتھ ہی شرفِ الفضی کا بھی عالم یہ ہے کہ ادبی حیثیت کو کبھی ذاتیات کی طرف مائل نہیں ہونے دیتے۔

(۱) عصمت چغتائی، ”(مضمون)، ”جاہنزاہ، کراچی، اگست، ۱۹۵۹ء، ص ۱۰۷۔

علامہ سیفی اکبر آبادی سے ان کے بڑے بڑے علمی مجاہدے ہوئے لیکن دونوں ایک دوسرے کا دل و جان سے ادب کرتے رہے۔ مولانا سیفی اکبر آبادی کی وفات پر بھی جیسی نئی و نادر تائیخ مولانا قادری نے کہی کوئی دوسرا نہ کہہ سکا۔ ان کی انہی خصوصیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقصد خودہ گیری نہیں بلکہ اصلاح ہے۔

مولانا کی تنقید کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ شعر و سخن کے محاسن و معافی پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شعر میں صحت زبان ہو، حسن بیان ہو۔ لطائفِ تخیل ہو اور عروض و قوافی کی پابندیاں ہوں۔

## تنقید میں مولانا کا مقام

ادب میں بحیثیتِ تنقید بخار کے مولانا کا مقام متعین کرنے کے لئے ہمیں ان کی مندرجہ ذیل تنقیدی کتابوں کا جائزہ لینا ہو گا جو ان کے تنقیدی اصول و نظریات کی آئینہ دار ہیں۔

- ۱۔ تاریخ و تنقید۔
- ۲۔ نقد و نظر۔
- ۳۔ تاریخ مرثیہ گوئی
- ۴۔ کمال فانی۔
- ۵۔ کمال داغ۔
- ۶۔ شاہکار انیس۔
- ۷۔ انتخاب مومن۔

”تاریخ و تنقید“ مولانا قادری کی اہم اور اپنے موضوع کے لحاظ سے بڑی دقیعِ تصنیف ہے۔ کیونکہ اس میں انہوں نے اردو زبان کی اہمیت و افادت شہرت و قبولیت اور دستعت و گیرانی کے سلسلے میں علمی و تاریخی اعتبار سے بحث کی ہے اور ہر دور کے مشاہیر شعراء کے حالات اور نمونہ ہائے کلام کو پیش کرتے ہوئے ان پر تبصرہ بھی کیا ہے۔ شاعری میں محمد بہجت جو تغیرات روکنا ہوتے

رسہے ان کی بھی نشاندہی کی ہے۔ دہلی اسکول، لکھنؤ اسکول اور جدید اسکول کا فرق واضح کیا ہے۔ اصنافِ شاعری کی مختصر تاریخ بھی بیان کی ہے اور نظم اور دوپر تتفقید بھی کی ہے۔ مختصر رائے کہ اس میں شاعری کے نام پہلوؤں پر سیدھے سادے انداز میں تنقید کی گئی ہے۔

یہ کتاب دراصل مولانا قادری کے ان لیکچروں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے سینٹ جانس کالج آگرہ میں طلبہ کی سہولت کے پیش نظر ترتیب دیئے تھے اس کے متعلق وہ "تاریخ و تنقید" کے دیباچے میں خود رقم طراطہ میں ہے:-

"ان مضامین تاریخی و تنقیدی کے متعلق مجھے ایجاد و

جردت کا دعویٰ نہیں ان میں سے بعض مضامین میں نے اپنے کالج کے طالب علموں کے لئے بطور کلاس ٹولش کے تیار کئے تھے۔ بعض کسی تحركیک یا فرمائش سے لکھے ہیں اور "نگار" لکھنؤ، عالم گیر" لاہور "کنقول" آگرہ، "تسنیم" آگرہ دعیرہ رسالوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان مضامین میں کہیں ایک ہی موضوع یا بیان کی تکرار ملے گی لیکن عدم شائعین ادب کی دلچسپی اور فائدے سے خالی نہیں ہے؛" (۱)

مولانا کا پہلا مضمون "سئلہ زبان اور دو" سے متعلق ہے اس میں وہ اردو کی ابتداؤ اور تقاضے کے متعلق تحسریہ کرستہ ہوئے بتاتے ہیں:-

"اردو زبان تیرہویں صدی عیسوی میں منتشر ہوئی  
لیکن وہ شروعات بی کھنی سولہویں صدی تک بول چال میں داخل ہو گئی اور  
اردو نثر و نظم کی تھانیت کا آغاز ہو گیا۔ انھار ہوئیں اور انیسویں صدی  
میں اردو زبان و ادب کو جس قدر وسعت اور سہولت حاصل ہوئی وہ  
حیرت انگیز ہے اور آج بیسویں صدی میں ہماری زبان اور ہمارا لشکر پھر

(۱) حامد ن قادری، مولانا "تاریخ و تنقید" آگرہ اخبار پریس آگرہ ۱۹۳۹ع، ص - ۱

دنیا کی بڑی اور بہترین زبانوں کے ساتھ دوش بدوش کھڑا ہونے کے قابل ہے۔ اپنی ایک شان انفرادی رکھتا ہے اور اپنے امتیاز خصوصی کا حامل ہے (۱)

اس مصنفوں میں انہوں نے اردو کی ارتقائی کے سلسلے میں ولندیزیوں، پرنسپالیوں فرانسیزوں اور انگریزوں کے متعلق بتایا ہے کہ اگرچہ ان لوگوں نے اقتصادی و تجارتی اعتراض اور سیاسی مقاصد کے لئے اردو زبان سیکھی مگر ان میں بھی ایک ایسا محقق و شیدا بھی سکلا جس نے پیرس کے لسانہ شرقیہ کے کالج میں اس ہندوستانی زبان کی پرنسپری سنبھالی اور اس نے اردو کی متعدد کتابوں کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اردو اور تاریخ اور صرف نحو پر بھی عمدہ کتابیں لکھیں۔ اور اردو زبان کی ابتداء و ترقی پر متعدد پیکھر بھی دیتے ہیں۔ یہی پھر تقریباً آٹھ سو صفحات پر مشتمل ہیں اور انہم ترقی اردو اور گلگھٹ نے "خطبات گارنسن ڈناسی" کے نامہ سے شائع کئے ہیں۔

خطبات گارنسن ڈناسی کا مقدمہ تحریر کرتے ہوئے ڈاکٹر مولوی عبد الحق صاحب لکھتے ہیں:-

"ان خطبوں کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُسے اردو زبان سے دلی لگاؤ ہے وہ اسے ہندوستان کی ترقی پذیری اور عام زبان خیال کرتا ہے اور ہر موقع پر ہندی کے مقابلے میں اس کی حیات کرتا ہے اور اس کے فروع اور ترقی کا دل سے خواہاں ہے۔" (۲)

مولوی عبد الحق صاحب نے اسی مقدمہ خطبات میں ایک اور مقام پر اردو زبان و ادب سے گارنسن ڈناسی کا ذوق و شوق بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:-

"ہندوستانی زبان سے اس کا شفعت عشق کے درجے تک

(۱) حامد ن قادری، مولانا: "تاریخ و ترقیہ" اگرہ، اخبار پر ۱۹۳۹ء (دیسمبر) ص ۱۔

(۲) عبد الحق، ڈاکٹر مولوی، "خطبات گارنسن ڈناسی" دہلی، انگریز ترقی اردو رہنمہ، مقدمہ، ص

پہنچ گیا تھا۔ اس کا کارنامہ اس قدر وقیع ہے کہ وہ ہماری زبان کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایک لمحے کے لئے سوچئے اور دیکھئے کہ یہ منظر کس قدر عجیب اور دلچسپ ہے کہ ایک بڑھا فرانسیسی عالم ہندوستان سے کالے کوسوں دور پریس کی یونیورسٹی میں اپنے یورپین شاگردوں کو (جن میں فرانسیسیوں کے علاوہ دوسری اقوام کے لوگ بھی شرکیے ہیں) ہندوستانی زبان پر بڑے جوشن اور شوق سے لیکھر دے رہا ہے اور ان کے دلوں میں اس غریب زبان کا شوق پیدا کر رہا ہے۔ اپنی فرصت کا تمام وقت اسی زبان کی حقیق میں صرف کرتا ہے اہل زبان اور غیر اہل زبان دونوں سے خط و کتابت کرتا ہے، ایک ایک کتاب ایک ایک اخبار اور رسائے کا حال پوچھتا ہے۔ قلمی نسخوں کی تقدیم ملکوں کا ہے، ان کی تصحیح کرتا ہے۔ مرتب کر کے چھپو آتا ہے خود اس کی زبان کی تصاویر کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اور ہندوستانی ادب کے مختلف شعبوں پر بحث کرتا اور اس کی مفصل اور مبسوط تاریخ لکھتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

اردو زبان کی قدردانی و قبولیت کے سلسلے میں گارسن دناسی، ڈاکٹر جان محل کرائست، ڈاکٹر فیلن اور کرنل ہالر امڈ کی خدمات تو عام اردو دان طبقے پر بھی ظاہر و آشکار ہیں لیکن مولانا تحقیق و تفہص سے کام لیتے ہوئے یہ ہفتہ میں :-

”اردو کے لطف سخن نے اہل یورپ کو بھی گردیدہ کیا، انگریزوں اور فرانسیسیوں میں درجنوں اردو شاعر ہوئے ہیں۔ جن میں سے بعض صاحب دیوان بھی ہیں۔ ان اہل یورپ میں شاعر

(۱) عبد الحق، ڈاکٹر مولوی، ”خطیبات گارسین دناسی“، محوالہ بالا، (مقدمہ) ص

خواتین بھی شامل ہیں۔ انگریزی خاتونوں نے ملکہ، حجاب، مخفی وغیرہ تخلص اختیار کئے اور شعرگوئی میں اساتذہ کی شاگردی کی۔ (۱) مولانا کو تنقید میں ہی کمال حاصل نہ تھا بلکہ علم عرب و فارس و بیان میں بھی وہ دور دوڑتک اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ عربی علم اللسانیات پر بھی انہوں نے ایک طویل اور مدلل مقالہ تحریر کیا ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے جس کا خوالہ مولوی عبد اللطیف خاں صاحب گُشته نے مولانا قادری کی ادبی خدمات کے سلسلے میں رقم کردہ مقالے میں یوں دیا ہے:

”۱۹۲۶ء میں ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ایک جلسہ مسلم مائی

سکول کا نپور میں حکیم اجمل خاں مسیح الملک مرحوم کی صدارت میں ہوا۔

قادری صاحب نے ایک مقالہ، عربی کی سانی خصوصیات سے متعلق پڑھاتواں سی موتگا فیوں کیں کہ بعد ختم جلسہ حکیم صاحب نے انہیں لکھنے سے لگایا۔ نواب صدر یار جنگ نے کہا ”مولانا بہمارا کام آپ نے کیا“ اور مولانا سید سلیمان ندوی وغیرہ نے بھی اس کی

بہت داد دی۔“ (۲)

## اور مذیل زیارات

اسی طرح ان کی عربی، فارسی، اردو اور انگریزی بانیات اور عروض و قواعد میں ہمارت کا اندازہ، راشد حسن قادری کے ایک مصنفوں کے اس اقتباس سے ہو سکتا ہے جو انہوں نے مولانا کی کتاب سے

(۱) حامیون قادری، مولانا، ”تاریخ و تنقید“، مولہ بالا، ص ۳۔

(۲) گشته، پر فیر عبد اللطیف خاں، مولانا حامیون قادری، (مصنفوں) اردو نامہ، مولہ بالا، ش ۱۹، ص ۳۔

اندر کیا ہے۔ مولانا کی یہ کتاب انگریزی میں ہے اور اب نایاب ہے اس میں انہوں نے چاروں زبانوں کی مختلف صنائع و بدالع کا موازنہ کیا ہے اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اردو صنائع و بدالع کی عربی، فارسی اور انگریزی کی صنائع و بدالع سے مانسلت ہی بیان کی ہے بلکہ ان کا نیا کا زمامر یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی زبان کی بعض ان صنائع بدالع کی بھی نشاندہی کی ہے جو اردو میں نہیں پائی جاتیں اور صرف مولانا قادری کی دریافت کر دہیں۔

اس سے میں مولانا قادری کے ماجزا سے ارشد حسن قادری لکھتے ہیں :-

Oriental Rhetorics

There are some beautiful and interesting figures of speech in the English language which are not given in Arabic and Persian books of rhetoric. Maulana Qadiri has introduced them in those languages. Alliteration and Onomatopoe are among them. He has named the former and the latter

In some places he has differed from old authors and has, for example, treated the figures of and as two separate figures and has given examples of each in all the four languages.

In books on English Rhetic simile has no kinds, but in the Oriental languages there are more than a dozen kinds of it, and Maulana Qadiri has given English examples also for almost all of them. In the same manner he has described fifteen divisions of Metonym with examples, while in English books there are only eight or nine kinds of it.

Having given special features of the work on Oriental Rhetic by Maulana Qadiri. I now give one or two quotations from the book " Qalbi Mustawi or Palindrome occurs when a line may be equally read forward or backward.

Examples - Arabic (a) "So magnify God"

(b) "All in their orbits"

(c) "God showed us a bright crescent"

Persian (a) "Hope of our liberty"

(b) \_\_\_\_\_ "He gave us comfort"

(c) I here quote an excellent example of Palindrome composed extempores by Qazi Abdul Wahab Mashadi.

Once Syed Imaduddin Musavi came to him and uttered a sentence containing Palindrome \_\_\_\_\_ I have a desire.

The Qazi returned off hand \_\_\_\_\_ O God ! may it be fulfilled.

Urdu \_\_\_\_\_ (a) \_\_\_\_\_ O God,

may desire of the ministers be fulfilled.

(b) \_\_\_\_\_ Be glad that the

sprightly fellow is come today.

(c) \_\_\_\_\_ This Ar'am of ones is a

comfort to us.

English \_\_\_\_\_ (a) ' Able ' was I cre I saw Elba' -  
Napolean I.

(b) Lewd did I live; evil did dwell - Taylor.

(c) Egad a base tone denotes a bad age.

Hikayat-us-Saut (Producing sound) occurs

when the sound of words of a verse echoes the sound of a musical instrument or a bird or something else. It is called Onomatopoeia in

This figure is not found in any book on Rhetoric in the oriental languages, but as examples of it are found in Persian and Urdu poetry we propose to give it the name of \_\_\_\_\_ Examples - Arabic example is not found.

- Persian (a)

\_\_\_\_\_. Firdousi the drum proclaimed for the constitution of his law, the religion in his religion and his only.

Urdu - The sound of Jala'jil is produced in the couplet given below . Jala'jil is an instrument comprising two circular pieces of metal, which are in both hands and struck against each other giving a sound like "Jhan Jhan" is similar to cymbal.

a)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Look here, the Jalajil are saying merrily. This army is destined to hell. This army is destined to Hell.

English (a) The sound of drum :-

The double double double beat of the thundering drum Cries bark: the foes come!

Charge, Charge, 'tis too late to retreat

## باب چہارم

### تاریخ و تنقید

#### مولانا قادری بحیثیت محقق و مؤرخ ادب

پروفیسر کلیم الدین احمد نے "اردو تنقید پر ایک نظر" میں لکھا ہے:-  
 " دماغ انسانی کی دل تحریکیں میں اور ان دونوں کو سہم ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے کیونکہ تنقید، تحقیق کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی تحقیق تنقید کا سہارا یعنی بغیر ایک قدم آگے بڑھا سکتی ہے۔" (۱)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحقیق و تنقید دونوں لازم و ملزم ہیں جس طرح تنقیدی شعور کے بغیر تحقیقی کا وش ناممکن ہے اسی طرح تحقیق و تفہیض کے بغیر تنقید کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا اور یہ ناقص رہ جاتی ہے۔

تحقیق و تنقید کی ہم آہنگی کے سب سے میں پروفیسر کلیم الدین احمد مزید رقطراز میں :-

"اگر تحقیق کو تنقید سے علیحدہ کر دیا جائے تو پھر اس کی حالت اس گم کردہ راہ کی سی ہو گی جو کسی صحرائیں بھٹکتا پھر سے اور جسے اس کی خبر نہ ہو کہ وہ بھٹک رہا ہے۔" (۲)

(۱) کلیم الدین احمد، پروفیسر اردو تنقید پر ایک نظر، لاہور: ص ۱۴۶

(۲) ایضاً، ص ۱۲۷

پر ذییر کلیم الدین احمد کا یہ قول اپنی جگہ بالکل درست ہے کیونکہ مہربان کے شعرو ادب میں تحقیق و تنقید لازم و ملزم نظر آتی ہے۔ اردو زبان دادب میں بھی اقل اقل تو اس طرف لوگ بہت کم متوجہ ہوئے کیونکہ اس وقت تحقیق و تنقید کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی تھی مگر آج بھی اس دور کے تذکرے اور تبصرہ یا تقریظیوں کو جمع کر دیا جائے تو ان سے اس دور کے تحقیق و تنقیدی شعور کا سراغ ضرور مل سکے گا۔ دنیا کی ہر قوم کا شعرو ادب اس کی تہذیب و تمدن، عروج و رواں اور ثقافت و معاشرت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔

عرب کے مسلمانوں نے ادب اور ادیب اور شعرو شاعر کو زندہ جاوید بنانے کے لئے تذکرے لکھنے کی بیانیاتی۔ چنانچہ عربی میں تیری صدی تک اول سے قاسم بن سلام الجبی اور این قیمیہ نے عربی شعرا کے حالات و خونہ کلام کو سیکھا کر کے کتب ترتیب دیں جن میں الصلوی کی "اخبار الشعرا" تقابلی کی "تیمتة الدہر" اور باخرزی کی "دمیۃ القصر" فن تذکرہ نویسی کی مشہور کتابیں تیہم کی جاتی تھیں جو عربی کے ادب عالیہ کا درجہ رکھتی تھیں۔ عربوں کے اثر سے اہل ایران کی توجہ بھی فن تذکرہ نویسی کی جانب مبذول ہوئی لہذا فارسی میں سببے پہلا تذکرہ شعراء محمد عوفی نے ۷۰ھ میں "لباب الالباب" کے نام سے لکھا اس کے بعد ۹۰ھ میں دولت شاہ نے اپنا تذکرہ شعرا مرتب کیا۔ اس کے بعد فارسی میں شعرا کے کئی تذکرے لکھے گئے۔ اہل ایران اور اہل ہندوستان کے میل جوں اور ربط و ضبط سے ہندوستان میں بھی فارسی شاعری مقبول ہونے لگی تو یہاں بھی شعرا کے تذکرے مرتب ہونے لگے۔ ہندوستان میں فارسی شعرا کے تذکرے دسویں صدی سے پہلے نہیں پائے جاتے۔ مغلیہ دور حکومت میں بعض مورخین نے اپنی تاریخوں میں شعرا کے غنقر تذکرے مع خونہ کلام تحریر کرنا شروع کیے۔ چنانچہ ملا عبد القادر بدایوی اور ابوالفضل نے اپنی تاریخوں میں

اکبری دور کے فارسی شعرا، کا مختصر تذکرہ لکھا ہے۔ ان ابتدائی تذکروں میں میر تقی  
میر کے تذکرہ نکات الشعرو اکاذکر خصوصیت سے قابل ذکر ہے جس میں تحقیقی  
و تنقیدی اشارے جا سجا نظر آتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ قدیم تذکروں میں تحقیق کا  
معیار نہایت پست ہے اور سہرا کی میں تذکرہ بنگار نے اپنی جولانی، طبع اور عبارت  
آرائی کے جو بہر و کھائے ہیں، میر تقی میر بھی جو خود صفائی اور سادگی کے دلدادہ  
تھے، مگر اپنے تذکرہ میں وہ سادگی سے کام نہ لے سکے تو پھر میرسن، گردیزی  
قام، مصحفی اور شدیفتہ کا تو ذکر، یہ کیا ہے۔ یہ سب لفاظی و عبارت آرائی سے  
پھر ہوئے ہیں۔ ان کے بعد غالب کے خطوط سے بھی ایک تحقیقی و تنقیدی جملہ  
نمایاں ہوتی ہے۔ ان یاتوں کے مدنظر یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اردو میں تحقیق و تنقید  
پہلے سے چلی آ رہی ہے مگر پہ نظر غائر دیکھا جائے تو سرستید کے زمانے سے  
قومی و ملی شعور کی بیداری کے سبب لوگ اپنی زبان و ادب کی طرف خصوصیت  
سے راغب ہوئے۔ سرستید کا مقصد حیات ہی یہ تھا کہ وہ قومی و ملی شعور کو  
بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ زبان و ادب کو فروع دیں۔ سرستید نے اپنے رفقاء  
کا رکار کی مدد سے جو آج اردو ادب کے عناظر خمسہ کہلاتے ہیں۔ زبان و ادب کے  
گمشدہ خزانوں کو تلاش کیا۔ انہوں نے خود بھی کتابیں لکھیں اور دوسروں کے لوگوں  
سے بھی لکھوایں۔ ان میں حاکی بشیلی، نذیر احمد اور مولانا محمد حسین آزاد کے نام  
خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ سرستید کے یہاں بھی تحقیقی شعور کا فرض مانظر آتا  
ہے جس کی زندہ مثال ان کی کتاب "اثار الصاریح" ہے۔ یہ کتاب ان کے تحقیقی  
کارناموں میں سرفہرست رکھی جاسکتی ہے۔ لیکن سرستید کا دور رہ در تھا جب  
ایک نظام دسم ترڑ ریاضیاتی دوسرا نظام انگلڑا میان لیتا ہوا امیر بریاضہ اس  
افتراضی اور بے اطمینانی کے دور میں تحقیق کاموں کی طرف توجہ دینا کوئی آسان  
بات نہ تھی یہی سبب ہے کہ اس دور کے ہر محقق کے یہاں ایک انتشاری کیفیت  
جھلکتی ہے۔

ادبی اور انسانی تحقیق کے میدان میں اگر کوئی یا میں ہمہ دجوہ بھی سرگرم و مستعد رہا تو وہ صرف مولانا محمد حسین آزاد کی ذات ہے۔ ان کو ادبی اور انسانی تحقیق کی صفت میں اُولیٰ اور اُولیٰ ایشیت حاصل ہے۔ سرستید، حالی، بشیلی اور نذیر احمد نے تو ہر صفت ادب کی طرف توجہ دی مگر آزاد نے خصوصیت سے ادب ہی کو اپنی جوانگاہ بھٹکایا اس لئے ان کے یہاں تحقیق اور تنقیدی پہلو اور دل کی بیانات کہیں زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان کی کشت علم کا ثمر نورس "آبِ حیات" ہے۔ ان کی اس مشہور زمانہ تصنیف کے لئے اگرچہ محققین ادب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ بہت سی تحقیقی اغلاط پر مشتمل ہے مگر سچر بھی آزاد کی یہ تصنیف ادبی تحقیق کا نقطہ آغاز ہے۔ اس میں آزاد نے ادوار بھی قائم کئے ہیں اور ان کی خصوصیات بھی واضح کی ہیں۔

آزاد کے بعد تاریخ کے میدان میں علامہ شبیل نعماں نے مستشرقین مغرب کے علمی و ادبی کارناموں کو مد نظر رکھئے ہوئے تحقیق و تدقیق کی طرف خصوصیت سے توجہ دی۔

بیویں صدی کے آغاز میں حالات کا رُخ بدلا تو مصنفوں و محققین سچر تحقیق و تدقیق کی طرف مأml ہوئے۔ نئے نئے افکار و خیالات اور نئی و نادر کتب منظر عام پڑا ہیں۔ اس زمانے کے زبان سے بڑے محقق و مصنف بایا ہے اردو ڈاکٹر مولوی عبد الحق بیں جہنہوں نے ادبی تحقیق کی ہم نہایت باقاعدگی کے ساتھ شروع کی۔ اور اپنی نام عمر اسی دشت کی سیاحی میں گزار دی۔ اردو ادب میں تحقیق و تنقید کا باقاعدہ رجحان و میلان انہی کے ذوق و شوق اور سرگرمی و مستعدی کے سبب پیدا ہوا اور بھر راہ رو ملتے گئے اور کاروائی بنتا گیا۔ اس دور کے محققین میں پنڈت برجموہن د تاریخی، نواب صدر بارجگ، مولانا حبیب الرحمن خان شردانی، پروفیسر محمود شیرانی، ڈاکٹر محمد الدین قادری زور، نصیر الدین ٹاشمی، رام بابو سکینہ پر فیر مسعود حسن رضوی، ڈاکٹر سید عبدالغفران، سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد

دریا بادی اور مولانا حامد حسن قادری خاص طور پر مشہور و معروف ہیں۔

مولانا حامد حسن قادری کا شمار بھی گذشتہ نصف صدی کے نامور محققین و مورخین ادب کے زمرے میں ہوتا ہے۔ انہوں نے مولویوں اور صوفیوں کے گھر نے میں آنکھ کھولی اور رام پور کی علمی و ادبی فضای میں تعلیم و تربیت پانی جس کی حیثیت اس وقت مصر کے "جامعہ الازہر" کی سی تھی یہاں دہلی و اکبر آباد اور لکھنؤ و مراد آباد کے علماء و فضلا، اور شعراء و ادباء، کا اجتماع تھا دن رات علمی و ادبی تذکرے سے رہتے اور شعر و سخن کی مخلفیں گرم ہوتی۔ شعرائے دہلی و لکھنؤ کی معاصرانہ چشتکوں کے متعلق علمی و ادبی مجادلے ہوتے ہیں، مباحثے چھڑتے اور موازنے کئے جاتے تھے۔ اس ماحول سے مولانا حامد حسن قادری میں بھی تحقیق و تنقید کا ذوق و شوق اور تحریس و تفھیم پیدا ہوا اور وہ موقع پا کر ابھرا۔ انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی ہی میں تحقیقی و تنقیدی اور علمی و ادبی مضا میں بحث کا سلسلہ شروع کر دیا اور جب یہ مضا میں ملک کے مختلف و مقتدر اخبارات و رسائل میں شائع ہوتے تو ان کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ تحقیق و تنقید کا شعور تو پہلے ہی فطری و اکتسابی تھا۔ تاریخ ادب کے وسیع مطالعہ سے اس کو اور بھی جلا بیلی اور اب انہوں نے ادبی تاریخ کے ان گم شدہ گوشوں کی سراغ رسانی شروع کی جن پر پہلے کسی کی نظر نہ پڑی تھی۔ اپنے تحقیقی کاموں میں سے جس کا زمامہ کی بدولت انہوں نے شہرت و مقبولیت حاصل کی وہ ان کی شہرہ آفاق تصنیف "داستان تاریخ اردو" ہے۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ نومبر ۱۹۳۱ء کو اکبر آباد (اگرہ) میں شائع ہوئی اور چند مہینوں میں ہی کتاب کو اتنی شہرت و مقبولیت پھیل ہوئی جس کا مولانا کو تصور بھی نہ تھا۔

اس کتاب کی مقبولیت کا ایک خاص سبب یہ تھا کہ مولانا قادری سے پہلے کسی مورخ نے اردو زبان و ادب کی تاریخ ایسے بسط و کشاد اور تفصیل و تحقیق سے نہ لکھی تھی۔ مولوی محمد سعیی اسہانے ۱۹۱۲ء میں "سیر المصنفین" کی پہلی جلد

اور ۱۹۲۳ء میں دوسری جلد شائع کی۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں مصنفین نشرا درود کے حالات اور طرز تحریر کے ساتھ تصانیف کے فوٹے بھی درج کئے گئے تھے۔ لیکن تنہا نے پہلی جلد میں اُنھیں قدیم کورواروی و عجلت میں لکھا اور ٹیشنہ چھوڑ دیا۔ اور دوسری میں یہ کیا کہ صرف سات آٹھ مشہور و معروف مصنفین کو منتخب کر کے سرشارہ دشتر پر کتاب ختم کر دی۔ مولوی محمد سعیدی تنہا سے پہلے کسی نے نشرا درود کا تذکرہ نہیں لکھا تھا ان کے بعد کے آنسے والوں نے اس طرف توجہ کی۔ ان کی اس کتاب کی اشاعت کے بعد ادارہ و نظم و نشر کی کمی یکجا تاریخیں لکھی گئیں جن میں رام بالوں سکینہ کی "تاریخ ادب اردو"، ڈاکٹر گراہم بیلی پر فلپر لندن پرنیوریسٹ کی "محقق تاریخ ادب اردو" قابل ذکر ہیں۔ ان کتابوں میں ایک نقص یہ تھا کہ یہ سب صرف زبان و ادب کی تاریخیں اور مصنفوں کے حالات پر مبنی تھیں اور تصانیف و تحریزیات کے فوٹے کسی ایک میں بھی نہیں دیئے گئے تھے۔ اس کمی کو مولانا احسن مادردی نے اپنی کتاب "نمونہ منشورات" لکھ کر پورا کر دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں صفت وار نونے دیئے یہ میں مثلاً "تصنیف و تالیف"، تقریط، عدالتی تحریر، اخبار اور خطوط وغیرہ کے صدی وار مرتب کیے ہیں۔ اس طرح یہ ایک طرح کی تاریخ نشرا درود بھی ہے اور اپنی قسم کی ایک منفرد تالیف بھی۔

کسی مصنف کے طرز تحریر اور اس کے تجزیے و خصوصیات کا بیان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی تحریر کی مثالیں سامنے نہ ہوں اور ساتھ ہی ان پر تنقید و تبصرہ بھی نہ کیا گیا ہو۔ تبصرہ و انتقاد، مطالعہ کی رہنمائی اور مضمون کو ذہن نشین کرانے کے لئے نہایت ضروری ہے مولانا قادری نے "فاستان تاریخ اردو" مرتب کرتے وقت ان تمام خامیوں کو مدنظر رکھا اور تاریخ وار ارتقاء سے اردو، ہر دور کے نام مثالیں

ادب اور بعض غیر مشور لیکن ممتاز مصنفوں کے حالات اور ان کی تحریرات کے نو نے بھی درج کیے اور ان پر سیر حاصل تبصرہ بھی کیا۔ تبصرے کے وقت ان کے پیش نظر جو اصول تھا اس کے ملسلے میں دیباچہ میں یوں رقم طرازہ ہے:

”بے لاگ اور بے باک تقید کرنا نہ صرف تصنیف پر بلکہ ذات مصنف پر بھی (مصنف کی حیثیت سے) اپ تک پُلِ حراط“ پر گزر نے سے کم نہیں ہے لیکن میں نے اس کی ”جاریت“ کی ہے۔ میں نے تصنیفوں اور مصنفوں پر اعتراضات کیے ہیں، دوسروں کے اعتراضات نقل کر کے حرب موقع ان کی تائید یا تردید کی ہے۔ میری تقیدیں شاید تlix دبے باک نظر آئیں لیکن بے لاگ بے بوٹ بھی ثابت ہوں گی۔ میں نے صحیح تعریف اور جائز حمایت بھی ایسی کی ہے کہ کسی دوسرے موتخ و تذکرہ نویس نے نہیں کی۔ میرے نزدیک یہ سب ایک تاریخ و تذکرے کے لئے ضروری اجزاء نہیں۔ بغیر اس روشنی کے کسی تصنیف و مصنف کے مطابعہ کا صحیح راستہ نظر نہیں آتا“ (۱)

## داستانِ تاریخ اردو

بے لاگ تقید و تبصرہ کی یہ روح ان کی تصنیف میں ہر جگہ جاری و ساری نظر آتی ہے۔ بہر کہیں اب ہم ان کی کاؤشوں کے ”مر نورس“ داستانِ تاریخ اردو“ کو پیش نظر رکھ کر قادری صاحب کی حقیقت اکاؤشوں پر روشنی ڈالیں گے۔

اس کے دیباچوں سے پتا چلتا ہے کہ مولانا قادری کے ذہن میں اس کو مرتب

(۱) حامد بن قادری، مولانا، ”داستانِ تاریخ اردو“، کراچی: ایجوکیشن پرنسپل ۱۹۷۶ء، (تمیر ایڈیشن) (دیباچہ)، ص ۲۳۔

کرنے کا خیال مدت سے تھا اول تو فطرت ہی کی طرف سے تفھص و تجسس کا مادہ دلیعات کیا گیا تھا مزید پر آں یہ کہ ان کے علمی و ادبی ذوق و شوق نے سونے پر سماں گئے کام کیا۔ انہوں نے یہ کتاب لکھ کر واقعی ایک گران قدر ادبی خدمت انجام دی ہے کیونکہ اردو زبان کی تاریخ چیزیں خشک و غیر دلچسپ موضوع پر اور پھر حوالوں کی کتب کی کمیابی دنایا بی کے باوجود ایک ایسی بیسوٹ اور ضخیم کتاب ترتیب دینا ان کی عرق ریزی اور علمی لگن کا بین ثبوت ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کس قدر محنت و جانفناں سے کام لیا ہے ان کی محنت و جانفناں کا ہی کی تصدیق ڈاکٹر مولوی محمد طاہر فاروقی کے اس قول سے بھی ہو سکتی ہے۔ موصوف فرماتے ہیں :-

"داستان تاریخ اردو کی ترتیب کے لئے قادری صاحب

نے بیشتر تذکرے اور تصریحوں کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تھا اور وقت فوقتاً جو جو مناسب مواد انہیں ملتا رہتا تھا وہ اسے سمجھا اور جمع کرنے جاتے تھے۔" (۱)

یہ بہبہ ہے کہ مولانا کی کتاب میں بہت سی صنفیں کے حالات اور نمونے کے نظر تفصیل سے درج ہیں۔ ان کی اس مشهور و معروف کتاب "داستان تاریخ اردو" کا پہلا ایڈیشن نومبر ۱۹۳۴ء میں شائع ہوا۔ جس کے شائع ہوتے ہی بہت سے ادیبوں اور نقادوں کے تعریفی و تدقیضی اور تنقیدی خطوط انہیں ملے جن کا تذکرہ انہوں نے اپنی اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں خود یوں کیا ہے:-

"سب سے پہلے ۳۱ دسمبر ۱۹۳۴ء کو ڈاکٹر مولوی

عبد الحق صاحب نے دہلی ریڈیو پر اس کے متعلق تقریر یہ نشر کی پھر دہلی لکھنؤ اور جیدر آباد دکن سے دوسرے نقادوں نے بھی ریڈیو پر تصریح

(۱) طاہر فاروقی، ڈاکٹر مولوی محمد (سابق صدر شعبہ اردو، پشاور یونیورسٹی)۔

بکیا۔” (۱)

اس کتاب کے سلسلے میں مولانا کو تعریفی و سائنسی خطوط مٹا تو یوں بھی قرین قیاس تھا کہ اس کتاب سے پہلے چتنے بھی تذکرے و تصریح سے شائع ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک میں بھی ایسی تفصیل و دضاحت کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ ان کے مرتبتین نے نہ ایسے تحریزیے، موازنے اور محاکمے سے کام لیا اور نہ ایسی تحقیقی و تدقیقی راہ اختیار کی۔ رہنمائی کا معاملہ تو اس کو آپ مولانا قادری کی کرنفسی کہیں یا ادبی دیانت و حقیقت پسندی کہ انہوں نے اس کے معائب و محسن کے سلسلے میں بھی دوسرے ایڈیشن کے دوسرے ہی صفحہ پر واضح الفاظ میں لکھا ہے:-

”محبے بردا اطمینان اس بات سے ہوا کہ تصریحہ مکاروں نے میری رعایت و مرتوت سے کام نہیں لیا اور میں ان ہی حضرات کا زیادہ مشکر گزار ہوں جبکہ نے میرے ”ہنز“ کے ساتھ میرے ”عجیب“ بھی گئے۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ ڈاکٹر عبدالatar صاحب صدیقی (الله آباد یونیورسٹی) نے میرے لئے زحمت کو ادا فرمائی اور تصریح میں کتاب کی کتاب لکھ کر روانہ فرمائی جس میں اغلاظ کتابت سے لے کر زبان و مخادر و موضوع و مضمون، بحث و ترقید اور مواد و معلومات سب ہی پر نظر ڈالی، مشورے دیئے، تلافي مافات کی راہ بتائی اور معلومات فراہم کیں۔“ (۲)

ڈاکٹر عبدالatar صاحب صدیقی نے تحریر فرمایا کہ:-

”آپ نے بڑی محنت سے مواد جمع کیا ہے، جو اور

(۱) حامی بن قادری، مولانا، ”دانستان اردو“، محلہ بالا دوسرا ایڈیشن (دیباچہ) ص ۲۔

جگہ نہیں وہ آپ کی کتاب میں ہے۔ خاص کر مختلف مصنفوں کے اسلوب بیان، ان کا تقابل اور ان پر محکمہ اور یہ سارے مباحثت نہایت اہم ہیں۔ اپنی اپنی جگہ یہ چیزوں بہت مناسب ہیں۔ اس سے پہلے جو کتابیں اس سمجھت پرشائع ہوئیں ان میں آپ کی کتاب ممتاز ہے۔” (۱)

اسی طرح دوسرے مصنفوں مثلاً ڈاکٹر مولوی عبدالحق، ڈاکٹر محمد الدین قادری نور، پیر فیض آں احمد سرور، نیاز فتح پوری، دغیرہ نے بھی بڑے لامگے تصریح کیے۔ سرستید احمد خاں کا قول ہے کہ:-

”دنیا میں یہ بات تقریباً ناممکن ہے کہ تمام لوگ ایک رائے پر، گودہ کبی ہی صحیح ویسح ہو، متفق ہو جاویں۔ لپس ضرور ہے کہ آپس میں اختلاف رائے ہو۔ ایسا ہی کچھ مولانا قادری کی اس کتاب کے سلیے میں ہوا بعض رائیں بڑی بلچپ اور متفاوت تھیں مثلاً بعض حضرات ان کی کڑی تنقیدوں پر خفایا ہو گئے اور بعض نے بعض مصنفوں پر کی گئی نرم تنقیدوں کو ناپسند کیا۔ کوئی صاحب کتاب میں غیر معروف مصنفوں کو شامل کر لینے پر مفترض ہوئے تو کسی صاحب نے اسی بات کو قیح القلبی و ادب نوازی سے تعبیر کرتے ہوئے بہت سراہا۔“

ڈاکٹر ڈاکٹر حسین خاں صاحب (سابق صدر جمہوریہ ہند) نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا:-

”عوام سے اردو زبان کی ایک جامع تاریخ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو جدید ترین تحقیقات کو پیش نظر رکھ کر لکھی جائے اور وسعت نظر، حسن ترتیب اور صحتِ تنقید کے لحاظ سے تاریخ ادب کی ان کتابوں

(۱) حاج سزاں قادری مولانا، ”داستان تاریخ اردو“، مولوی بالا رده صراطیہ شیش (اردو یادی)، ص ۲۰

سے جو دوسری ترقی یافتہ زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ نکر سے سکے۔ یہ کتاب میری رائے ہے ہیں اس ضرورت کو باحسن وجہ پورا کرتی ہے۔ مصنفوں کی کتابوں سے کافی اقتباسات دیجئے گئے ہیں۔ اور ان کا انتخاب اس سلسلے سے کیا گیا ہے کہ مصنف کے طرزِ تحریر کی سب خصوصیات واضح ہو جاتی ہیں۔<sup>(۱)</sup>

اس کتاب کی ایک عجیب بات یہ بھی تھی جو بات ایک کے لئے شکوہ کا سبب تھی وہی دوسرے کے لئے تحسین کا باعث مثلًاً کتاب کے طوبیل نمونہ پائے نظر کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈاکٹر محمد الدین قادری نے یوں سراہا:-

”ماشاء اللہ بہت ہی دیدہ زیب اور استھام سے چھپی ہے اور اس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب اردو کے دن پھر گئے ہیں۔ حسن مادرودی مرحوم نے جون قش اول شائع کیا تھا۔ اس وقت کوئی بھی یہ خیال نہ کر سکتا تھا کہ اس ممنوع پر کچھ دنوں بعد ہی ایسی اعلیٰ پائے کی کتاب شائع ہو سکے گی۔<sup>(۲)</sup>

اسی طرح کتاب کی جامعیت و اختصار کو مذکور رکھتے یہو سے نیاز فتح لوری نے تحریر کیا۔<sup>(۳)</sup>

”سب کچھ باوجود اخذ علاوه سے اتنی یعنی نہ اس کا عامل ہے کہ مجھے تو یہ کتاب تاریخ اردو کی اچھی خاصی انسائی کلوپیڈ یا معلوم ہوتی ہے۔<sup>(۴)</sup>

اور حقیقت یہ ہے کہ قادری صاحب بحیثیت ایک محقق و مورخ ادب اردو کے

(۱) حامد حسن قادری، مولانا، ”دانستان تاریخ اردو“، محوالہ بالا، (دوسرا ایڈیشن)، دیباچہ، ص ۹

(۲) ایضاً (دیباچہ)، ص ۹ ،

(۳) ایضاً (دیباچہ)، ص ۹ ،

ایک ایسے بڑے منصب پر فائز میں کران کے بعد آج تک کوئی ان کے اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکا وہ بغیر اختلافِ تاریخ ادبِ اردو کے بلند مرتبہ محقق فضل ارادہ پئے گئے ہیں۔

مولانا کی کتاب "داستانِ تاریخ اردو" کے سلسلے میں پروفیسر آنِ احمد سرور اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:-

" قادری صاحب کی کتاب "داستانِ تاریخ اردو" اس طرح لکھی گئی کہ اٹافِ روم میں ایک قبطاً لکھی اور کاتب کو پیچ دی۔ پھر کلاسِ روم میں چلے گئے۔ شام کو دوسری قسط لکھی۔ خود کہتے ہتھے کہ حوالے کی کتابیں بھی مشکل سے دستیاب ہوتی تھیں۔ مگر انہوں نے بڑی لگن اور محنت سے یہ قابل قدر کام کر دیا۔ اس میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب مخفی شکر کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ اس میں بہت مدد و نفع کے لئے غیر معروف مصنفوں کا بھی ذکر ہے۔ خصوصاً ایسی مددی کے نقادوں کا تذکرہ بہت مفید ہے۔ اس سے بیخیال اور بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ فورٹ ولیم کا بیج اور سرستید کے درمیان کے زمانے کو تاریخی کا درکہتہ ہتھے وہ کس قدر غلطی پر ہتھے" ۱۱۵

اور یہ حقیقت بہرے کہ مولانا نے سرستید سے لے کر فورٹ ولیم کا بیج کے دور کی ادبی تاریخ کے خلا کو اپنی تحقیق و تدقیق سے مکمل کر دکھایا جہاں تک ان سے پہلے کسی نقادر کی نظر نہ پہنچ سکی تھی۔

پروفیسر آنِ احمد سرور (۱۹۲۸ء سے ۳۲ء تک) سینٹ جانس کالج اگرہ کے بی طالب علم رہے۔ مولانا کا تعلق شعبہ اردو سے تھا اور آنِ احمد سرور سائنس کے طالب علم رہتے۔ لیکن اس کے باوجود سرور صاحب کو قادری صاحب

(۱۱) حسن قادری مولانا، "داستانِ تاریخ اردو"، محوالہ بالا، (دیباچہ)، ص ۹۔

کے ہفتہ بی قریب رہنے اور ان سے فیض بایب ہونے کا موقع مثار ہا بکارج کے ماہنامہ میگزین "شفق" میں سرور صاحب کی غزلیں اکثر چھپتی تھیں۔ سرور صاحب کے مندرجہ بالا پیان سے پتا چلتا ہے کہ "داستان تاریخ اردو" مترجم دیستے وقت قادری صاحب کو کہن کہن مشکلات اور دقتوں کا سامنا رہا ہو گا لیکن قدرت نے انہیں شخص و تجسس کا اعلیٰ ذوق عطا کیا تھا پھر لائق و فائع اسائدہ کرام کی صحبت نے بھی اس ذوق کو چار چاند لگائے اور قادری صاحب نے بھی ان سے خوب استفادہ کیا اور "داستان تاریخ اردو" لکھ کر اردو کے نثری ادب میں اک گران قدر اضافہ کیا۔ اس کتاب کی تالیف کے سلسلے میں انہوں نے تذکروں اور بزرگوں کے آقوال سے کام لینے کے علاوہ ہر ایک مصنف کے علمی کاموں کو خود ہی پڑھنے کی کوشش کی اور اس پر رائے بھی دی، یہ بڑی علمیت اور خود اعتمادی کام ہے کیونکہ لوگوں کے کاموں پر رائے دینے میں انہوں نے کبھی کی تقلید سے کام نہیں لیا۔

انہوں نے تصنیفوں اور مصنفوں پر اعتراضات بھی کیے، تائید و تردید بھی کی اور بے لارگ و بے لوث تقدیم کی روایت کو برقرار رکھا اور ان کا ایسا کرنا ضروری حق تجیاب بھی تھا۔ کیونکہ یقیر اس رکھنی کے کسی تصنیف و مصنف کے مطابع کا صحیح راستہ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے روایت و درایت دونوں سے کام لیا اور جن مصنفین کی تصانیف سے مدد لی ان کی ادبی خدمات کا اعتراف بھی کیا۔ کہتا ہے کہ نام کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں:

"داستان تاریخ اردو" (۱۹۳۸ع) میں نے تاریخ گوئی کے شوق میں رکھ دیا تھا۔ بعض نے اس پر اعتراض کیا اور سوال اٹھایا کہ یہ "داستان" زیادہ ہے یا "تاریخ" زیادہ۔ لیکن اب اشاعتِ ثانی میں نام بدل دیا جائے تو کتاب سپچانی نہ جائے گی۔ نام بہت مشہور ہو چکا ہے اس سے اس چیز کو باقی بھی رہنے دیا ہے" (۱)

بھیشیت مجموعی دیکھا جائے تو مولانا کی اس کتاب کو اہل علم و ادب نے یہ نظر احسان دیکھا جس کے سلسلے میں بہت سے ادیبوں، نقادوں اور حالمون کے خطوط انہیں پڑھے اور بہت سے اخبارات، درسائل اور ریڈیو وغیرہ سے اس پر تبصرے بھی کئے گئے۔ اگر یہ بہب تبصرے کیجا کرو دیئے جائیں تو ایک خاصی ول چپ کتاب بن سکتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

”داستان تاریخ اردو“ قادری صاحب کے ادبی کارنالوں میں شاہکار کا حکم رکھتی ہے جس پر ہماری زبان اور سماج ادب بھیشیت فخر کرے گا۔ یہ کتاب اردو زبان کی تخلیق و ارتقائی کیفیت کا آئینہ ہے اور اردو کے شعرا، مصنفوں نثر کے تاریخی حالات کی اپھی خاصی انسانیکلو پیڈیا بھی جو جدید ترین تحقیقات کی روشنی میں انتہائی کدو کا دش کے ساتھ مدقون کی گئی ہے۔ اس میں عقفن مشاہیر کا تذکرہ ہی نہیں ہے بلکہ ان غیر معروف مصنفوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے دوسرے، ہی درجے کی سہی مگر معقول خدمات ادب و زبان انجام دیں۔ جس سے اردو زبان کی عہدیہ عہد ادبی کوششوں اور ترقیات کا وہ سلسلہ مربوط ہو جاتا ہے جس کی کڑیاں رہستیہ سے لے کر فورٹ ولیم کالج تک، اس کتاب کی تصنیف سے قبل تا پیدختیں۔ اس کتاب میں مصنفوں کے اسلوب بیان، ان کا تقابل اور ان پر مدلل و منصفانہ بے لگ محالکہ نہایت شکفتہ عبارت اور دل کش انداز میں کیا گیا ہے۔ اور ایک قابل تالش و محسن کامی پیکیا گیا ہے کہ اُس میں جا بجا مصنفوں کے قطعاً،

(۱) کشتہ، عبداللطیف خاں، حامد حسن قادری، اردوناشر، محوالہ بالا۔

(۲) کشتہ، عبداللطیف خاں، پروفیسر، حامد حسن قادری، ”اردوناشر“ کراچی، جنوری تا ماہی

۱۹۶۵ء، شمارہ ۱۹، ص ۱۲۰-۱۳۰۔

تاریخ وفات خود تصنیف کر کے درج کر دئے گئے ہیں بغرض یہ  
کہ کتاب بہت جامع ہے اور اس وقت تک اس موضوع پر اُردو  
میں کوئی کتاب اس کے پتے کی نہیں لکھی گئی۔ (۱)

قادری صاحب نقشِ ثانی کو نقشِ اول سے بہتر بنانے کے لئے کوشش تھے  
چنانچہ دوسرے ایڈیشن کے دیباچہ میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ :  
 میں چاہتا ہوں کہ دوسرے ایڈیشن میں صرف نظر  
ثانی اور ترمیم و درستی ہی نہ ہو بلکہ کتاب کو دوبارہ لکھ دوں لیکن یہ  
بڑا کلام تھا۔ سو چتا اور ارادہ ہی کرتا تھا۔ حتیٰ کہ پاکستان چلا آیا اور  
کریمی میں آگر بس کیا۔ یہاں آگر کتاب کی اس قدر مانگ دیجھی کر میں  
چیران رہ گیا۔ ادھر آگرے کے پیشکش لکھنے کے متعلق سب رہ گئے۔ اور  
میرے ارادے کتاب کو از سرزو لکھنے کے متعلق سب رہ گئے۔ اور  
عافیت اسی میں نظر آئی کہ کتاب جیسی کچھ ہے دوبارہ پھپنا دی جائے  
چنانچہ یہ نظر ثانی میں ترمیم اور حذف و اضافہ کرنا گیا اور پچاس  
پچاس، سو سو صفحے پھپنے کے لئے بھیجا رہا۔ آخر کتاب دوبارہ  
چھپ گئی۔ الحمد للہ۔ (۱)

مولانا کی اس تحریر سے یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے طبع دوم میں درستی  
و ترمیم اور حذف و اضافہ کیا اور پوری کتاب از سرزو ترتیب نہیں دی البتہ اس کو  
دوبارہ برشے غورہ سے دیکھا اور جن جن باتوں کو اشد ضروری و اہم سمجھا وہ بھی  
اس میں شامل کر دیں۔ اگر کسی تقاد نے لکھا تھا کہ "انداز یہاں سادہ دلے مزہ  
ہے" تو مولانا نے اس کی دل دہی کے لئے اپنی زبان اور یہاں پر بھی نظر ثانی  
کی اور اس طرح ان ترمیم و اضافوں کے بعد دوسری ایڈیشن اپریل ۱۹۵۰ء میں

---

لئے حامد حسن قادری، مولانا، داستانِ تاریخ اُردو، مورہ بالا، دیباچہ،  
ایڈیشن دوم ۱۹۵۰ء،

غزری پریں آگرہ سے شائع ہوا۔

تمیر ایڈیشن بھی دوسرے ایڈیشن کے مطابق صرف نئے دیباچہ کے مقابلے کے بعد جوں کا توں ۱۹۶۶ء ایجوکٹل پریں کراچی سے اردو اکادمی کراچی نے شائع کیا۔

آغاز اردو سے قبل کا حال تحریر کرتے ہوئے مولانا بھتے ہیں :-

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صد ۷ سال قبل گوتم بدھ،  
بانی مذہب بدھ اور ہبہ اپر، بانی جین مذہب سینکڑوں یہس پیلس آریہ  
قوم کے درود ہندوستان کے وقت ہندوستان کے قدیم اور اصلی باشندے  
مختلف صدیوں میں مختلف زبانیں بولتے تھے۔ آریہ لوگوں نے اپنی زبان  
سنکریت کو رواج دیا۔ سنکریت میں وسعت و تمثیل کے جو ہر کتفے  
ہندوستان میں اس زبان کو اس قدر ترقی ہوئی کہ سانی و ادبی و علمی حثیت  
سے دنیا کی بہترین زبانوں میں ہنس کا شمارہ ہے۔ لیکن گردش زمانہ سے صد ۳۸  
سال حکومت کرنے کے بعد سنکریت کو زوال شروع ہوا۔ اور مختلف صوبوں  
زبانیں جن کو پراکرت کہتے ہیں، سنکریت کی جگہ لینے لگیں۔

ان پراکرت زبانوں میں ایک سوریئی پراکرت تھی جو برج یعنی  
منظر کے علاقے سے شروع ہو کر پنجاب، سندھ، بہار اور مالوہ تک شائع  
و عام تھی اسی کی ایک نسخہ کو برج بحاشا کہتے ہیں یعنی منظر کی زبان۔ یہ سب سے زیاد  
وسعی تھی، اور حضرت عیسیٰ<sup>۲</sup> کے زمانے سے قبل علمی زبان بن چکی تھی یعنی اس زبان میں  
تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ<sup>۲</sup> سے نصف صدی قبل  
اجین کے راجہ دکر راجیت کے دربار کے ایک پنڈت دارچی نے برج بحاشا کے  
واحد صرف و تحریک کرنے کے لئے ایک کتاب اب تک موجود ہے۔ اس دو ہزار سال قبل  
کی کتاب میں برج بحاشا کے ایسے بست سے انفلو موجود ہیں جو آج بھی ہماری موجودہ زبان  
اردو میں شامل ہیں۔“ (۱)

۱۔ حامد حسن قادری، مولانا، ”داستان تاریخ اردو: محوالہ بالا (تمیر ایڈیشن)“، ص ۸۰

تاریخ سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ سکندر اعظم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ۳۲۵ سال قبل ہندوستان پر حملہ کیا اس وقت بھی یہاں برج بھاشا رائج تھی۔ ۵۶۹ دسے درود اسلام کا دور مشروع ہوتا ہے لیکن درود اسلام سے قبل بھی عرب و ہندوستان کے ما بین سسلہ تجارت قائم تھا۔ عرب سواحل ہند پر تجارت کی غرض سے آتے تھے اور اپنا مال فروخت کر کے ہندوستانی مال خرید کرے جایا کرتے تھے لیکن یہ صرف تجارتی لین دین ہی نہ تھا بلکہ الفاظ کا بھی ادل بدل ہوتا تھا۔ اور اس طرح بہت سی چیزوں کے عربی نام ہندوستان کے لوگوں کی زبان میں گھم مل جلتے تھے۔

۶۴۳ھ سے ۱۳۷۷ء تک مسلمانوں نے ہندوستان پر کئی بار حملے کئے ۵۰۰ عیسوی مطابق ۶۸ ہجری میں محمد بن قاسم کی سرکردگی میں سندھ پر حملہ ہوا اور پھر ۱۳۷۷عیسوی مطابق ۹۶ ہجری تک ملتان کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آگیا اور پھر مسلمانوں کی سلطنت سندھ پر صد بولن تک قائم رہی۔

چنانچہ ابن حرقیل اور مسعودی جو دو سویں صدی عیسوی میں ہندوستان آئے اپنے سفر نامے میں تحریر کرتے ہیں :-

”سندھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی وضع اور معاشرت اس قدر یکاں ہے کہ تمیز کرنا مشکل ہے۔ دونوں قوموں میں نہایت اتفاق دار نیاطق اُلم ہے۔ عربی و سندھی دولوں زبانیں رائج ہیں۔ اور ملتان میں ملتانی کے ساتھ فارسی زبان بولی جاتی ہے۔“ (۱)

۴۸۶ع میں سبکنگیں تسبیح اسے پڑھ کر کے پشاور تک کا علاقہ اپنے قبضہ میں کر دیا تھا اس کے بعد اس کے بیٹھے سلطان محمود غزنوی نے ۱۰۰۱ء تا ۱۰۲۷ء یعنی تأسیس (۲) سال میں سترہ (۱۲) حملے کر کے پشاور، ملتان، کالمجرا، قنوج، گجرات اور منھرا پر قبضہ کر دیا تھا۔

(۱) حامد حسن قادری، ”مولانا“ داستان تاریخ اردو، کراچی، ایجو کیشنل پرنس، ۱۹۶۹ع (تیرا ایڈیشن) ص ۹۔

خاندان غزنوی نے تقریباً دو برس تک حکومت کی۔ لاہور اس کا دارالحکومت رہا۔ مختلف اقوام و ممالک کے سلسلہ عرب ترک، افغان، مغل اور ایرانی پنجاب میں مقیم رہے اور اپنی ہند کے ساتھ تمدن و معاشرت لیں دین شادی بیاہ ہر قبیم کے تعلق قائم رہے جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے مقامی الفاظ اپنی زبانوں میں ملانے کے شروع کئے اور انہیں نے بھی عربی، فارسی و ترکی زبانوں کے الفاظ اپنی زبان میں شامل کر لیئے۔

## اُردو زبان

اردو زبان کی ابتداء کے لئے مختلف نظریات ہیں۔ اور یہ بات بھی تحقیق طلب ہے کہ اس زبان کے لیے اُردو کا لفظ کب سے اختیار کیا گیا۔ یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ معلوم کے زمانے سے ہندوستان میں "اُردو" کا لفظ شکر و شکرگاہ کے معنی میں آتمال ہونا شروع ہوا۔ اس سلسلے میں حکیم سید شمس اللہ قادری تحریر کرنے ہیں :-

"امیر علاء الدین جوینی کی تاریخ" "جہاں کثا" اور وزیر رشید الدین فضل اللہ کی "جامع التواریخ" سے معلوم ہوتا ہے کہ چنگیز خان اور اس کی اولاد کے زمانے میں مغل بادشاہوں اور بادشاہزادوں کے فرود گاہوں اور شکرگاہوں کو اردو کہا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کا مستقر حکومت بھی اردو کہلاتا تھا اور فرم کافتیم نام اردو بالیغ تھا۔

چنگیز خان کے فرزند جوینی خان کی اولاد نے دشت قباق اور روسر و بلغاری میں ایک وسیع حکومت قائم کر لی تھی۔ اس کے حکمران جب کسی ہم پر مستقر سے روانہ ہوتے تو نہیں نہیں ہیں قیام کیا کرتے تھے جس کے باہم شان کی شکر گاہیں اردو کے مطلاع اور خدا اپنی خواہیں اردو کے مطلاع کے لقب سے شہرت ہو گئی تھیں۔  
(۱) شمس اللہ قادری، حکیم سید، اُردو قدمی، مکھتو، ذلکشند، نس. ن، ص، ۷،

---

(۱) شمس اللہ قادری، حکیم سید، اُردو قدمی، مکھتو، ذلکشند، نس. ن، ص، ۷،

تاییخ سے پتا چلتا ہے کہ حسنہ وحی پنگیر خاں کے بعد سلطان شمس الدین التمش کے زمانے سے سلطان محمد بن تغلق کے دودھ حکومت تک مغلوں نے ہندوستان پر گیارہ حملے کیے اور تقریباً سو سال تک ہندوستان کا شمالی خطہ ان کی تگ قنال کامبیان بنارہا۔ بھی زمانہ تھا جب ہندوستان میں اردو کا لفظ "شکر و شکرگاہ" کے لئے استعمال کیا جانے لگا جس کی تصمیل قاضی منہاج الدین کے اس قول سے جوئی ہے :-

"چون ملکِ اعظم الٹ خاں شکر ہا بطرف ناگور پور و باہک  
شیرخاں ایشان را مقاویت رفت در حوالی سندھ ملک شیرخاں از آنخ  
حریت ترکستان کرد و بطرف اردوئے مغل رفت و بدگراہ منکو خان پوریت" (۱)  
شمس الدین عضیع نے بھی اپنی کتب "تاییخ فیرض شاہی" میں جو ۸۰۱ھ میں تحریر کی گئی ہے اس میں بھی لفظ "اردو" کو "شکرگاہ" کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ ۹۳۲ھ میں جب بابر نے ہندوستان فتح کیا تو دہلی و آگرہ کی فتح کے بعد فتحنے سے روانہ کرتے وقت اپنے شکر کو "اردوئے نصرت شعاد" کے نام سے موسم کیا۔ بابر اکبر اور جہانگیر کے دور کے مورخوں نے بھی اردو کو شکرگاہ کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ ان تینوں بادشاہوں کے دور میں جو سچے دھانے گئے ان پر بھی لفظ اردو شکر، ہی کے معنی میں لکھا ہوا ہے۔  
لیکن امیر خسرو کے دیوان کے دیباچہ سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے دیوان کے دیباچے میں اردو کلام کو "کلامِ ہندوی" کہا ہے۔ اور اس زمانے میں بولجیاں کی مخلوط زبان یعنی اردو کو بھی ہندوی ہی کہا جاتا تھا اس سب سے میں مولانا قادری رقم طراز ہیں ۱۔

"شامانِ مغلیہ کے زمانے میں شاہی شکر و شکرگاہ کو اردوئے معلیٰ کہتے تھے اور بازار شکر کو بازار اردو یا اردو بازار لیکن اس زمانے تک زبان کھلتے اردو کا لفظ مستعمل نہ ہوا تھا۔ سب سے قدیم تحریر حضرت امیر خسرو دہلوی کی ملتی ہے وہ اپنے دیباچہ دیوان میں اپنے اردو کلام کو

(۱) جوز جانی، "قاضی منہاج الدین" طبقات ناصری، مکملہ : سن، ص ۲۲۔

کلام بندوی فرماتے ہیں۔ دوسری قریب مکتب "سیر الادیاء" سے ہے جو سلطان المذاخن حضرت نظام الدین اولیاؑ کے ایک خاص مرید حضرت مسید مبارک معروف بہ میر خورد کی تالیف ہے۔ اس میں حضرت بابا فردیش کر گنج کے ایک قول کے متعلق لکھا ہے: "فرمود یہ زبان ہندی" اور بھی بعض قدیم تحریروں میں اردو زبان کو زبان ہندی کہا گیا ہے۔<sup>(۱)</sup>

قادری صاحب نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ تیرہویں صدی عیسوی سے سولہویں صدی عیسوی تک جہاں جہاں بندوستانی زبان کا ذکر آیا ہے وہ اس طرح پہلے کہ پنجاب کے بزرگوں کے اقوال کو پنجابی یا ملتانی کہا گیا ہے۔ اپنی گجرات کی زبان کو گجراتی اپنی دکن کی زبان کو دکنی اور کسمبی بلا انتباہ ان سب زبانوں کو زبان ہندی بھی کہا گیا ہے لیکن نوح دہلی و آگرہ کی زبان کو اکثر زبان "ہندی" ہی کہا گیا ہے۔ اس بدلے میں قادری صاحب بحثتے ہیں:<sup>(۲)</sup>

"شوریین پراکرتوں نے قبیم زمانے ہی سے مختلف علاقوں میں مختلف شکلیں پیدا کر لی تھیں جو امتیاز کے لیے مقامی ناموں سے معروف تھیں اردو زبان اگرچہ ان سب بولیوں سے مل کر بنی ہے۔ پھر بھی اس کا اصلی سانچہ دہلی اور نواحی درہلی کی زبان ہے۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ دوسرے صوبوں کی مخصوص زبانیں اب بھی الگ الگ رائج ہیں لیکن موجودہ صورت جاتی متعدد کی زبان وہی زبان ہندی ہے جس نے اب اندوکی شکل اختیار کر لی ہے<sup>(۳)</sup>۔" لیکن ہندی کے ساتھ ہی اب زبان کو ریختہ بھی کہا جانے لگا۔ اس وقت نظم اردو کا نام بھی ریختہ ہی تھا۔ ریختہ کو ان معنی میں استعمال کرنے کے علاوہ قادری شاعر اس کلام کو بھی ریختہ کرتے تھے جو مختلف زبانوں سے مرکب ہے۔ قدیم شعر اس سے اردو کے کلام میں فارسی و ہندی

(۱) حامد سن قادری، مولانا، راستان تاریخ اردو، محلہ بالا، (تیرا ایٹلشن)، ص ۱۱

(۲) ایضاً - ص ۱۱ - ۱۲

دونوں زبانیں ملی جلی ہوتی تھیں اس کو رسمیت کہا جانے لگا۔ اردو چونکہ عربی و فارسی اور ہندی و ترکی سے مل کر بنی ہے اسی مناسبت سے اس کا نام بھی زبان رسمیت ہو گیا اور انیسویں صدی عیسوی تک اس کو رسمیت ہی کہا جاتا رہا۔ اس امر کے ثبوت میں سعدی کا کردی، فائم چاند پوری، میر تقی میر اور مرتضیٰ خالب کے اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں۔

شبناشہ اکبر کے زمانے سے شاہی شکر و شکر گاہ کو اردو میں معمولی بنتے تھے اور شکر کے بازار کو "بازار اردو" یا "اردو بازار" کہا جاتا تھا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اردو عام طور پر شکر گاہوں میں بولی جاتی تھی جس کے سبب اس کا نام "زبان اردو" یعنی اہل شکر کی زبان مشہور ہو گیا۔ اور بعد میں کثرت استعمال اور سہل انگاری کے سبب لفظ زبان بھی ترک کر دیا گیا اور صرف "اردو" ہی کہنے لگے۔ اس قول کی تصدیق یہ اشارہ اللہ خان انشا، کے اس قول سے ہے جیسی ہوتی ہے:

"خوش بیانِ آنحضرت دار الخلافت شاہ جہان آباد) متفق شد  
انہ زبان ہائے متعدد الفاظ دلچسپ جدا نموده در بعضے عبارات والفاظ  
تصوت بکار بوده زبانے تازہ سوائے زبان ہائے دیگر بہم رسانیدند و یہ اردو  
موسوم ساختند۔" (۱)

مولانا قادری نے تحقیق یہ بات ثابت کی ہے کہ لفظ "اردو" کا  
کا استعمال شاہ جہان کے زمانے یعنی ستر ہویں صدی سے شروع ہو گیا تھا۔ اس کے متعلق  
ادنگز ذیب حالمگیر شاہ جہان کو لکھتے ہیں:-

"آن منزانِ عالی کہ در زبانِ بندی از دستخط خاص رقی فرموده  
شاہد ایں معافی است۔" (۲)

(۱) اشارہ سید اشناہ اللہ خان، "دریائے سے رطافت" ص۔

(۲) حامد سن قادری، مولانا، "داستان تاریخ اردو"، مجموعہ یالا (تیسرا ایڈیشن)، ص ۱۲

امغار ہویں صدی کے دران شعرائے اردو کے جتنے بھی تذکرے لکھے گئے ان میں بھی اردو کو ہندی یا رسمیت ہی کے نام سے مونہم کیا گیا ہے بعض لوگوں کی تحریدوں سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اکثر دوسرے صوبوں کے لوگ دہلی اور اس کے اطراف و اکناف میں بولی جانے والی زبان کو اردو کہتے تھے چنانچہ مولانا محمد باقر آگاہ دیلوڑی دکتی نے جب دکتی اردو میں نظیں لکھیں تو دیساپے میں ان کی وجہ تصنیف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"ان سب رسالوں میں شاعری نہیں کیا ہوں بلکہ صاف اور  
садہ کہا ہوں اور اردو کے بھائے میں نہیں کہا ہوں۔ کیا داسٹے کہ رہنے  
واے یہاں کے اس بدل کے سے واقع نہیں ہیں۔ اسے بھائی یہ رسالے  
دکتی زبان میں ہیں۔" (۱)

اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس زمانے میں "اردو" صرف دہلی اور اس کے گرد نواحی کی زبان کو تصور کیا جاتا تھا۔

مولانا قادری نے بیان کیا ہے کہ جب شاہجہان نے دہلی کی تعمیر و ترقی اور وسعت و آباد کاری کی طرف توجہ کی تو ایک عظیم الشان لال قلعہ تعمیر کیا۔ دہلی کو شاہجہان آباد کے نام سے موسم کیا گیا قلعہ کو قلعہ معلق اور شاہی شکرگاہ کو الٹے معلق کیا جانے لگا اور جب اردو زبان بھی قلعہ معلق میں داخل ہوئی تو اردو معلق کے خطاب سے نوازی گئی ۔

مولانا قادری کے بیان کی تصدیق سرستید احمد خان اور مولوی عبد الغفور خاں نتائج دنوں کی کتب سے ہوتی ہے۔ سرستید احمد خان لکھتے ہیں :

"جب کہ شاہجہان بادشاہ نے ۱۰۵۸ھ مطابق ۱۶۴۸ء میں شہر شاہ جہاں آباد، آباد کیا اور سرملک کے لوگوں کا مجمع ہوا اس

<sup>۱</sup> حامدن قادری۔ مولانا، "دانش نایخ اردو"۔ محلہ بالا۔ (تمیر ایڈیشن) ص ۱۳

ذمّة میں فارسی زبان اور ہندی بھاشا بہت مل گئی اور بعضہ فارسی لفظوں اور اکثر بھاشا کے لفظوں میں بسبب کثرت استعمال کے تغیر و تبدلی ہو گئی خوفزدگی کے شکر با وشا ہی اور اردو کے معنی میں ان دونوں زبانوں کی نزدیک سے نئی زبان پیدا ہو گئی اور اسی سبب سے زبان کا "اردو" نام ہوا پھر کثرت استعمال سے لفظ زبان کا عذوف ہو کر اس زبان کو اردو کہنے لگے۔ رفتہ رفتہ اس زبان کی تہذیب اور آرائشگی ہوتی گئی بہاں تک کہ تھینا ۱۱۰۰ مطابق ۱۹۸۸ع کی یعنی اوزنگ زیب عالم گیر کے عہد میں شعر

کہنا شروع ہوا" رہ

مولانا قادری اور سرستید احمد خان دونوں کے بیانات کی تائید مولوی عبد الغفور نساخ کے مندرجہ ذیل بیان سے بھی یوں ہو جاتی ہے :

" زبانِ اُندو رُوز مرہ شہر دہلی کو سمجھتے ہیں۔ اس شہر پر قدیم الایام سے برابر زبان ہندی مروج تھی۔ ہر شخص اس زبان میں کلام کرنا تھا جب ۱۵۸۵ء میں سلطان معز الدین مشہور پہ شہاب الدین محمد غوری نے ملک ہند پر چڑھائی کی اہل ہند کو شکست دی۔ رائے پتھورا کا کام تمام کیا ملک ہند سلاطین غور کے قبضے و اختیار میں آیا۔ رفتہ رفتہ زبان قیم میں لفظ فارسی، عربی و ترکی ملتا گیا۔ جب محمد شاہ بن تغلق شاہ سرپر آمد اس سلطنت ہوئے تو باشندگان دہلی پر یہ ایک تازہ ظلم کیا کہ ان کو شہر میں رہنے نہ دیا۔ دیوگیر معرفت پہ دولت آباد میں بیصحیح دیا اور پھر قبیل سلطنت کے زوال کے ان لوگوں کو دہلی میں بلا لیا۔ اس نقل و حرکت کے باعث بہت سے انفاظ دکنی بھی زبان دہلی میں مل گئے، یہی انداز لفظی کو آخر عہد چہا نگیر بادشاہ تک رہا۔ لیکن جب شاہ جہاں

۱۱) سرستید احمد خان، "آثار الصادق"، کان پور، نامی پرنس، ۱۹۳۴ع، ص ۵-۱۰

بادشاہ نے ۱۸۵۶ء میں شاہ جہان آباد کو آباد کیا تو شاہ جہان آباد میں اطراف و جوانب عالم سے ہر قسم کے ذی علم اور صاحب استعداد اور قابل لوگ مجتمع ہوئے تھے قدیم ہندی مترادک ہونے لگی۔ محاورے میں فرق ہونے لگا۔ زیان اردو کی ترقی شروع ہوئی۔<sup>(۱)</sup>

یہ بات حقیقت ہے کہ مختلف قوموں کے میل جوں اور اتحاد والاتفاق سے زبان ضرور متاثر ہوتی ہے اس لئے اردو بھی اس اختلاط کے سبب متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ چنانچہ جب آریں ہندوستان میں آئے تو اپنے ساتھ "زند" لائے جو بعد میں سنسکرت کے نام سے موسوم ہوئی۔ بودھ مذہب کے دور میں پالی زبان کو فوج ملا۔ اور جب ہندوستان میں عربوں کی آمد ہوئی تو یہاں پر بحاشا کا دور دورہ تھا اور یہ پنجاب و سندھ یوپی و بہار وغیرہ میں عام تھی اس کے متعلق مولانا محمد حسین آزاد "آب حیات" میں لکھتے ہیں:-

"اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برح

بحاشا سے سکھی ہے۔ اور برح بحاشا خاص ہندوستانی زبان ہے لیکن وہ ایسی زبان نہیں کہ دنیا کے پردے سے پر ہندوستان کے ساتھ آئی ہو۔"<sup>(۲)</sup>

مسلمان اول اول سندھ و پنجاب میں وارد ہوئے ان کی زبان سے برح بحاشا بھی متاثر ہوئی اور بہت سے اسلامی الفاظ اس میں شامل ہوتے گئے۔ اس طرح برح بحاشا کے بھی بہت سے الفاظ مسلمانوں کی زبان میں گھل بل گئے۔ منوچھری، سنائی، سعود سعد سلمان اور ابو عبد اللہ وغیرہ کے کلام کا مطالعہ کرنے سے زبانوں کے باہمی اختلاط و ارتباٹ کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

(۱) ناخ، مولوی عبدالحفور خاں، "رسالہ تحقیق زبان رکھنیۃ، مطبوعہ ۱۸۹۰ء، بحوالہ

"داستان تاریخ اردو"، مولہ بالا، ص - ۳۰۰۔

(۲) آزاد، محمد حسین، "آب حیات"، بحوالہ "داستان تاریخ اردو"، مولہ بالا، ص ۶۰،

جب مسلمان فاتحین آگے بڑھے تو پنجاب و گجرات اور دہلی تک اور دو کی اشاعت ہو گئی۔ حضرت امیر خسرو (۱۲۵۵ھ) اردو زبان کے سب سے پہلے شاعر اور ان کی تصنیف خالق یادی اردو کی سب سے پہلی تصنیف مانی جاتی ہے۔ ان کے ہی ایک اور ہم عصر بزرگ خواجہ سید اشرف جہانگیر سمنافی نے بھی ۱۳۱۴ھ میں اردو کا ایک رسالہ "اخلاق و تصوف" پر تصنیف کیا۔ میر نذر علی درد کا کورڈی کے لقول یہ اردو کی پہلی تصنیف ہے۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں:-

"سید اشرف جہانگیر نے اپنے سلسلے کے ایک بزرگ مولانا وجہیہ الدین کے ارشادات کو اردو زبان میں (جس کو اس نامے میں زبان بندی کہا کرتے تھے) خود جمع کیا ہے۔ میں نے اپنے بزرگ کے پاس خود اس کتاب کو دیکھا ہے" (۱۱)

جس وقت مسلمان دہلی میں وارد ہوئے تو دو آبہ گنگا اور جمنا کے درمیان کا علاقہ میں برح بھاشا بولی جاتی تھی۔ دہلی اور اس کے گرد و نواحی میں بولی جانے والی زبان ہر یا نوی۔ برح بھاشا اور راجستھانی کا سنتلک ہے۔ گرین نے ہر یا نوی زبان کو دہلی میں شامل کر دیا حالانکہ وہ کوئی طیارہ زیان کھلانے کی سختی نہیں ہے کیونکہ وہ پرانی اردو سے جو گیارہویں صدی میں خود دہلی میں بولی جاتی تھی اس میں اور اردو میں بہت کم فرق ہے۔

شیخ عبدالقدوس گنگوہی (۹۳۵ھ) اور امیر خسرو (۱۲۵۵ھ) دہلی کی زبان کو "دہلوی" لکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردو کی ابتداء کیا ہے۔ حافظ محمود خاں شیرازی اور مولوی محمد سعیی اتنا مصنف "سیر المصنفین" باعتبار صرف دنخوا اردو کو ملتانی زبان کے مخالف بتاتے ہیں چنانچہ ان دونوں حضرات کے بیان سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اردو کا مولد اگرچہ پنجاب ہے مگر یہ دہلی میں

(۱۱) درد کا کورڈی، میر نذر علی، "اردو کی ابتداء مصنفوں اور ملکار"؛ لکھنؤ، دسمبر ۱۹۷۵ء۔

بُل بڑھ کر جوان ہوئی ہے۔ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اردو کا مولد اگرچہ پنجاب ہے مگر یہ دہلی میں بُل کر جوان ہوئی ہے۔

مولانا حامد سن قادری کا نظر یہ اس سے مختلف ہے وہ اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ اردو کی ابتداء پنجاب سے ہوئی کیونکہ پنجاب میں مسلمانوں کے منتقل قیام مختلف عالک اسلامیہ کے مسلمانوں اور ان کی زبانوں کے اجتماع، اہل ہند سے تعلقات نہے ایک خلوط زبان کی ضرورت و صورت پیدا کر دی۔ اہل ہند دوسری زبانیں پہلتے تھے مسلمانوں کی زبان فارسی سنتی ضرورت پیدا ہوتے ہی ایک تھے دوسرے کی زبان سیکھی شروع کر دی جو گی لہذا وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ مولانا محمد حسین آزاد کے اس نظر یہ سے مستفق ہیں کہ اردو دہلی، مستھرا اور آگرہ کے گرد و نوح کی زبان ہے۔ اعبد وہ زبان جس کا ذکر دہلی، آگرہ اور مستھرا کا گرد و نوح تھا دراصل برج بھاشا بھی سنتی ہے۔

ل۔ احمد اکبر آبادی کا خیال ہے کہ اردو کی تشکیل مستھرا اور آگرہ (اکبر آباد) میں ہوئی ہے اپنے اس قول کے جواز میں وہ لکھتے ہیں ۱۔

"اس امر کے ثبوت میں کافی و دافی شہادت ہتھی ہے کہ اس مخلوط زبان نے عبد اکبری میں ایک شکل اختیار کرنا شروع کر دیا تھا جس میں اکبر کا مینا بانار بھی ایک معقول حد تک مدد و معاون ثابت ہوا۔ یہ حقیقت ہٹائے پیش نظر ہے کہ تقریباً اسی زمانے میں یہی کام دکن میں بھی جاری تھا اور کہا جا سکتا ہے کہ اردو کی تشکیل میں مغلبہ اور قطب شاہی دربار میں کو برابر کا درجہ حاصل ہے بلکن بہ نظر تحقیق دیکھنے پر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اردو جس زبان کا نام ہے وہ برج بھاشا کی ترقی یا فتح صورت ہے یا جو برج بھاشا کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کی تشکیل آگرہ میں ہو سکتی ہتھی۔ کیونکہ آگرہ خود برج بھاشا میں شامل ہے۔ دکن میں جونہان بن رہی ہتھی اس کی بنیاد کھنی پر ہتھی جو پراکرت ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت دکن میں پراکرت ہی بولی جاتی ہتھی۔ مؤلف "آب جیات" کو بھی اس معاملے میں مغالطہ ہوا اور

محدثین مابعد بھی آنکھے بند کر کے اسی دُگر پر چلتے رہے۔ "نوپہر" میں امیرخرو  
کے بیان سے یہ بات مصدق ہو جاتی ہے کہ دکھنی ایک جدا گاہ نبھی تھی۔<sup>(۱)</sup> احمد اکبر آبادی کے اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ نظر عارد نیکجا جائے تو معلوم  
ہو گا کہ جب اکبر و جہانگیر کے بعد شاہ جہان نے دہلی کو دارالخلافہ بنایا تو اس کے بعد بھی عرصے  
تک آگرہ نہ صرف اپل علم و ادب اور اپل شعر و سخن کا مرکز بنا رہا بلکہ خام سیاسی امور و  
تدابیر اور منصوبے بھی آگرہ ہری میں عملی جامہ پہنتے رہے۔ کیونکہ مغلیہ سلطنت کا پہلا  
دارالخلافہ آگرہ ہی تھا۔ اسی لئے یہ بات قرین قیاس ہی نہیں بلکہ یقینی طور پر کبھی جاسکتی  
ہے کہ شمالی ہند میں تخلیل اردو کا کام آگرہ ہی نے انجام دیا۔ اب اس کو سولنے اکبر آباد  
کی پرنسپیلی کے اور کپا کہا جاسکتا ہے اور پھر وہ در بھی کچھ ایسا افرانفری اور انتشار کا تھا  
کہ ہمارے محققین دعویٰ تھین کی توجہ بھی اس طرف مبذول نہ ہو سکی ایک خاص بات یہ  
کہ آگرہ سے مرکز دہلی منتقل ہو چکا تھا۔ اس کی دیسے بھی کوئی اہمیت نہ رہی  
تھی۔ اگر آگرہ کے ساتھ یہ بے احتیاط و متعارف نہ بر قی کی ہوتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ  
اڑنکل سے زبان اردو کی یہ گم شدہ کڑی از خود مل گئی ہوتی۔

باہم ہمہ تفعض و تجسس سے آج بھی اس قول کی تصدیق کے سلسلے میں ہم صنعتی بلگرامی  
نے اپنی کتاب "جلوہ خضر" میں اڑنکل سے اردو کا جو خاکہ پیش کیا ہے اس کا ایک اقتباس  
یہاں پیش کرتے ہیں :-

"امیرخرو نے اس طفیل نو خیز نہ کو نظر تو ہم سے دیکھا مگر اکبر  
نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چاہا کہ اس کو سرفرازی کا خلعت سختا جائے  
اور خلعت کی تیاری میں مصروف ہوا۔ راجاؤں کی بیٹیاں مگر میں لا یا۔ بزاروں  
سہیلیوں سے اپنا محل بھر دیا۔ علماء سے ہندی کتابوں کا فارسی ترجمہ کر لایا۔  
ہنود کو دربار میں دخل دیا اور ان سے بات چیت کا موقع ہر طرح رکھا۔ بیربل

(۱) احمد اکبر آبادی: ادبی تاثرات، کلکتہ: نجمن ترقی اردو (ہند) ۱۹۶۳ء، ص ۲۷

کی شوخیاں مشورہ عام میں، مکانات، اوقات اور اشیاء کے نام ہندی، یا ہندی فارسی آمیز رکھ لئے اور محل میں "سینا بازار" بنوایا۔ یہ سب خلعتِ اردو کے سامان ہیں۔ مگر اس کو بھی زندگی نے مہلت نہ دی ابھی خلعتِ ناتیارہ تھا کہ اکبر نام ہوا جیقت میں یہی تجہ اکبر نے ہندیوں کی طرف کی تھی اگر وہ اور زندہ رہتا تو اردو کی صورت اسی وقت میں سب کو نظر آ جاتی اور دربار میں یہی زبان شائع ہو جاتی۔ مگر یہ بھی واضح رہے کہ اکبر نے اپنا پائی تخت اکبر آباد (اگرہ) میں تقرر کیا تھا اور سہی وہیں رہتا تھا۔ ہمیں کو اس فیضِ اکبری سے چند احادیث نہ ملی۔ جہانگیر کے وقت میں بھی سینا بازار فائم رہا۔ شاہ جہاں کے دور میں اور ترقی ہوئی کہ یک ایک اکبر آباد سے شاہ جہاں کا دل اچھا ہوا اور ہمیں جا بایا آگرہ میں شاہ جہاں کے وقت میں اردو کی صورت فائم ہونا اچھی طرح ثابت ہوتا ہے۔ بادشاہ کے دربار و دفتر کی زبان فارسی تھی مگر اردو اس کے عہد میں زبان پر آچلی تھی ۱) (۱۱)

یہ ایک تاریخی بات ہے کہ اکبر آباد (آگرہ) میں مغلیہ دربار کے فائم رہتے تھکنے میں روانی آچلی تھی۔ دور اول کے شعراء کے کلام میں ہندی فارسی اور اردو کے الفاظ "عجم" ملتے ہیں۔

ان باتوں سے ظاہر ہے کہ اگرچہ شاہی و کتابی زبان مدت تک فارسی رہی لیکن کاروباری اور عوامی زبان اردو ہی تھی۔ اس کے علاوہ ہندی شعراء مثلًا "گبیر داسن" تسلی داس، "گرو نانک" اور سور داس وغیرہ کے دو ہوں میں بھی عربی فارسی زبان کی شمولیت نے اردو کے زنگ کو نکھار دیا جس کو ہم شمالی ہند میں اردو شاعری کا نگب بنیاد کرہ سکتے ہیں۔ لیکن اردو شاعری کے لئے ایک اور چیز جو ضروری ہے اس میں

(۱۱) صنیفِ بلگرامی، "جلوہ خضر"، ص ۵۵، سجوالہ "ادبی ناشرات"، ازل۔ احمد اکبر آبادی، محوالہ بالا۔ ص ۲۸۔

فارسی بھرپر بھی شامل ہیں۔ مگر اس اعتبار سے بھی شمالی ہند پر سمجھے نہیں ہے۔ ان امثال سے پتہ چلتا ہے کہ دکن میں شاعری کے آغاز و متعارف ہونے سے پہلے شمالی ہند میں شعری معیار خاصاً ہو گیا تھا اور زبان صاف و شستہ ہو چلی تھی بلکہ یہ کہا جائے تو یہ جانتے ہو گا کہ وہ ولی دکنی کی این زبان سے شستہ تو تھی جو وہ دہلی کا اثر قبول کرنے سے پہلے استعمال کرتے تھے۔ یہ بات بھی خاص طور پر توجہ طلب ہے کہ اس وقت تک اگر شاعری دکن ہی میں تھی تو پھر دہلی کو وہ کوئی اہمیت و خصوصیت تھی جس کی جانب شاہ گلشن نے ولی کی توجہ دلائی تھی اور ولی نے بھی شاہ صاحب کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے شمالی ہند کے اسوب بیان کو اپناتے ہوئے اپنی زبان کو نکھارنے لگتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شمالی ہند کا وہ کونسا مقام تھا جس نے زبان و بیان کو یہ سلاست و روانی سختی لہذا اگر تحقیق سے کام لیا جائے تو یہ تحقیقت بخوبی واضح ہو جائے گی کہ وہ مقام سوائے اکبر آباد را اگر ۵۰ کے کوئی اور نہ مقاوم کہ خان آزاد، مرزا مظہر حان جاناں، مضمون اور آبر و غیرہ کی شرعی تربیت یہیں ہوئی۔ انہوں نے آگرہ ہی سے زبان و بیان کے اصول سمجھے اور دہلی جا کر جگہ لگائے۔

محمد شاہ کا عہد حکومت واقعی برٹے انتشار کا دور تھا لہذا آگرہ کی بھی باطی علم و فن بچھی نہ رہ سکی۔ کچھ شعراء و ادباء شاہ جہاں کے ساتھ دہلی گئے۔ کچھ نے اور گرگ آباد کا رُخ کیا۔ بورہ گئے مختے وہ بھی یہ سوچ کر کہ اب آگرہ پایۂ تخت نہیں رہا اور شعراء و ادباء کی ایسی قدر دانی جو شاہی دور میں ہوتی تھی ممکن نہیں تو وہ بھی بادل ناخواستہ دہلی جائیے۔ لہذا اجنب ان بالکمال لوگوں نے دہلی پہنچ کر باطی شعرو سخن پھر سے بچھائی تو مقامی جو سرہر قابل کو بھی اُبھر نے کام موقع ملا۔ آگرہ سے نقل مکانی کرنے والوں میں سراج الدین علی خان آزاد اور مظہر حان جاناں کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں کیونکہ اردو کے فروع و بقا اور عروج وارتقا، میں دور متقدی میں میں ان دو حضرات کا ایک خاص مقام ہے۔

مرزا منظہر جان جاناں کے سلسلے میں مصنٹ "گل رعناء" تحریر کرتے ہیں:-

"مرزا منظہر جان جاناں نے اس خارزدار کو ایسا چھانٹا کر

شاعری ساقی بن گھنی پھر اپنے زور طبع سے اچھوٹے مصنایں اور فارسی  
ترکیبیں اور ارد و کر دلکش محاوروں کو اس طرح پر ترتیب دیا اور  
ان میں وہ خوبی پیدا کی کہ ابہام اور تجھیں وغیرہ صنائع لفظی جو ہندی  
دُوہوں کی پہیاڑتے اسے سب بھول گئے۔ حزین۔ بیان، حسرت، فقیرہ  
درد مند نے ان کے سامنے زانوئے ادب تھہ کیا اور میر و مرزا وغیرہ نے  
ان کا تتبع کر کے اردو شاعری کو معراجِ کمال پر پہنچا دیا۔" (۱)

ان دو حضرات کے بعد خداۓ سخن میر تقیٰ میر، اور پیغمبر سخن مرزا غالب کی  
شخصیتیں ابھریں ان دونوں حضرات کے سلسلے میں کچھ کہنا سو روح کو چڑائخ دکھانے  
کے متزادت ہے۔ غالب نے اردو شاعری کے علاوہ اردو نشر کو جیسا سلیں و سہل  
بنادیا۔ ہونیا اسلوب دانداز بخش انس کی تقلید و تحسین آج تک جاری ہے اور جاری  
رہے گی۔ بیان یہ عرض کرنا ہے جانہ ہو گا کہ خطوطِ غالب سے چار سال قبل خواجہ  
غلام غوث بیختر اکبر آبادی نے اپنے رقعات کا مجموعہ "خونابہ جگر" کے نام سے  
مرتب کیا جو ۱۸۹۱ء میں شائع ہوا۔ غالب بھی بیختر کی بڑی قدر د منزلت کرتے تھے  
اور ان کو "قبلہ د مولانا" کے القابات سے یاد کرتے تھے۔

جرأت بھی آگرہ سے نی تقل و ملن کر کے گئے تھے اور پھر دنیاۓ شعر و سخن میں  
نام پیدا کیا۔ بہر کیفت گیوئے اردو کو سنوانے میں اہل اکبر آباد کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے  
مگر ان میں سے بیشتر کی غزلت گزینی دگوشہ نغمی کے سبب ان کی شعری و ادبی خدمتا  
منظرعام پر نہ آ سکیں۔ نظیر اکبر آبادی کی شاعری پر بھی اس عہد میں توجہ دی جائے

(۱) حکیم عبدالحیی، "گل رعناء" جوازہ ادبی تاثرات اذل۔ احمد۔ اکبر آبادی  
محولہ بالا۔ ص۔ ۳۳۔

لگی ہے مگر یہ نظر غارہ دیکھا جائے تو نظریہ سب سے پہلے فطری دعویٰ می شاعر ہیں اور آج کی دو شاعری جس کا شمار جدید اور دو شاعری کے ضمن میں ہوتا ہے اس کی داغ بیل حالی و آزاد سے پہلے نظریہ اکبر آبادی ڈال پکھے تھے۔

تام اساتذہ اکبر آباد کی خدمات کا جائزہ اک طویل امل ہو گا میں اس مقلنے میں صرف ان ہی معروف حضرات کا ذکر کر دیں گا جن کا تذکرہ مولانا قادری نے بھی اپنی کتاب "داستان نایرخ اردو" میں کیا ہے۔ ان میں ایک سنتی سید اعظم علی اعظم اکبر آبادی کی ہے ان سے بھی مرزا غالب کے روابط و مراسم تھے۔ غالب کے پنج آہنگ میں آپ کے نام بھی فارسی کا ایک رقعہ موجود ہے۔

مرزا رحیب علی بیگ سرور جو لکھنؤ کے سب سے پہلے مصنفوں نشر اردو شمار بکیے جاتے ہیں اکبر آبادی میں پیدا ہوئے وہیں پہلے بڑھے اکتباً علم و فن کے بعد لکھنؤ پنجھے جس کی تصدیق مولانا عبد الحمیم شور کے مصنفوں کے ایک اقتباس سے بھی ہو جاتی ہے جو مئی ۱۹۱۹ء کو "نقاد" اگرہ میں شائع ہوا، مولانا شرہ لکھنؤ میں ہے:-

"واقعہ یہ ہے کہ اردو زبان اگرہ و درہلی میں پیدا ہوئی،

اردو سے متعلق میں نشوونما پا کے اس نے اپنی موجودہ صورت پیدا کر لی۔

شیداع الدّولہ، آصف الدّولہ اور سعادت علی خان کے زمانوں میں دربار دہلی کی بے استطاعتی اور لکھنؤ کے زاوی درباروں کی دولت مندی و قدر دانی کی وجہ سے تامص صاحبانِ کمال لکھنؤ پنجھ گئے۔ مرزا رحیب علی بیگ سرور اکبر آبادی میں پیدا ہوئے وہیں نشوونما پائی۔ تاثر بے ہمتا بننے کے بعد لکھنؤ میں آئے؟" (۱)

دوسرے مصنفوں کی طرح مولانا قادری بھی اردو کی ابتداء کے متعلق کوئی محسوس نظریہ پیش نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کسی ایک نظریہ سے متفق نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ایک طرف تو اردو کا مولد و مبدار پنجاب کو قرار دیتے ہیں مگر دوسری جانب

(۱) ل۔ احمد اکبر آبادی، "ادبی ثاثرات"، مجموعہ بالا، ص ۲۳۔

وہ اس کا سلسلہ برج بھاشنا سے بھی ملاتے ہیں۔

بہر کہیت اور دو زبان کے آغاز کا مسئلہ ابھی تک متنازع فیہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے اگر اس خاص سنیاتی الجھن کو قادری صاحب دور نہ کر سکے تو اس سے بھیت ایک محقق و مورخ ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ انہوں نے ”داستانِ تاریخِ اردو“ میں اپنی تحقیقی کا وشوں سے بہت سے نئے اکٹھافات بھی کیے ہیں اور تاریخِ ادب کے کہیں تاریک گوشوں کو اجاگر کیا ہے۔ ہم یا ان کی تحقیقِ جدید کی چند نمایاں مثالیں پیش کرتے ہیں۔

## اردو کی سب سے پہلی نشری تصنیف

تاریخِ ادبِ اردو میں دکن کی ۴۰ ولیت ایک مسلمہ حقیقت سمجھی جاتی تھی لیکن مولانا حامد ن قادری کی تحقیق کے مطابق اردو میں سب سے پہلی نشری تصنیف خواجہ سید اشرف جہاگیر سمنانی کا رسالہ ”اخلاق و نصوف“ ہے جو ۸۰۷ھ مطابق ۱۳۴۸ء میں تصنیف کیا گیا۔ خواجہ صاحب ۸۰۸ھ مطابق ۱۴۸۹ء میں سید احمد سوبیں سال کی عمر میں ۸۰۸ھ مطابق ۱۴۰۵ء کو رحلت کی آپ کا مزار کچھوچھے شریف علاقہ اور ہدیہ میں ہے جو آج کل اُتر پردیش کے نام سے موجود ہے۔ یہ ۶۰ صفحات کی کتاب ایک قلمی نسخہ کی شکل میں ہے اور خواجہ صاحب کے سید کے ایک بزرگ مولانا وجہیہ الدین کے ارشادات پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک اقتباس گزشتہ صفحات میں پیش کیا جا چکا ہے۔

قادری صاحب نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مذکورہ رسالہ اردو نشر کی ہی نہیں بلکہ اردو زبان و ادب کی پہلی کتاب ہے۔ وہ ”داستانِ تاریخِ اردو“ میں رقمطران پیش کرہے۔

”نشر اردو میں اس سے پہلے کوئی کتاب ثابت نہیں ہے۔ سید اشرف صاحب ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۴ء میں پیدا ہوئے اور ۱۳۰۰ سال کی عمر کو (جہانگیری) پنچ کرہ ۱۲۰۵ھ/۱۸۷۶ء میں وفات پائی۔ اب تک ارباب تحقیق متفق الراءے تھے کہ شمالی ہند میں اصحاب ہوئیں صدی سے پہلے تصنیف و تالیف نظر کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ فخر دکن کو حاصل ہے کہ رہائش شمالی ہند سے چار سو سال پہلے اردو کی تصنیف کا آغاز ہوا۔ اب سید اشرف جہانگیر کے رسائل تصور کی دریافت سے وہ نظریہ باطل ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ دکن میں اردو زبان کی بنیاد پڑنے سے پہلے شمالی ہند میں امیر خسرو اور سید اشرف جہانگیر سمنانی نے نظم و نثر دونوں کی بنیاد ڈال دی تھی۔“ (۱)

”خالق باری“ کا سال تصنیف معلوم نہیں لیکن امیر خسرو (۱۲۵۵ھ/۱۸۷۴ء) نے ۱۳۲۵ھ/۱۸۶۷ء سید اشرف سے بڑے ہیں اس لئے ”خالق باری“ کو مقدمہ رکھا گیا۔ ممکن ہے کہ سید اشرف جہانگیر کی کتاب پہلے لکھی گئی ہو اور اردو زبان میں تصنیف اولیں ہی ہو۔ بہر حال اولیت ان دونوں میں دائر ہے۔ بعض محققین کی نظر میں ”خالق باری“ کسی بعد کے مصنوع کا کام نامہ ہے تو پھر سید اشرف جہانگیر کی تصنیف رسائل ”اخلاق و تصور“ بی اردو کی اپنی کتاب ہے۔

اردو ادب میں نظم و نثر کی تصنیف و تالیف کا سہرا دکن کے سر باندھا جاتا ہے۔ تذکرہ ”گل رغنا“ کے مؤلف حکیم عبد الحق صاحب کے بقول اردو زبان کی ابتداء دکن سے ہوئی ہے مگر اس سے میں علامہ نیاز نسخہ فتح پوری تحریر کرتے ہیں۔

”اگر اردو زبان یا اردو شاعری سے اس کا ترقی یافتہ دور مراد ہے تو اس کا زیادہ زیادہ شاہ جہاں کے عہد سے شمار کیا جاسکتا ہے لیکن اس سے مقصود وہ ابتدائی تغیرت ہے جسے ہندوستان کی پراکرتب نے فارسی کے

(۱) حامیون قادری، مولانا، ”داستان تاریخ اردو“ مجلہ بالا، ص ۲۳ (تیمرا ایڈیشن)

امتزاج سے قبول کیا تو اس کا زمانہ یقیناً غزنوی ہمہ قرار دیا جائے گا جب  
ہندوستان اور سلانوں میں کافی ارتبا طبیعہ ہو گیا تھا اور جس کا نہایت قوی ثبوت  
مسعود سلمان اور ابو عبد اللہ کا دھنہ ہندی کلام ہے جس کا ذکر عرفی نے کیا ہے  
یہ دونوں پانچویں صدی ہجری کے دوسرے نصف حصے میں پائے جاتے  
ہتھے اس کے بعد رفتہ رفتہ ارتبا طبیعی زیادتی ہوتی گئی بیان تک کہ سالوں،  
آٹھویں صدی میں عام طور پر اس کا رواج ہو گیا اور مشائخ و علماء بھی اس میں  
گفتگو کرنے لگے۔<sup>(۱)</sup>

اگر حلامہ تباز فتح پوری کا یہ قول مُنْظَرِ رَحْمَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا نظریہ باطل ہو  
جاتا ہے کیونکہ دکن میں اردو زبان کی بنیاد پڑنے سے پہلے شمالی ہندوستان میں امیر خرو  
اور سید اشرف جہانگیر نے نظم و نثر دونوں کی بنیادیں ڈال دی تھیں۔

مولانا قادری نے "داستانِ تابیخ اہدو" میں دکنی ادبیات اردو کا بالتفصیل سلطنت دار  
اور عہد پر عہد چائزہ لیا ہے۔ سلطنت کا ہمسی، سلطنت عادل شاہی و قطب شاہی وغیرہ کے  
سب اربابِ نشر کی تصنیفات کا اجمالاً ذکر کیا ہے اور سندھ کے طور پر تحریریں کے  
نونے بھی پیش کیے ہیں۔ شمس العشاق شاہ میران جی کی تصانیف نشر میں سے "شرح مرغیۃ  
القلوب"، "جل تر نگ" اور "گل باس" کا ذکر کیا ہے۔

اسی طرح ملا وجیبی کی "سب رس" میران یعقوب کی ترجمہ کردہ شامل الاتقیاء،  
جس کے مصنف شیخ برہان الدین اوڑنگ آبادی تھے۔ ان کا ذکرہ بتا ہے۔ "سب رس"  
کے فہرست کے مانعہ پر بحث کرتے ہوئے قادری صاحب رقم طراز میں ۱۔

"اگرچہ وجیبی نے اس کتاب (سب رس) میں کہیں اس  
امر کا اظہار نہیں کیا لیکن واقعہ یہ ہے کہ اصل فقہہ اس کے مانع کا نتیجہ نہیں  
ہے بلکہ سب سے پہلے محمد بھی ابن سبیک قاتحی نیشا پوری (متوفی ۵۶۷ھ)

(۱) نیاز فتح پوری (مصنون)، "بخارہ، لکھنؤ، ۱۹۲۵ء ش۔ ص ۸۳

۱۹۴۸ع ہنس فارسی نظم میں لکھا تھا اس کا نام "دستورِ عشق" ہے۔ فتاویٰ  
نے اس قصے کو مختصر طور پر فارسی نشر میں بھی لکھا تھا اور اس کا نام حسن و دل  
لکھا تھا جس میں ادنیٰ اس تصرف کر کے وجہی نے اردو میں لکھ دیا۔ اس  
کا ایک ثبوت یہ ہے کہ حسن و دل کی فارسی نشرِ مقتضی و مُسجّع ہے وجہی نے  
بھی سہبِ رس میں ایسی ہی نشرِ بکھی ہے۔<sup>(۱)</sup>

فتاویٰ کے اس قصے کو بہت شہرت و قبولیت حاصل ہوئی۔ چار ترکی مصنفوں نے  
اس کو اپنی زبان میں لکھا۔لامعی اور آہی نے اس کو نشر میں اور والی و صدقی نے نظم میں  
تحریر کیا۔ دو انگریزوں اور ایک جو منڈاکر نے بھی اسے اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ کی  
اور اصل کے شائع کیا۔ ہندوستان میں صلاح الدین صوفی اور داؤد اپیچی نے ۱۹۴۳ھ/۱۹۶۳ء  
میں اس کو فارسی میں یہ شکلِ مشنوی لکھا۔ شہنشاہِ عالم گیر کے عہدِ حکومت میں ملا جامی بے خود  
(متوفی ۱۹۶۱ھ/۱۹۴۵ء) نے بھی اس کو نظر کیا۔ پھر ۱۹۹۵ھ/۱۹۸۳ء میں خواجہ محمد سیدیل  
نے یہ لطف فارسی نشر میں تحریر کیا۔ اس سے فتاویٰ کی تصنیف کی دل کشی اور قدر دانی کا  
اندازہ ہو سکتا ہے۔ وجہی کی "سب رس" کی بھی دکن کے شعراء نے قدر دانی کی وجہ دیا  
کے دو شاعروں ذوقی اور مجرمی نے بھی اس کو اردو نظم میں لکھا۔ چنانچہ یہ کہنا کہ "سب رس"  
ملا وجہی کی تخلیق اور فرمی کا و شر کا نتیجہ ہے غلط ہے۔

مولانا قادری نے اردو نثر کے اولین دور یعنی دکنی دور کی مکمل اور جامع تفصیلات  
محفوظہ ہائے نظر پیش کی ہیں۔ انہیں جہاں کہیں بھی کسی سے اختلاف رکھے ہو اے۔  
دیں انہوں نے بر ملا اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً " طوطی نامہ" جو "الفتیلی"  
اور "کلیلہ و دمنہ" کی طرح نہایت مشہور و معروف کتابیں ہیں۔ اس کے مصنف کے  
بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ کتاب دراصل سنکریت میں لکھی گئی تھی جس میں  
طوطے کی زبانی نثر کہانیاں بیان کی گئی تھیں۔ مولانا ضیاء الدین شخصی بیانی نے ان نثر

(۱) حاج سعید قادری، مولانا، " داستانِ تاریخ اردو"، محلہ بالا، (تبیر ایڈیشن) ص ۸۳،

کہانیوں میں سے باون کہانیوں کا انتخاب کر کے ۱۳۷۰ھ/ ۱۹۵۱ء جب مان فارسی لکھا اور "اطوٹی نامہ" نام رکھا۔ نخشی کے "اطوٹی نامہ" کو بھی یہ قبول عام حاصل ہوا اور فارسی میں ابوالفضل نے شہنشاہ اکبر کے عہد میں اس کا خلاصہ لکھا پھر سید محمد قادی نے بھی ان باون کہانیوں میں سے صرف پچیس کہانیوں کو عمدہ اور با محاذہ فارسی میں گیا ہوئی صدی ہجری میں لکھا اور "اطوٹی نامہ" ہی نام رکھا۔ ۱۳۶۲ھ میں اسی "اطوٹی نامہ" کا اردو ترجمہ کیا گیا۔ مگر اس کے مترجم کے سلسلے میں ابھی تک کوئی حصتی بات نہیں کی جاسکتی اور وہ ابھی تک پرداز خفا میں ہے۔

ترک زبان میں اس کا ترجمہ عبدالشہ صابری نے کیا۔ دکنی اردو میں ۱۳۶۹ھ/ ۱۹۴۸ء کو خواصی نے نظم کیا۔ ۱۰۷۶ھ/ ۱۹۹۵ء میں ابن نشاطی نے بھی نظم کیا۔ ۱۴۹۲ھ کو انگریزی میں جیرانی ( ) نے اس کا ترجمہ کیا۔ ملا محمد قادری کے فارسی "اطوٹی نامہ" کا ایک ترجمہ ۱۴۲۹ھ/ ۱۹۰۶ء میں ہوا۔ دوسرا ترجمہ ۱۸۰۵ھ میں سید حیدر بخش حیدری نے کیا اور اس کا نام "اطوٹا کہانی" رکھا۔ انگریزوں نے گلیڈون ( ) نے بھی ترجمہ کیا۔ جو فارسی کے ساتھ ۱۸۰۰ء کو لکھتے ہیں شائع ہوا۔ جو منی زبان میں اس کا ترجمہ ۱۸۲۲ھ میں کیا گیا۔ ہندی میں حیدر بخش حیدری کے اردو ترجمے کا ترجمہ ۱۸۸۶ھ میں ہوا۔

بہر حال ملا محمد قادری کے اسی "اطوٹی نامہ" کا اردو ترجمہ جو ۱۳۶۲ھ/ ۱۹۴۳ء میں کیا گیا تھا اور جس کا مترجم ابھی تک پرداز خفا میں ہے اس کی عبارت کامونہ یہ ہے:-

”چھپے بین طرح طرح صفت و ثنا پیدا کرنے والے زمین و

آسان کی کیفیت و حقیقت یہ ہے کہ ماستان قصہ ہا و حکایات حضرت نخشی رحمۃ اللہ علیہ کوں پیچ طوطی نلے کے۔ ساتھ عبارت سخت و دقیق کے لکھے ہیں۔

اس کے تین مفصل بیان دار واسطے معلوم ہونے نام لوگوں کوں محمد قادری

نیک کرے اشد تعالیٰ مرتبہ انوکا پیچ عبارت سلیں اور آسان کے کہ مل ہوئی

اوپر عبارت خطآن کسہ ہونے د روز مرہ جواب دسوال کر دوپت مندان

کے تین لائق ہوئے لکھے ہیں۔ (۱)

یہ عبارت نہایت عجیب و ملِ چپ ہے جس نے لوگوں کو تذبذب میں ڈال کر ہے کہ وہ ملا محمد قادری کو اس کا مترجم قرار دیں یا کسی اور کو، مولانا احسن مارہروی کا استدلال اس معاملے میں درست تسلیم کیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-

”اول تو پرانے طریقہ بیان میں اپنے نام کے ساتھ مترجم و مولف انکسار آمیز الفاظ ضرور لکھتے رہتے۔ دوم یہ کہ اپنے لیے تعظیمی ضمایر جمع کا استعمال نہ ہوتا تھا۔ یہ دونوں پابند یا اس ترجیحے میں نہیں ہیں اور اس پنا پر یہ ترجیحہ محمد قادری کا نہیں ہے۔“ (۲)

مولانا قادری اس عبارت کے اس طرح واقع ہونے کے سبیلے میں کوئی قیاس تقاضہ نہیں کرتے اور وہ اس کا مصنف محمد قادری ہی کو تسلیم کرتے ہیں اس لئے کہ عبارت کے مفہوم سے یہ تاثر ہلتا ہے کہ مترجم نے یہ عبارت بطور تمہید (دیاپہ) اپنی طرف سے لکھی ہے اس لیے مصنف کا نام تعظیم سے لیا ہے لیکن جب عبارت کے مفہوم یہ غور کیا جاتا ہے تو وہ فارسی کا لفظی ترجیحہ معلوم ہوتا ہے جس کی مثال یہ ہے:-

”جیسے سین طرح طرح صفت و شتاپیدا کرنے والے زمین و آسمان کے کیفیت و حقیقت پر ہے۔ بعد از گذنان گوں صفت دشائے خالق زمین و آسمان کیفیت و حقیقت آن است۔“ (۳)

مولانا قادری کے نزدیک مولانا احسن مارہروی کا یہ استدلال درست معلوم ہوتا ہے۔ مگر ترجیحہ کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ قیاس باطل ہمہرتا ہے

(۱) حامد حسن قادری، مولانا ”داستانِ تاریخ اردو“ محوالہ بالا (تیرا ایڈیشن)، ص ۵۱۔

(۲) احسن مارہروی، ”نمونہ نشریات“

(۳)

اس کے متعلق مولانا قادری کی رائے ہے :-

”اگر لکھنے والا اپنی طرف سے لکھتا تو ایسی عبارت نہ

لکھتا۔ انہار ہوئی صدی میں زبان بہت کچھ صفات اور باقاعدہ ہو گئی تھی۔

ترجمے کی یہ حالت البته اس کے بعد تک رہی ہے اس لئے یہ عبارت ضرور

ترجمہ ہے۔ اب ان مشکلات کا حل یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ترجمہ کرنے کرتے جب نام

پر پہنچا تو اس کا جی نہ چاہا کہ محمد قادری نے جس طرح اپنا نام لکھا تھا اس کا بجنبہ

ترجمہ کر دیا اس لیے تعظیمی طریقے سے نام لکھانے یہ کتاب ایسی تھی نہ یہ مقام ایسا

تھا کہ اپنی طرف سے کوئی تصریح جائز نہ ہو۔“ (۱)

یہ مولانا قادری کی ادبی تحقیق کا ایک نامیں پہلو ہے کہ وہ مخفی سنانی باقتوں اور  
غیر مستند حوالوں پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ جب تک وہ فراہم شدہ مواد کی پوری طرح  
تحقیق و تصدیق نہیں کر لیتے اس بچہ قلم نہیں اٹھاتے۔

دکنی دور کی ادبی نشر کے بعد نظر کا دوسرا در شمالی ہندوستان میں ۱۹۳۵/۱۹۴۱ء

سے ۱۹۴۱/۱۹۴۶ء تک ہے۔ اس بیان کی ابتدائی اردو تصنیف ”دہ مجلس“ یا

”کربل کتفا“ ہے جو ملا حسین واغطہ کاشفی کی فارسی کتاب ”روضۃ الشہداء“ کا ترجمہ

ہے۔ قادری صاحب کا خیال ہے کہ اس کا مصنف نامعلوم ہے۔ عام طور پر فضل محل فضلی، یہ

کو اس کا مصنف تصور کیا جاتا ہے مگر تذکرہ نہیں اس بیان میں اختلاف رکھتے ہیں مولانا

حسن ماہر وی نے بھی فضلی کے متعلق صرف تحقیقت کا خلاصہ بیان کیا ہے۔

قادری صاحب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”جب مسر فیلن ( Fallon ) یا مولوی کریم الدین

اپنے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ“ اس کتاب کو نام نہیں نے دیکھا وہ میرے پاس

موجود تھی۔“ اور انہوں نے فضل محل نام لکھا ہے تو مولانا نے فضل لشتنام کو کیوں

(۱) حسن قادری، مولانا، مراتی، نایخ اردو، محوالہ بالا، ذمیر ایلشن، ص ۵۱۔

تریخ دی۔ دوسرے یہ کہ جب اس فضلی کا شیعہ ہونا ظاہر ہے تو مولانا نے اس کو حنفی نقشبندی گروں تسلیم کر لیا۔ تذکرہ "محبوب الازمن" میں جن بزرگ شاہ فضل اللہ فضلی اور نگ ابادی، حنفی نقشبندی کا ذکر ہے۔ وہ یقیناً یہ فضلی نہیں کوئی اور ہیں۔<sup>(۱)</sup>

"دہ مجلس" یا "کریل کتھا" کے اس تحقیقی مطالعہ کے بعد مرزا محمد رفع سودا کے دیوان مرثیہ کا اردو میں لکھا ہوا دیباچہ، "مولانا شاہ رفیع الدین" کا ترجمہ قرآن اور شاہ عبدالقدار کے ترجمہ قرآن کا ذکر کیا گیا ہے۔ قادری صاحب میں بحثیت موڑخ ادب اک بری خوبی یہ ہے کہ دہ کسی بھی اپنی تصنیف کو پیش کرتے وقت اس کے بعد اور سن تصنیف کا تعین ضرور کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ ہر طرح کے نمونہ ہائے تحریر بھی پیش کرتے جاتے ہیں تاکہ قاری کو خود بھی تجزیہ کرنے میں مدد ملتے اور ساقمہ وہ اسلوبِ نگارش کے معاں و معاں پر بھی بے لگ تبصرہ کرتے چلتے ہیں۔ مثلاً میر عطاء حسین تحسین کی تو طرزِ مرصع ۱۴۱۳ھ/ ۱۸۹۸ع میں مکمل ہوئی۔ اس کے اسلوب کی وضاحت کے لئے انہوں نے ایک فہریں بلکہ تین قسم کے نمونے پیش کیے ہیں۔ ایک مقام پر عبارتِ ثقیل و دشوار فہم ہے دوسرے مقام پر اس سے کچھ سهل ہے اور تیسرا مقام پہاں سے بھی صاف و سلیس ہے اور آخر میں خود بھی اس پر یوں تبصرہ کرتے ہیں:

"نو طرزِ مرصع میں عربی و فارسی الفاظ و تراکیب اور تسلیمات و استعارات کی اتنی کثرت ہے کہ بعض فقرے دشوار فہم ہونے کے علاوہ مذاقِ سلیم کے لیے نہایتِ ثقیل و مکرر ہیں۔ ہر جگہ دو چار فقرے کے بعد عربی و فارسی ترکیبیں اور صفتیں ضرور آ جاتی ہیں، محاوروں کے علاوہ کہیں کہیں پرانا غلط اصطلاح بھی پایا جاتا ہے۔"<sup>(۲)</sup>

(۱) حامد حسن قادری مولانا، "دانستان تاریخ اردو" (مولہ بالا، دیپرائیلیشن)، ص ۵۷۔

(۲) ایضاً، ص ۶۹۔

## یورپین مصنفین اردو

قادری صاحب کا ایک بڑا کارنامہ ان یورپین مصنفین اردو کی تصنیفات و تالیفات کا نذر کرہے ہے جو اوراق پریشان کی صورت میں ادھر ادھر سمجھ رہا ہے۔ انہوں نے تلاش سیارہ کے بعد یورپین مصنفین کے سلسلے کی تابع کر دیا دریافت کیے۔ قادری صاحب نے تحقیق سے پتا چلا یا کہ انگریزوں نے اردو نشر بھی کیسی، اردو زبان میں شاعری بھی کی اور بعض صاحب یون ٹائپر بھی ہوئے۔ ملکہ دکتور یہ نے بھی اردو زبان کی تحریک کے لئے مشتی عبدالکریم کو آگرہ سے نندن بلوا یا اردو سیکھنے کے بعد وہ اس زبان میں تکھنے پڑھنے اور دستخط کرنے لگیں۔

قادری صاحب کی تحقیق کے مطابق جان جوشوا کٹلر John Joshua Kattler و دپسلا یورپین اردو مصنف نے جو ۱۸۱۴ء میں پیغاییت اٹھیا کیپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے ہندوستان آیا اور تین سال سوتھی میں رہا اس نے ۱۸۱۵ء میں "صرف و سخون ہندوستان" کے نام سے اردو زبان کی گرامر لکھی جسے بعد میں ڈیوڈ ملر David Mill نے ۱۸۲۴ء میں شائع کیا یہ کتاب لاطینی زبان میں ہے اور ہندوستانی الفاظ و عبارتیں رومن حروف میں لکھی گئی ہیں۔

اس کے بعد قادری صاحب نے ان مختلف اہل یورپ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اردو زبان کی کتب اور لغات کھیل ملا۔ پادری بنجن شلزر Benjamin Shulz نے زبان اردو کی قواعد لاطینی زبان میں لکھی جو ۱۸۲۸ء میں طبع ہوئی۔ اسی مصنف نے ۱۸۲۸ء میں بابل کا اردو میں بھی ترجمہ کیا۔ ڈیوڈ ملر

۱۸۲۸ء میں ہندوستانی حروف تہجی پر ایک کتاب تصنیفت کی۔ ۱۸۲۸ء میں جی لے فرٹز G. A. Fritz نے اردو کے حروف تہجی اور دیگر زبانوں کے حروف تہجی سے Kaslano, Bailey Gatey نے بھی حروف تہجی پر ایک رسالہ النامیشم بر حماحتم

Alpha Betam Brahmanicum

کے نام سے ترتیب دیا۔ ۱۹۶۲ء میں ہیڈلے (Headley) نے اردو کی گرامر صرف فحشو لکھی۔ پرانگالی زبان میں بھی ۱۸۷۸ء میں اردو کی قواعد (Grammatica) لکھی گئی۔ اور یہ گرامیٹیکا انڈوستان (Grammar) کے نام سے شائع ہوئی۔ ڈف دیف (Doff Dif) نے بھی قیام ہندوستان کے دوران ہندوستانی گرامر لکھی جو لندن میں شائع ہوئی۔ اس شخص نے لکھتے ہیں رہ کر اردو، سنسکرت اور بنگالی کی تحریک کی تھی۔ ڈاکٹر مولوی عبد الحق صاحب کی رائے ہے کہ اس نے اردو قواعد میں بہت غلطیاں کی ہیں۔ کپتان جوزف شیر (Captain Joseph Taylor) نے اردو انگریزی لغت اور گلیڈون (Gladwin) نے فارسی ہندوستانی لغت ترتیب دی۔ کپتان تھامس رو بک (Thomas Roebeck) نے ایک کتاب "ترجمان ہندوستانی" لکھی جو لندن میں ۱۸۴۳ء کو اور پیرس سے ۱۸۴۱ء کو شائع ہوئی۔ جان شیکپیر (John Shakespeare) نے اردو لغت لکھی اور منتخبات ہندی دو جلدی میں ترتیب دی۔ ویم ٹیٹ (William Tate) نے ایک کتاب "مقدمہ زبان ہندوستانی" لکھی جو ۱۸۴۸ء کو لکھتے سے شائع ہوئی۔ یہ کتاب تین حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ قواعد، دوسرا حصہ لغت اور تیسرا حصہ زبان دانی کے سلسلے میں ہے۔ ایس ڈبلیو برٹن (S.W. Britton) نے "قواعد زبان ہندوستانی لکھی"۔ اسٹیم فورڈ آرنٹ (Stamford Arnot) نے بھی "جدید خود آموز قواعد زبان ہندوستانی" اور "قواعد عربی فارسی و دیوناگری" لکھی۔ جیمس آر. بالین (James R. Ballantine) نے ہندوستانی گرامر جنڈوستانی گرامر۔ برٹرینڈ (Bertrand) نے "اردو لغت" اور ریورنڈ جی اسکال (Reverend G. Small) نے ہندوستانی گرامر لکھی۔ الیف. فلین (F. Fallon) نے مولوی کریم الدین دہلوی کی فکر میں شاعری کا تذکرہ "شعراء ہند" کے نام سے ترتیب دیا جو ۱۸۳۸ء میں شائع

ہوا۔ ایک جو منی عالم جی دت لوپر انعوکا نے ہندوستانی گرامر لکھی۔ ڈاکٹر الیں ڈبلیو

Dr. S.W. Fallon

فین ر نے " ہندوستانی انگلش ڈکشنری " ، انگلش ہندوستانی ڈکشنری " ، " ہندوستانی انگلش قانونی ڈکشنری " ، انگلش ہندوستانی قانونی ڈکشنری " چار لغات لکھیں۔

ان سب یورپیں مصنفین میں دو شخصیتیں بڑی نمایاں و ممتاز ہیں۔ اول ڈاکٹر جان گل کرائسٹ در

Dr. John Gilchrist

میں۔

Prof. Garcian DeTacky عالم پروفیسر گارسین د تاسی در

## ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کی ادبی خدمات

اردو زبان و ادب پر ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کا بڑا احسان ہے۔ انہوں نے بیش سال تک مسلسل اردو کی خدمت کی اور بہت سی کتابیں تصنیف و تالیف ہوئیں۔ وہ فورٹ ولیم کالج کے ہپکے پرنسپل تھے۔ اس میں انہوں نے اردو کی تصنیف و تالیف کا بھی ایک شعبۂ فاقہ کیا۔ لغات، قواعد اور تاریخ کی کتب خود بھی لکھیں اور ہندوستان کے لائق و فائق اہل فلم مسلمانوں اور ہندوؤں کو جمع کر کے ان سے اردو میں بہت سی کتابیں ترجمہ و تالیف کرائیں۔ اس طرح انہوں نے اس زمانے میں ایسا ادب پیدا کر دیا جو آج بھی اردو میں اپنی نوعیت و افادیت کے سبب بڑی قبولیت و اہمیت رکھتا ہے۔ اس کالج کے مصنفین میں میرامن دبلوی، میرشیری علی افسوس میر جہدی علی حسینی، سید حیدر بخش جیدری، مرزا کاظم علی جوان، نہال چند لاہوری، لولال جی، بیجنی زائن، مظہر علی خان دلا، مرزا علی لطف وغیرہ نے بہت سی کتابیں مثلاً " باغ دبیار "، " باغ اردو "، " آزادیش مختل "، " ہوٹا کہانی "، " سنگھا سن بتی " اور یونیشن ہندو

وغیرہ لکھیں:

جان گل کرائٹ نے اردو کی مندرجہ ذیل کتب لکھیں۔ ۱۔

۱۔ انگریزی ہندوستانی مکشتری (مطبوعہ ۱۷۹۳ء)

۲۔ بندوستانی گرامر (مطبوعہ ۱۷۹۶ء)

۳۔ اورینیشن لنسکوئٹ د مشرقی زبان داں) (مطبوعہ ۱۷۹۸ء)

۴۔ خلاصہ مشرقی زبان داں۔ (مطبوعہ ۱۸۰۰ء)

۵۔ فارسی فعل کا نظریہ جدید مع مسترادفات ہندوستانی،  
(مطبوعہ ۱۸۰۱ء)

۶۔ قصص مشرقی (مطبوعہ ۱۸۰۲ء)

۷۔ رہنمائے زبان اردو (مطبوعہ ۱۸۰۳ء)

۸۔ بندی عربی کا آئینہ، (مطبوعہ ۱۸۰۴ء)

۹۔ قواعد اردو (مطبوعہ ۱۸۰۹ء)

۱۰۔ اردو رسالہ گل کرائٹ (مطبوعہ ۱۸۲۰ء)

۱۱۔ انگریزی ہندوستانی بول چال۔ (مطبوعہ ۱۸۲۰ء)

یورپیں مصنفین میں اردو کا سب سے بڑا مصنف و عالم فرانسیسی پروفسر گارسین د تاسی (Garcin De Taccey) ہے۔ یہ فرانسیسی

عالم و متشرق تھا اس کو اردو زبان و ادب سے اس قدر لگاؤ تھا کہ فرانس میں رہتے ہوئے بھی وہ اردو زبان کی روزافزوں ترقی اور وسعت و ہر دلعزیزی کا جائزہ لیتا رہتا تھا وہ اپنے دوستوں، عزیزیوں اور حکام کی مدد سے اردو سے متعلق ہر قسم کی معلومات حاصل کر لیا کرتا تھا اور ہر سال کے آخر میں اپنی یونیورسٹی میں اس سال کے دوران ہجّنے والی اردو کی نام ترقی و رفتار پر ناقلاً انداز سے روشنی ڈالتا۔ وہ اپنے ان لیکچروں میں شعر و ادب، تصنیف و تالیف، اخبارات و رسائل اور مصنفین کے اذکار و افکار سب کا احاطہ کر لیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے ۱۸۵۰ء سے لے کر ۱۸۷۹ء تک انہیں لیکچر دیئے جن کا اردو ترجمہ انجمن ترقی اردو حیدر آباد دکن

نے "خطبات گارسین دناسی" کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس کے ملادہ اس نے "اردو زبان کی تاریخ" اور دیگر کئی کتابیں تصنیف و تالیف کیں جو مذہب، فلسفة، علوم و فتوح، تصویف، تاریخ، سیرت، قصص، شاعری اور تذکرہ شعراء پر مشتمل ہیں گاہرین دناسی کے ان خطبات نے اردو کے سرمایہ میں خاصاً اضافہ کیا ہے اس سے اردو کے بہت سے کارنامے نمایاں ہوئے ہیں اور تحقیقی و تاریخی کام کرنے والوں بواہی یا تیں معلوم ہوئی ہیں جو بظاہر نایاب معلوم ہوتی تھیں سخوف طوالت ہم ذیل میں صرف اس کی ان تصانیف و تالیفات کی فہرست پیش کرتے ہیں جو مولانا قادری نے اپنی کتاب "داتان تاریخ اردو" میں پیش کی ہے:-

- ۱۔ پسند آموز حکایات کا ترجمہ۔ سنت طباعت (۱۸۲۱)
- ۲۔ انتخاب کلام میر تقی میر مع ترجمہ زبان فرنچ " (۱۸۴۶)
- ۳۔ قصہ کام و پ مصنفہ تحسین الدین ذفری ترجمہ " (۱۸۲۳)
- ۴۔ انتخاب کلام ولی اور نگ آباد مع (۱۸۳۶)
- ۵۔ کتبہ جات عربی، فارسی، اردو۔
- ۶۔ ذکر تذکرہ جات مشتمل بر حالات شعراء و مصنفین ہندی اردو۔ (۱۸۳۸)
- ۷۔ مسلمان مشرق کا علم عرض عربی و فارسی و اردو " (۱۸۳۹)
- ۸۔ ہندوؤں کے کھانے جن کا ذکر اردو کتابوں میں ہے۔ (۱۸۳۹)
- ۹۔ انتخاب قصہ گل بخاری مع ترجمہ زبان فرانسیسی۔ (۱۸۳۵)
- ۱۰۔ اردو زبان کا ابتدائی رسالہ۔ (۱۸۳۳)
- ۱۱۔ سعدی دکنی (۱) ہندوستان کا ایک مشہور شاعر۔ (۱۸۳۶)
- ۱۲۔ تذکرہ شعراء اردو (دو جلدیں میں) (۱۸۴۷)
- ۱۳۔ انتخابات اردو ہندی۔ (۱۸۵۴)
- ۱۴۔ تذکرہ مصنفین و تصانیف اردو۔ (۱۸۴۸)

(۱) اس سعدی کو دکنی مانتے ہیں گاہرین دناسی نے فلسفی کی ہے۔ یہ شاعر مخدوم کمال الدین سعدی یعنی احمد کاکوڑی کے رہنے والے ہیں۔

۱۵۔ خطبات متعلق زبان اردو ۱۸۵۰ء سے ۱۸۷۹ء تک سن طباعت (۱۸۷۹ء)

۱۶۔ خطبات متعلق زبان اردو ۱۸۷۰ء سے ۱۸۷۷ء تک

۱۷۔ تذکرہ شعراء سے اردو (تین جلدیں میں) پہلے تذکرہ مذکور نمبر ۱۲ کا ترمیم شدہ اولیشون مع اضافہ مقدمہ مشتمل بر تاریخ زبان و اضافات شاعری۔ اس میں تین ہزار اردو بندی شعراء و مصنفین کا تذکرہ ہے۔ (۱۸۷۰ء)

گارسین دناسی (Garcin De Tacky) کی جملہ تصنیفات

William Macpherson شعرو ادب سے متعلق تھیں لیکن ولیم میکفرسن (

) نے ایک قانونی کتاب "دستور العمل عدالت" کے نام سے

مرتب کی۔ اسی طرح علم طبیعت (Physics) کے سلسلے میں ایک کتاب

John William Peal آگرہ کا بچ آگرہ کے استٹٹ پرو فلیپر جان ولیم پیل (

) نے ترتیب دی جو مطبع مصوّر آگرہ سے ۱۸۵۳ء میں

شائع ہوئی۔ مولانا قادری نے یورپی مصنفین کے علاوہ اردو کے عروج و ارتقا،

اہم ترقی و ترقہ کے سلسلے میں عیانی مشیریز کا بھی ذکر کیا ہے۔ جنہوں نے بالواسطہ اردو

زبان کی وسعت اور اردو لٹریچر کی کثرت میں سعی کی۔ کیوں کہ انہیوں میں صدی میں اردو

کے ناسپ اور لیخنو کے چھاپے خانے فائم بوجانے کے سبب بائیل کی اشاعت

کثرت سے ہونے لگی جن کا ذکر سرستیدہ احمد خان اور گارسین دناسی نے اپنے خطبے

میں کیا ہے۔

بیسویں صدی میں اگرچہ انگریزوں کی اردو تحریروں کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن اردو

زبان سے دلچسپی اہم اس سے متعلق تالیفات کا سلسلہ جاری رہا۔ مثلاً ۱۹۳۴ع میں

Graham Bailey گرام بیلی ( ) نے ایک مختصر تذکرہ "ہرڑی

آف اردو لٹریچر" (History of Urdu Literature) کا

کہنام سے انگریزی میں لکھا اور لندن سے شائع کیا۔ اس سے اس دور میں اردو کی جو بہرہ گیری بھتی اس کا امدازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ اردو کے دلدادہ خواہ دہ

ہندوستان میں پوں یا انگلستان میں اپنے خیالات کو عملی جامہ پہناتے رہے۔ اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا قادری لکھتے ہیں:

"ابتدائے زبان اردو اور دکن کی تصانیف اردو سے

لے کر عصر حاضر تک کے مشہور اور خاص شاعروں اور مصنفوں کا  
محض حال اور ذکرِ تصانیف درج کیا ہے۔ نمونہ نظر و نظم کچھ نہیں ہے،  
بعض جگہ غلطیاں بھی کی ہیں۔ لیکن کتاب کی ترتیب واضح و دلچسپ ہے  
اور اردو کی رفتار و ترقی کا محمل اندازہ کرنے کے لئے کافی ہے بصنعت  
نے اپنی تصانیف کے زمانہ (۱۹۳۲ع) کے زندہ موجودہ مصنفوں نے  
میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا۔ راشد الجیزی اور پریم چнд تک کو چھوڑ دیا ہے  
شاعروں میں سے صرف ڈاکٹر اقبال کو لیا ہے۔ حضرت مولانا اور  
عَزَّزَتِ الْحُصُونَی کا بھی نام نہیں لیا،" (۱)

مولانا قادری نے تمام یورپیں مصنفوں کی ادبی خدمات کا جائزہ لینے کے بعد  
تفصیلی معلومات فراہم کی ہیں۔ یورپیں مصنفوں کی ان ادبی خدمات کا تذکرہ اردو  
ادب کی کسی تاریخ میں جب مع اور مفصل نہیں ملتا۔ دھنی دور کے نشری کارنالوں  
اور اردو کے سلسلے میں یورپیں مصنفوں کی ادبی خدمات کا بیان قادری صاحب کے  
تحقیقی اور تنقیدی مزاج کا عکاس ہے۔ انہوں نے بڑی تحقیق و تلاش کے بعد  
ان مأخذوں اور نادر قلمی شخصوں کا پتا چلا یا جو مختلف جگہوں پر بھرے پڑے تھے  
اردو نثر کا تیرا دور فورٹ ولیم کالج سے متعلق ہے اس دور کا پہلا  
جائزہ بھی قادری صاحب کی سعی و کوشش کا نتیجہ ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے  
متعلق مولوی محمد سعیٰ تھا کی "سیر المصنفوں" رام باجوہ سکپینہ کی۔ "تاریخ ادب  
اردو" اور مولوی سید محمد صاحب کی "ار باب نثر اردو" میں ان کی ادبی خدمات

(۱) حامد قادری، مولانا، "دانشنامہ تاریخ اردو"، محوالہ بالا (تیرا ایڈیشن)، ص ۹۳۔

کا تذکرہ تو ضرور ملتا ہے مگر مولانا قادری نے جو اذاز اختیار کیا اور جس خصوصیت سے ان مصنفین و ادبیا کے کارناموں پر روشنی ڈالی وہ ان ہی کا حصہ ہے۔ صاحبِ "ارباب نشر اردو" نے صرف چند مصنفین کا تذکرہ ہی ضروری سمجھا اور دوسروں پر کوئی خصوصی توجہ نہ دی مگر قادری صاحب نے اس بدلے کے تمام مصنفین اور ان کی تصنیفات و تالیفات کا بھی جائزہ لیا۔

فرست دلیم کالج کی سرپرستی میں شائع ہونے والی کتابوں کی ادبی جیشیت متغیر کی ان پر ناقدا رہ نظر ڈالی اور ان کا محکمہ بھی کیا جس کے باعث نہ صرف تحقیق ملکہ اس کے دو شش بروڈش تنقید بھی پروان چڑھی۔ فرست دلیم کالج کے زمانے کی کسی بھی کتاب کو کسی بھی غواہ وہ میراً من کی "بانع و بیمار" ہو یا حیدر بخش جیدری کی "آزادش محفل"؛ میر بہادر علی جسین کا "تذکرہ" ہو یا نہال چندر لالہوری کی "ذہبِ عشق" کا بیان، انہوں نے ہر جگہ مصنف کے حالات زندگی مع نمونہ تحریر و تنقید پیش کیے ہیں،

اس زمانے میں جب کہ فرست دلیم کالج میں تصنیف و تالیف کا کام جاری تھا، برصغیر ہندو پاک کے دوسرے مقامات پر اصحاب علم و ادب انضادی و ذاتی طور پر بھی اردو ادب کی ترویج و اشتاعت میں مصروف تھے اور اس طرح اردو نشر کی کتابیں بخوبی کا کام جاری تھا۔ اگرچہ یہ کوئی باقاعدہ اور منظم کوشش نہ تھی مگر فرست دلیم کالج کے قیام سے ایک خاص فائدہ یہ ہوا کہ سلیمان نشر تھاگری کا مقصد متنقین کر کے کام شروع کیا گیا اور اس طرح یہ اپنی توجیہ کا پہلا علمی و ادبی اولرہ یا ندوہ قائم ہو گیا۔ اردو ناٹپ کے پہلے مطبع کا قیام بھی کالج ہی کی کوشش کا نتیجہ تھا۔

اس کالج نے تقریباً بیس سال (۱۸۰۱ - ۲۰۱۴) تک علمی و ادبی خدمات انجام دیں اور اس عرصے میں کالج کے امتحارہ مصنفوں نے اردو میں پچاس کتابیں تصنیف و تالیف اور ترجمہ کیں جو کالج کے لئے ایک قابل فخر کارنامہ ہے کیوں کہ اس دوران فرست دلیم کالج سے باہر تمام ہندوستان میں اتنی کتابیں نشر اردو کی شامدہ بھی لکھی گئیں ہوں بلکہ جو کچھ بھی لکھی گئیں ان میں سے بیشتر آج تک نہ تو منصہ شہود پر آئیں اور

نہ ہی ان کی اشاعت و طباعت ہو سکی۔ ایک بات جو کالج کی تصانیف کو دیگر تصانیف سے ممتاز و مُمیز بناتی ہے یہ ہے کہ بیرون کالج کی کوئی تصانیف بھی زبان و بیان اور روزمرہ و محاورہ کی سلاست کے اعتبار سے میراث کی "باغ و بہار" اور حیدرخنہ حیدری کی "آہ الشِّیْحِ مُحَمَّد" کے مقابلے میں پیش نہیں کی جاسکتی۔

## مُصنِّفین بیرون کالج

بیرون کالج جو لوگ دہلی، آگرہ اور لکھنؤ میں کام کر رہے تھے یوں تو ان کی فہرست طویل ہے مگر ان میں خاص طور پر جو حضرات قابل ذکر ہیں ان میں محمد حسین کلیم، مترجم فضوص الحکم، حکیم شریف نہان دہلوی، مترجم، "مشکواہ شریف" موسوم بـ "کاشف المشکواہ" رفتار ماردو کے سلسلے میں ان کا کارنامہ قرآن مجید کا اردو ترجمہ جو موصوف نے حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ اردو سے تقریباً بیس سال پہلے لکھا تھا۔ انشاء اللہ خان، انشا، اگرچہ بطور شاہزادہ مشہور ہیں اور نشر کی تصانیف کا ان کے گرد و پیش کوئی رواج ہی نہ تھا مگر ان کی دو تصانیف اردو نشر میں انکی ذہانت و فطانت کا ثبوت ہیں۔ اول "رانی کیتیکی" اور کنور اودھ بجان کی کہانی، دوم "دزیلے رطافت" اول الذکر خالص سند و تانی زبان میں لکھی ہے اور عربی و فارسی کا ایک لفظ بھی نہیں آنے دیا ہے۔ جب کہ موناخ الذکر فارسی زبان میں ہے لیکن مضمون و مضمون زبان اردو ہی ہے۔

سید اعظم علی اکبر آبادی آگرہ کالج میں فارسی کے پروفیسر تھے اعلیٰ علمی منصب رکھتے تھے۔ ترجمہ "سکندر نامہ" "قانہ سرور افزا" اردو کی دو تصانیف ہیں

”واقعہ یہ ہے کہ دولت مندی و قدر دانی کی وجہ سے تمام صاحبانِ کمال لکھنؤ پہنچ گئے۔ مزارِ حبیب علی بیگ سرور اکبر آباد میں پیدا ہوئے و پس نشوونما پائی۔ تاثر بے ہمتا بننے کے بعد لکھنؤ میں آئے تو سرور کی تصانیف میں ”فناہِ جیسا“، ”تہرور سلطانی“، ”شر عشق“، ”شگوفہِ محبت“، ”کل زارِ سرور“، ”شبستانِ سرور“ اور ”انتہائے سرور“ شامل ہیں مگر ”فناہِ جیسا“ سرور کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور اسی سے ان کا نام زندہ ہے۔ اس سے انہوں نے اردو انشاء پردازوں میں اپنے لئے ایک الفرادی درجہ قائم کر لیا ہے۔ آج اس دور میں اس کے اسلوب و انداز کو کیا ہی پر تفسیح اور پرتکھفت کیوں نہ سمجھا جائے مگر زمانہ قدیم میں یہی طرز و روش مقبول تھی۔ اگرچہ یہ داستانی لڑپچر کا جزو ہے مگر اس کے چالیس سال بعد اردو میں جدید ناول نے حیثیت لے لیا اور ۱۸۶۲ع میں ڈبی نذر بر احمد نے پہلا ناول ”مراۃ العروس“ لکھا پھر ۱۸۷۸ع میں ستر شار نے ”فناہ آزاد“ پیش کیا۔

سرور کی طرح محمد سجنیش ہجورد بھی ترا ردو میں متفہ و مسحت اردو کے قائل تھے اگرچہ اس زمانے کے گھنام مصنف میں آج صرف ”گلشنِ نوبہار“ ان سے یاد گھا رہے ہے۔

اردو ادب میں فوٹ و لیم کا لمحہ سے لے کر سید احمد خاں کے زمانے تک بندوستان کے مختلف مرکزیں بعض مصنفوں اور ادیبوں نے اردو ادب کی بڑی خدمات سر انجام دیں مگر ان کی خدمات کا کبھی مورخ ادب نے جائزہ نہیں لیا اس لحاظ سے اردو نظر کا یہ دور تاریخی میں بڑا ہوا تھا۔ مولانا قادری نے اس دور کی درمیانی مکمل شدہ کڑیوں کو بڑی کوشش و کاوش سے ملایا اور کئی غیر

(۱) شرہ، مولانا عبد الجلیم، (مصنفوں)، ”نقاد“ (ماہنامہ) اگرہ: مئی ۱۹۱۹ء، سجوالہ ل۔ احمد۔ اکبر آبادی ادبی ناشرات ص ۳۳ محوالہ بالا ص ۳۳۔

معروف ادیبوں کا پتا چلا یا جوان کا ایک قابلِ قدر کارنامہ ہے۔ ان مکتام مصنفوں میں سدا سکھ لال، (۱۴۳۹ھ/۱۸۲۳ء)، "مجموعہ قوائیں"، نیم چند کھتری (قصہ گل صنوبر)، مولوی قطب الدین دہلوی (”ظفر جلیل“ اور ”مظاہر حق“)، منتی جبڑی (ترجمہ الف سیل)، ماسٹر اعم حندر (”جیسا ب روزگار“ اور ”تذکرۃ الکاملین“) منتی جبڑی لال (”مصباح الماحت“ اور ”تعلیم النفس“)، مولوی ضیاء الدین (”مخزن الطیعات“)، ماسٹر بنی دصر (”حقائق الموجودات“) وغیرہ یہ وہ قابل ذکر ہستیاں ہیں جنہوں نے بہت سی مفید اور یادگار کتابیں چھوڑی ہیں۔

بعقول مولانا قادری "انڈیا آفس لائبریری"، لندن" میں یہ سب کتب موجود ہیں۔ جن میں مطبوعہ بھی ہیں اور غیر مطبوعہ بھی۔ موصوف نے مطبوعہ کتب کی ایک فہرست جو تین کتب پر مشتمل ہے۔ "داستان تاریخ اردو" میں شامل کی ہے۔

انگریزی صدی میں جہاں شمالی ہندوستان میں تصنیفت و تالیف کا سلسلہ جاری تھا وہاں دکن میں بھی چند بالکال ادیبوں نے گرانقدر خدمات انجام دیں۔ محمد ایزا، یحیی بیجا پوری نے جو رجب علی یگ سترور کے ہم عصر ہیں، "الواز لہبیل" کا اردو ترجمہ کیا۔ شمس الامر امیر کمیر نانی نظام حیدر آباد دکن کے درباری امراء میں سرفہرست تھے۔ ہلم ریاضی کے برائے ماہر تھے۔ "شمس البندس" ان کی مشہور تصنیفت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کئی رسائل بھی تصنیفت فرمائے۔ محمد عثمان مبین نے بھی "لازم الاسلام" کے نام سے ایک کتاب ترتیب دی۔ غلام امام خان ترین نے بھی دو کتابیں ایک "تاریخ رشید الدین خانی" اور دوسری "تاریخ خود رشید جاہی" مرتب کیں۔ شاہ علی نے بھی "تذکرہ" اور "انوار بدرا" دو رسائلے ترتیب دئے۔

مولانا قادری نے دکن کے گم خدہ ادیبوں کی خدمات کا بھی ذکر کیا اور ان کی تصنیفتیں سے ان کے اسلوب تحریر کے فونتے بھی پیش کیے اور اس طرح انہوں نے اپنی تحقیقی کاوش سے "تاریخ اردو" کے خلاصہ کو پور کر دیا۔

۱۸۵۶ء کے بعد کا دور اردو نثر کا دور زریں کھلانے کا متحقق ہے۔ مولانا قادری نے اس دور کی نثر کے تحقیقی و تنقیدی جائزہ سے پر خصوصی طور پر توجہ دی ہے مرز افالب سے لے کر مولانا نشیلی نعمانی تک انہوں نے اردو کے نثری ادب کا کوئی ایسا نمونہ نہیں چھوڑا جو ان کی دسترس میں تھا۔ اپنی کتاب "داستان تاریخ اردو" میں اس دور کی نثر کا جو تفصیلی جائزہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ مورخانہ و محققانہ حیثیت کا عامل ہونے کے علاوہ ادبی تنقید کا بھی ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگر پہ نظرِ انصاف دیکھا جائے تو ان مایہ ناز و بلند پایہ مصنفوں کے کارناموں کا جائزہ لینا اور ان کی شہرت و مقبولیت سے مرعوب ہوئے بغیر ان کی تصنیف پر بے لگ تنقید و تبصرہ کرنا۔ انہیں اردو زبان و ادب کے ممتاز مورخین و محققین کی صفت میں جگہ دلانے کے لئے کافی ہے۔ بقولِ شاعرہ

موت بن جاتی ہے ان کی زندگی جاوداں

پچھے تو ابیے کام بھی دنیا میں کر جاتے ہیں لوگ

فاللب اور سرستید کے معاصرین میں بھی مولانا قادری نے بہت سے غیر معرفہ ادبی و مصنفوں کا سرانع لگا کر ان کی ادبی خدمات پر تبصرہ کیا ہے جو مندرجہ ذیل میں ا۔ یوسف خان کمبل پوش، حیدر آباد دکن کے رہنے والے تھے۔ سیر و سیاحت کے لئے گھر سے نکلے اول ہندوستان کی سیر و سیاحت کی۔ ۲۰ مارچ ۱۸۳۶ء کو ٹکلتے سنے لندن اور مصر کے لئے روانہ ہوئے اور ۲۵ جولائی ۱۸۳۸ء کو والپیں ٹکلتے پہنچے۔ ان کا سفر نامہ "حجائب فرنگ" اول بارہ ۱۸۴۷ء میں دہلی سے اور دوبارہ ۱۸۴۶ء میں مطبع نول کشور لکھنؤ سے شائع ہوا۔ یہ سفر نامہ اردو میں پہلا سفر نامہ ہے۔ اس میں مصنف نے سفر اور سفر نامہ دونوں کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کی زبان اگرچہ دہلی ہے جو آج سے ڈیڑھ سو دو سو برس پہلے کی ہوئی چاہیئے یعنی عیارت اکثر مقامات پر متفقی و مسجح ہے لیکن مصنف کے ذاتی تاثرات اور واقعات کے بیان کے سبب مادل و افسانہ کا سلطنت آنے لگتا ہے۔ اس

کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہ صرف ایک سیاح کا سفر نامہ ہے جس کی کوئی قومی و ملکی یا مذہبی و تعلیمی غرض پا گدھ سفر نہ ہے۔

۲۔ شاہ عالم تتمہ قاسم دانیپوری : ( ابوالعلائی ) : آپ دانیپور ( حیدر آباد کن ) کے ایک ذی علم صوفی خاندان سے تھے رکھتے تھے اور سلسلہ ابوالعلائیہ کے سجادہ نشین تھے آگرہ صدر نظامت میں مسلم خوان تھے۔ ایک مرتبہ انگریز حاکم کے رو برو میں پڑھ رہے تھے، واقعاتِ مفردہ نے دل پر ایس اثر کیا کہ یہاں کیجیے جذب طاری ہو گیا زور سے "اللہ" کا نعرہ مارا اور میں پھینک کر باہر مکمل گئے۔ بہت دنوں تک پچھری کا سخنہ کیا۔ لیکن انگریز حاکم ان کا بہت ماح احمدان سے بہت خوش تھا۔ پھر بلوایا اور دفتر والوں کو تاکید کی کہ آئندہ کوئی "اللہ والی میل" ان کو نہ دی جائے۔

آپ نے دو کتابیں "اسرار قاسمی" اور "اعجاز خوشنیہ" فارسی میں لکھیں۔ اول اذکر کا اردو ترجمہ مفتی انعام اشترخان نے کیا تھا۔ فارسی کی ان دو کتابوں کے علاوہ آپ نے ایک کتاب "سبحت قاسم" بھی تصنیف کی ہے جس میں حضرت امیر ابوالعلاء کے حالات و کرامات کا ذکر ہے جو ۱۸۵۱ء میں مطبع اشرف الاخباراء آگرہ سے شائع ہوئی۔ ۳۔ مفتی اکرم اشتر صدیقی : ۱۸۳۵ء کو اکبر آباد میں پیدا ہوئے۔ مفتی انعام اشترخان کے فرزند تھے۔ الہ آباد میں مختار رہے تصنیف و تالیف کا بہت شوق تھا۔ متعدد کتابیں انہوں فارسی میں لکھی ہیں مثلاً "علماء" سے اودھ، "اخبار الواصلین"، "ذکرہ مصنفین"، "قواعد اردو"، "فارسی جدید"، "مفید الطلاب" مگر ان میں "تصویر الشعرا" خاص چیز ہے جو ۱۸۶۱ء میں مطبع حیدری آگرہ سے شائع ہوئی۔

۴۔ حکیم قطب الدین باطن اکبر آبادی : ان کے اصلاح طبیب شاہی تھے۔ آپ کے دادا حکیم سید واجد حلبی اکبر آبادی مشہور طبیب اور حضرت مولانا فخر الدین کے خلیفہ خاص تھے۔ حکیم باطن خود بھی حضرت سید غلام نصیر الدین دہلوی کے مرید اور ناظیر اکبر آبادی کے شاگرد تھے۔ حکیم باطن نے چارہ دیوان، ایک مشنوی اور مختلف منظومات یادگار چھوٹی ہیں۔ اور ایک جیب مغرب پر گولی کا ثبوت دیا ہے کہ قام مشنوی میر جسن کو

مختصر کی شکل میں لکھا ہے یہ مثنوی دو ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کا نام "اججاز رقم" ہے یہ پہلی بار ۱۸۹۲ع میں مطبع ریاضن ہند آگرہ سے شائع ہوئی۔ نظر کی ایک تصنیف بھی "تذکرہ گلستان بے خزان" کے نام سے شائع کی جو تواب مصطفیٰ خان شیفتہ، کے "گلشن بے خاز" کے جواب میں لکھی گئی تھی کیونکہ شیفتہ نے اپنے تذکرے میں نظیر اکبر آبادی کو سو قیانہ دعائیا نہ قرار دیا تھا۔

۵۔ پریشان اکبر آبادی و شیخ رجب علی صدیقی کے فرزند اور مزاحم علی بیگ ہتر کے شاگرد ہتھے۔ ان کی سب سین یادگار "تذکرہ شعر و سخن" ہے۔ اس تذکرہ کی ترتیب کے لئے انہوں نے ۱۶ اکتوبر ۱۸۷۹ء کو آگرے میں ایک عظیم اشان مشارعہ کا اہتمام کیا جس کی شہرت دودر دراز کے حوالک تک پہنچی۔ چنانچہ فارسی مشرق پروفیگار میں ذاتی نے اس کے متعلق اپنے خطبہ (۱۸۷۸ع) میں لکھا ہے:-

"ایک بڑا مشارعہ آگرے میں ۱۶ اکتوبر ۱۸۷۹ع کو ہوتے دالا تھا۔" اودھ اخبار "مورخہ ۲۸ ستمبر ۱۸۷۹ع" میں ان شعرا کے لئے ہدایات کا اعلان شائع ہوا ہے جو اس مشارعے میں شرکت کرنا پہانتے ہیں۔ "(۱)

پریشان نے اپنے تذکرے کے لئے تاریخی نام "شعر و سخن" تجویز کیں اس میں صرف اکبر آبادی شعرا کی ہی ایک سو ایک غزلیات میں۔ اللہ آباد و عنیرو کے شعرا کی بھی چودہ (۱۴) غزلیں شامل ہیں۔

۶۔ مولانا عبد الحق خیبر آبادی، مولانا فضل حق خیبر آبادی کے خلف اکابر جو ایک مہتر عالمِ عربی کے بلند پایہ شاعرا اور کثیر التصانیف مصنف گزرے ہیں۔ سریداحمد خان نے "آثار الصناديد" میں اور منشی امیر احمد مینائی نے "انتخاب یادگار" میں مولانا فضل حق کے عربی قصائد کا انتخاب درج کیا ہے۔ مولانا عبد الحق ۱۸۷۱ء میں مدھلی میں پیدا ہوئے۔ والد سے تحصیل علوم کی

مولہ سال کو عمر میں سُنْدِ فضیلت پائی۔ حکومت سے شمس العلما، کا خطاب بلا۔ آپ اپنے زمانے کے امام فلسفہ مانے جاتے تھے۔ آپ نے تقریباً چالیس کتابیں تصویف کیں جن میں اردو کی ایک کتاب "زیدۃ الحکماء" بہت مشہور ہے۔ یہ منطق کی ایک عمدہ کتاب ہے جو ایک کامل فن اور عالم علم منطق نے تحریر کی ہے۔ آپ نے اس کتاب میں علمائے سابق کا اختلاف اور ان پر اپنا محلکہ بھی تحریر کیا ہے۔

ان مصنفین کے علاوہ مولانا قادری نے مشی دیبی پرشاد سحر بدایونی، مولوی محمد نصیل کھنلوی، مولوی محمد علی تحصیلدار و خیسرہ کا بھی ذکر کیا ہے جن کی تصانیف بھی اردو کی بہترین کتابوں میں شمارہ ہوتی ہیں۔ اگر مولانا قادری ان مصنفین کو نظر انداز کر جاتے تو آج دنیا کے شعر و ادب میں کوئی بھی ان کے ناموں اور کارناموں سے آشنا نہ ہوتا۔ مولانا قادری کا ان مصنفین اور اردو ادب پر یہ ایک خطیم احسان ہے۔ مذکورہ بالا یہ تینوں حضرات نثر و نظم دونوں پر پوری طرح عبور رکھتے تھے۔ دیبی پڑھ سحر کو تایرسخ گوئی میں بھی بڑا کمال حاصل تھا۔ مرزا رحیب علی گیگ سرور کی رحلت پر انہوں نے یہ تایرسخ لکھی تھی:-

مُرُد چوں شاعر بے مثل سُرور در جہاں شور و شغب کر وظیو  
ہست جازی بزہ بان ہر کس حائیہ آمد الم و رفت سُرور (۱۲۸۳)

مولانا قادری نے سربرید کے رفقاء میں سے محسن الملک، وقار الملک مولانا قادری کے رفقاء میں سے محسن الملک، وقار الملک اور مولوی چہارغ علی کی ادبی خدمات کا بھی جائزہ لیا ہے۔ عام طور پر مورخین ادب سرستید کے رفقاء میں حائل، بشیلی اور تدیر احمد کی ادبی خدمات و کارنامہ میری بیان کرتے ہیں۔ لیکن نثر اردو کے قصر کی تعمیر میں ان حضرات کا بھی بڑا جتنا ہے جسے نظر انداز کرنا کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔

مولانا قادری کا یہ ایک بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے نامور ادباء کے ساتھ ساتھ گنائم اور غیر معروف ادیبوں کو بھی تلاش و تحقیق کے بعد اپنی شہر فماق

کتاب "داستان تاریخ اردو" کا جُزو بنایا ہے۔ سرستید احمد خان کے ممتاز رفقاء کے کارنامے روز رکشن کی طرح عیاں ہیں۔ خواہ وہ مولانا محمد حسین آزاد ہوں یا ذپیٹ نذیر احمد، خواجہ الطاف حسین حالی ہوں یا مولانا شبیل عسافی، مولانا قادری نے جدید تحقیق کی روشنی میں اردو کے ان غلطیم ادیبوں کی سیر و سوانح، تصنیفات و تالیفات پر بڑی گھری نظر ڈالی ہے اور تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ اگرچہ اردو نثر کے دور متأخرین کے ادیبوں کے کارناموں کے جائزے میں تنقیدی پہلو زیادہ نمایاں ہے لیکن یہاں بھی مولانا نے جا جا اپنی محققانہ بصیرت کا ثبوت فراہم کیا ہے۔

"داستان تاریخ اردو" مولانا قادری کو تحقیق و تنقید کا شاہکار ہے۔ ان کی تحقیق و تنقید کا جائزہ لینے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ناقدانہ بصیرت اور تحقیقی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ ان کی تصانیف اور تحریرات میں ناقدانہ بصیرت اور تحقیقی جستجو دنوں کا توازن بتاتا ہے وہ نقاد ہوتے ہوئے بھی محقق معلوم ساختے ہیں اور محققانہ روشن پر گامزن رہتے ہوئے بھی تقاضہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی تنقیدی و تحقیقی تصانیف کا بہ مختصر ساجائزہ اس حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ بقول ڈاکٹر سید ابوالحسن کشفعی "مولانا نے نصف صدی ادب کی پروش اور ارتقاء کے نئے صرف کرداری مان کے پا نظری اور عملی تنقید میں نہایت خوش گوارہم آہنگی ملتی ہے وہ ان نقادوں میں سے نہ تھے جو مغرب کی تنقیدی کتابوں سے اصول و نکات تقلیل کر کے نہایت عالمانہ مصنایف توہمارے شاعروں اور ادیبوں کے بارے میں لکھ دیتے ہیں مگر کسی شعر کا مطلب پوچھئے تو دانتوں پیغام آجائے" (۱)

لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب تک مولانا کی ادبی خدمات کا سجا طور پر اعتراف نہیں کیا گیا۔ حالانکہ مولانا نے اردو ادب کی جیسی کچھ خدمات انجام دیں اور داستان

(۱) کشفی، ڈاکٹر سید ابوالحسن، "ہمارے عہد کا ادب اور ادیب"، کراچی :

جاوید پرسیں ۱۹۶۱ع، ص ۱۱۲ -

تاریخ اردو کے ذریعہ جس طرح گل نام اور غیر معرف مصنفین اردو کو بھی زندہ جاوید بنایا ہے۔ وہ ان کا ایک جنتیا جا گتا کارنامہ ہے اور اس اعتبار سے وہ اردو ادب کے مورخوں اور محققوں کی صفت میں ایک نمایاں حیثیت کے محقق ہیں ہمیں تھیں ہے کہ آنے والا دور مولانا فاطمی کے ادبی کارناموں کو یقیناً نظر انداز نہیں کرے گا۔ بقول میر تقی میر سے

بارے دنیا میں رہو شاد کہ ناشاد رہو۔

ایسا کچھ کر کے چلو یاں کہ بہت یاد رہو



## باب پنجم

# مولانا قادری بحیثیت مُترجم

اردو نشر کے عروج و ارتقاء میں ترجمہ کو بھی بڑا دخل رہا ہے۔ ترجمہ ہی کے ذریعہ سے سلیس اردو نشنگاری کو فروع ہلا۔ اس سلسلے میں فورٹ دیم کالج کے مصنفین کی خدمات قابل داد ہیں۔ اس کالج نے مسلسل بیشتر سال تک یہ خدمات نہایت سرگرمی سے انجام دیں اور اس دوران انھارہ، انیس مصنفوں نے پچاس (۵۰) کتابیں تیار کیں جن میں بیشتر کتب ترجمہ پر مشتمل تھیں۔ جو بے حد مقبول ہوئیں اور میرا من کی "باغ و بہار" کی پسندیدگی کا حوال تو یہ ہے کہ یہ انگریزی، فرانسیسی، پرہنگانی اور لاطینی زبانوں میں بھی ترجمہ کی گئی۔ میرا من کی کتاب "باغ و بہار" ہی نے ان کے نام کو غیر فنا فی بنادیا ہے۔ اس میں انہوں نے دل کی پریلطف زبان، دل چپ بیان، اردو کے متعلق کے روزمرہ و محاورے، دل کش فقرے و مکالمے اور موقع پر موقع طوالت و اختصار سے خوب کام لیا ہے۔ یہ نام خوبیاں اس دور میں ان کے پیش رو مصنفین کے ہاں نظر نہیں آئیں۔

مشہور فرانسیسی مستشرق گارسین دناسی نے اپنے خطباب میں میرا من کی "باغ و بہار" کا ذکر بھی یوں کیا ہے۔

"اس کتاب کے پڑھنے وقت آپ بہت مفید اور کار آمد

بات یہ پائیں گے کہ ان قصتوں میں ہر صفحہ پر آپ کو قومی خصوصیات کے

متعلق ایسی باتیں ملیں گی جو ہمیں اصلی ہندوستان اور خاص کر اسلامی  
ہندوستان کے سمجھنے میں بہت کامہ آمد ہوں گی۔<sup>(۱)</sup>  
”باغ و بہار“ کے متعلق مولانا حامد حسن قادری بھی ایک جگہ لکھتے ہیں:  
”باغ و بہار“ اس زمانے کے تمدن و معاشرت کا آئینہ  
بے اسلامی حقایق اور ضعیف الاختقادیاں، رسم درواج، طعام و لباس  
مشافل و معمولات، آداب و اخلاق، غرض ہر قسم کے حالات پر روشنی  
پڑتی ہے۔<sup>(۲)</sup>

فروٹ ولیم کا لمح سے قبل بھی اور اس کے قیام کے بعد بھی بر صغیر میں اردو  
ادب کی خدمات ہوتی رہیں لیکن یہ نظر غائر دیکھا جائے تو اس امر کا انکشافت ہو  
گا کہ اردو نثر کی سب سے پہلی منتقل و مکمل تصنیف ہولانار فیض الدین رحمۃ اللہ علیہ کا اردو  
ترجمہ قرآن ہے۔ یہ ترجمہ اگرچہ لفظی بے محاورہ اور دشوار فہم ہے اور آج تو کیا اس  
زمانے میں بھی بول چال اور گفتگو کی زبان ایسی نہ ملتی اور اصل بات تو یہ ہے کہ عربی زبان  
کی وسعت و بلاغت اور قرآن کریم کی معجزہ عبارت ترجمہ کی گرفت کی متحمل نہیں ہو  
سکتی لہذا شاہ صاحب جیسی بزرگ مسٹری کو بھی یہ خیال رہا کہ کوئی ایسی کمی میشی نہ  
ہو جائے۔ اس لئے انہوں نے ہر لفظ اور ہر حرف کا ترجمہ عربی کی ترتیب کے مطابق  
اسی موقع پر لکھ دیا۔

شاہ رفیع الدین کے ترجمے کے چند سال بعد ۱۲۰۵ھ/۱۷۸۰ء میں شاہ عبدالقدیر  
نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا مگر یہ ترجمہ بھی سلسلیں و بامحاورہ نہیں ہے لیکن آپ نے اس  
میں یہ استحکام رکھا کہ شاہ رفیع الدین صاحب کی طرح ہر لفظ اور ہر حرف کا ترجمہ کرنے

(۱) مختلبات گارسین ذناسی ”بحوالہ“ داستان تاریخ ردو“ از حامد حسن قادری، کراچی، ایجکوشن پرنس

۱۹۶۶ع (تیسرا مڈیشن)، ص ۱۰۲۔

(۲) الفضا ص ۳۰۳۔

بچائے اداۓ مفہوم اور تشریح مطالب کو خصوصیت سے مدد نظر کھا اسی لئے آپ  
کا ترجمہ پہلے ترجمے کی بہ نسبت محضرا اور صاف نظر آتا ہے یہی وجہ تھی کہ یہ ترجمہ  
بہت مقبول ہوا اور کثرت سے شائع ہوا اور پڑھا گیا۔

چنانچہ قرآن مجید کا وہ ترجمہ جو شاہ رفع الدین کے بعد شاہ عبدالقدار صاحب  
نے کیا تھا زیادہ مقبول رہا کیونکہ شاہ صاحب نے اس میں با حمادره اور سلیمان و سہل  
زبان کا استعمال زیادہ کیا تھا اور پھر اسے ذاکر نذریہ احمد نے اپنے زور بیان سے آگے  
چل کر اور یہی چار چاند لگا دیئے۔ مگر حمادروں کے شوق میں خوب گل کھلاشتے۔

## ترجمہ کی اہمیت

اس ذکر سے بیان کرنے مقصود یہ ہے کہ ترجمہ کی شرط اول تو صحتِ مضمون ہی  
ہے مگر یہ لفظ اور حرف یہ حرف ایسی نہ ہو کہ ترجمہ، ترجمہ نہ رہ کر حرف گور کو  
وہندابن جانتے۔ ترجمہ میں اصل عبارت کا مطلب و فہیم پوری طرح سے واضح  
ہونا چاہیے اگر ترجمے میں کہیں لقص رہ گیا تو یہ کسی فتنہ و فساد کا سبب بھی ہو سکتا  
ہے۔

صحتِ مفہوم کے صلاوہ ترجمہ میں زبان کی لطافت ہونی بھی ضروری ہے کیونکہ  
مفہوم کی درستی و وضاحت اور لطف زبان و بیان بعض اوقات اصل کو بھی سچھپے  
پھوڑ دیتا ہے مگر اس کے لئے کوشش و کاوشن اور علم و زیان دانی کی ضرورت ہے  
اپنے ترجمے کی ایک خاص پہچان ہی یہ ہے کہ یہ نہ پہچانا جاسکے کہ آیا وہ ترجمہ ہے یا  
اصل عبارت۔

اس سلسلے میں میر امن دہلوی کی "یانغ د بہار" حسن بلگرامی کی "تاریخ تمدن  
عرب"، دیپی نذریہ الحمد کا "مجموعہ تعریفات ہند"، ذکاء اللہ، عنایت اللہ اور  
مرزا محمد عسکری کے ترجمہ، نیاز فتح پوری کی "گیتا شجاعی" یا مولانا حامد حسن قادری

کے "باغبان" جن جن ترجم پر بھی نظر جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سب ہی بزرگوں نے ترجم کے نظریات کا میاپ نہیں پیش کیے ہیں جو اردو زبان و ادب کے لئے ایک پیش بہار سرمایہ ہیں۔

مولانا فتادری نے کہیں زبانوں (انگریزی، عربی اور فارسی) مختلف مخصوصات پر ترجیح کیے ہیں جو کوئی کتابوں کی شکل میں موجود ہیں۔ بظاہر کسی مصنفوں کا ترجمہ کرنے کوئی مشکل نظر نہیں آتا مگر ترجمہ کرنے کا کام نہایت کھنچن دشوار ہے۔ بلکہ یہ تصنیف تالیف سے بھی کہیں زیادہ دشوار ہے تجربات شاہد ہیں کہ دلیلوں سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ درحقیقت ترجمہ کرنا بمعنی زاد مصنفوں لکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ تصنیفات اور تالیفاتی تحریروں میں اطمینانِ خیال کی آزادی ہوتی ہے مصنعت و مذلت جو کچھ لکھنا چاہے لکھتا چلا جاتا ہے مگر مترجم کے سامنے ہر قدم پر پابندی ہے۔ وہ اس بات کو ہر وقت پیش نظر رکھتا ہے کہ اصل مصنعت کا طرز فکر، اندازہ تحریر، اطمینانِ خیال اور اندازہ بیان اپنی جگہ فائم رہے بعض اوقات اسی کو مصنعت کے کسی خاص لفظ کے معنی کی لفڑی دزدشت کے پیش نظر یا اس کے مقصد و مفہوم کی وضاحت کے لئے الفاظ و محاورات کی جستجو کر کے عبارت کو سنوارنا پڑتا ہے تاکہ مصنعت کے طرز و اسلوب اور زور بیان میں کوئی فرق واقع نہ ہونے پائے۔

اچھے اور اعلیٰ ترجموں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں مترجم مصنعت کے خیالات و نظریات اور مقصد و منشائی کو اپنی زبان کے توسل سے اس طرح پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والا اس کو مترجم کے نہیں بلکہ اپنے ہی حالات و خیالات سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے ترجم بڑی قدر و منزکت کی نگاہ سے دیکھ جاتے ہیں اور ایسے ہی ترجمے اصل تصنیف سے کہیں زیادہ اہمیت حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ ہم خیام، چینوف، موپسان، میکہم گورکی، اقبال، میگور، فالب اور زور الاسلام وغیرہ کی شہرت و مقبولیت میں ان شہپاروں کے ترجموں کو بھی بڑا دخل رہا ہے۔ زبان و ادب کی ترقی، خیالات و نظریات کی تبدیلی اور علمی و ادبی ذوق کو سکھانے والے نے میں بھی ترجموں کا بڑا

دخل ہے۔

ترجمہ کی اہمیت اور تراجم کرنے میں جو دقتیں اور مشکلات حاصل ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے ڈاکٹر مولوی عبد الحق تحریر کرتے ہیں :-

"تینی قسم کی کتابوں کے ترجمے میں خاص طور پر دشواری ہوتی ہے آسمانی صحیفوں کے ترجمے میں کہ جس میں لفظ کے ذریعے فرق سے مفہوم کچھ لامکجھ ہو جاتا ہے۔ دوسرے قدم اکی اہمیت کتب (کلائلس) کے ترجمے میں جن کا ایک وصف ایجاد ہوتا ہے۔ قدیم اساتذہ و علماء علمی مسائل کو کم سے کم الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے بعد کے علماء کو ان کتابوں کی شروع اور حواشی لکھنے پڑتے بیان میں اس قدر طوالت سے کام لیتے ہیں کہ ان کے خلاصے لکھنے پڑتے ہیں۔ ترجمے میں اس ایجاد کو قائم رکھ کر اپنی زبان کے مناسب الفاظ میں فکر کے صیحع مفہوم کو ادا کرنا آسان کام نہیں۔ تبیرے فلسفہ اور سائنس کی اہمیت کتب کا ترجمہ جن کے سمجھنے کے لئے بڑے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلسفہ و سائنس کے پیچیدگی اور گہرے مسائل آدمی خود تو خود و فکر اور محنت کے بعد سمجھ سکتا ہے لیکن ان مسائل کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے دوسروں کو سمجھانا نہایت مشکل ہے اس میں بڑے صبر و محنت کی ضرورت ہے۔" (۱)

کوئی مصنف اس بابت سے سجنوبی باخبر ہوتا ہے کہ اس کو کیا لکھنا ہے اور کس طرح لکھنا ہے۔ وہ زبان پر پورا پورا عبور اور قدرت رکھتا ہے اور وہ جس طرح اور جس انداز سے چاہتا ہے۔ اپنے خیالات کو الفاظ کا جامہ پہنا سکتا ہے لیکن

(۱) عبد الحق، ڈاکٹر مولوی، "ترجمہ کی اہمیت" "قومی زبان" (ماہنامہ) کراچی، اکتوبر ۱۹۵۸ء  
بحوار "افکار عبد الحق"، آمنہ صدیقی ص ۳۲۔ ۳۳۔

مترجم کا کام اس کے بالکل ریکس ہونا ہے اسے اپنے خیالات و نظریات کو بالائے طاق رکھ کر دوسرے کے افکار و نظریات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اسے مصنف کے اندازِ بیان اور طرزِ تحریر سے کما حقہ، آگاہی حاصل کرنا ہوتی ہے، اس کو مصنف کی عبارت کا بغور مرطاعۃ کر کے اس کے صحیح مفہوم و مقصد کو اخذ کرنا ہوتا اور اس طرح وہ ایک دوسرے شخص کے مافیِ الضمیر کو ایک دوسری زبان میں اور ایک مختلف انداز سے پیش کرتا ہے اس کے علاوہ اس کو اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ترجمہ کی ہوئی عبارت کے معانی و مفاسیم اصل عبارت سے کسی طرح بھی مختلف نہ ہونے پائیں۔ اس لئے ترجمہ کرنا واقعی کسی عام آدمی کے لیس کی بات نہیں اس کے لئے بڑے علم اور مہارت کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ کام سولے بندیوں اور بیب اور قادر الکلام انتار پرداز کے کسی اور سے سجا طور پر انجام ہی نہیں دیا جا سکتا۔

ترجمہ کرنے میں دوسری ایک اور وقت یہ ہے کہ ہر زبان کا جغرافیائی، تاریخی، تمدنی اور معاشرتی اور رواستی ماحول، الفاظ و محاورات اور جملوں کی خصت و بنادوٹ اُن کا لب دلچسپ اور طرزِ ادا سب مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم اور دو زبان کے ان الفاظ کا ترجمہ کسی اور زبان میں کرنا چاہیں۔ آنتوں کا قلہ سوانش پڑھنا ہتھیلی پر سرسوں جانا، آستین کا سانپہ ہونا، حلقہ کی قبر پہلات مارنا تو ان کا ترجمہ فصیح و بیغ نہیں ہو سکتا اور اگر کیا بھی گیا تو بڑی دشواری درپیش ہو گی۔ کیوں کہ بعض الفاظ اور روزمرہ و محاورات ایسے ہوتے ہیں جو ایک زبان میں تو عام ہوتے ہیں اور بلا تأمل تحریر و تقریر اور بول چال میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مگر دوسری زبان میں ان کا کہیں وجد نہیں ہوتا۔ مثلاً انگریزی زبان میں آپ اور کے بہت سے الفاظ کا ترجمہ کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکے کا اور اگر کیا بھی گیا تو اس کی شیرینی و لطافت اور زدر و اثر جانا رہے گا۔ اسی طرح انگریزی زبان کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کا اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ بات پیدا

نہ ہو سکے گی جو انگریزی الفاظ کی ادائیگی سے ہوتی ہے اس کے علاوہ ترجیحے میں ایک بات یہ ہے کہ اکثر ایک مذکور کی آب و سوا اور تمذیب و تمدن دوسرے سے قطعی مختلف ہوتی ہے مثلاً لندن میں ماہ مئی کو نہایت خوشگوار اور فرحت بخش ہمیشہ تصور کیا جاتا ہے شاعر اور ادیب اس ہمیشہ کی دھوپ کی بہت تولیفیں کرتے ہیں اور یہ ان کے لئے ایک نعمت غیر متوقع ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے ہمارے یہاں یہی مئی کا ہمیشہ سختگر فی کام ہوتا ہے اور آگ برسنی معلوم ہوتی ہے۔ لہذا ترجیح کرتے وقت ایک بڑی دشواری یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اگر خیال کی ترجیانی کریں تو زبان کی خوبیاں غارت ہو جاتی ہیں اور اگر لفظی ترجیح کریں تو معنی و مفہوم مضائقہ خیسٹر ہوے جاتے ہیں۔ اونان دونوں باتوں کو برقرار رکھنا بڑا ہی دشوار طلب کام ہے۔

اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ بہت سے محاورات اور ضرب الامتثال کے متزاد و مماثل الفاظ دوسری زبانوں میں بھی مل جاتے ہیں مگر آپ بہ نظر غارہ بکھیں تو یہ بہت کم ہیں اور اگر یہی تو ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے اور یعنیہ وہی مفہوم ترجیح میں مشکل سے آتا ہے جو اصل زبان میں پایا جاتا ہے۔ مصنف یا طبع زاد لکھنے والے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ صرف اسی زبان میں ماہر ہو جس میں مضامین تحریر کر رہا ہے مگر ترجیح کرنے والے کے لئے یہ بات لازم و ضروری ہے کہ وہ دونوں ہی زبانوں پر کامل عبور رکھتا ہو (جس زبان سے وہ ترجیح کر رہا ہے اور جس زبان میں ترجیح کیا جا رہا ہے) یہ بات بھی کچھ کم تعجب خیز نہیں ہے کہ اپنی زبان سے کسی دوسری اور غیر زبان میں ترجیح کرنے کے مقابلے میں دوسری یا غیر زبان سے اپنی زبان میں ترجیح کرنا زیادہ دشوار اور وقت طلب ہے۔

ان تمام باتوں کے باوجود لوگ ترجیح کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے اور انہیں خفیہ گردانستہ ہیں جب کہ تحریر کے سبکے کا یہ سب سے مشکل کام ہے اور خاص کر ادبی مضامین کا ترجیح کرنے میں تو دانتوں کو پسینا آ جاتا ہے۔ اس سبکے میں ڈاکٹر

مولوی عبد الحق بکھتے ہیں :-

”ترجمہ کو بعض اوقات تحرارت سے دیکھا جاتا ہے لیکن ترجمہ کوئی معمولی کام نہیں ہے اس میں اسی قدر جان کا ہی اور سرد روایت کرنی پڑتی ہے جتنی نئی تابیف یا تصنیف میں۔ ترجمے میں وہی کام مایب ہو سکتا ہے جو مضمون پر حادی ہونے کے علاوہ دونوں زبانوں میں کابل ترجم رکھتا ہو۔ ادب کی نزاکتوں سے واقف ہو اور اصل مصنفوں کے صحیح مفہوم کو اپنی زبان میں اسی قوت سے بیان کر سکے۔ یہ آسان کام نہیں اور ایک کام نہیں۔ ترجموں سے زبانوں کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ یہی نہیں کہ ترجمے علم اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ خود زبان بھی اس سے ممتنع ہوتی ہے۔ ایک اعلیٰ درجے کی تصنیف کا عمدہ ترجمہ بہت سی معمولی تصنیفوں سے کہیں بڑھ کر مفید ہوتا ہے۔ وہ ادب کا جزو بھی ہو جاتا ہے“<sup>(۱)</sup>

## نمونہ ترجم

یہ حقیقت ہے کہ ترجموں کی بدولت اور ادب کے سلسلے میں اک گراں قدر اضافہ ہوتا ہے لیکن اس میں وہی وقت ہے کہ ترجمہ کرنے والے کو پہلے اس مضمون کا ہے نظر غائرہ معنا کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہے۔ اس طرح اس کو کوئی مضمون از سر نہ بھی لکھنا پڑتا ہے۔ لیکن مولانا قادری کے ترجمہ کو دیکھو کر جیت ہوتی ہے کہ اگر وہ خود آغاز مضمون میں ہی یہ شہزادیں کہ یہ فلاں مفکر کے مضمون کا ترجمہ ہے اور یہ فلاں زبان کے افاظ کا ترجمہ ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ ترجمے یہی وہ ان میں ایسی سلاست دروانی اور فصاحت و بلاغت نظر آتی ہے جیسے کہ یہ خود

(۱) آمنہ صدیقی، ”افکارِ عبد الحق“، کراچی، انجم پرنس، ۱۹۶۲ء، ص ۱۳۵۔

اسی زبان کا مضمون ہے اور خود مولانا ہی اس کے مصنعت میں و ان کی کتاب "نقد و نظر" کا سب سے پہلا مضمون ہی لئے یہ چھٹے۔ "مطالعہ شاعری" (۱) اس کا قادری صاحب نے لفظی ترجمہ کیا ہے یہ فرود ہے کہ جا سجنا اپنی طرف سے اشعار کا اضافہ کر دیا ہے لیکن اگر وہ مضمون کے شروع میں ادبی دیانت داری کے طور پر خود یہ نہ لکھتے ہے۔

"یہ مقالہ ڈاکٹر میتھیوار نلڈ کے مضمون (اسٹینڈی آف

پوسٹری) کے ایک حصے کا لفظی ترجمہ ہے تو یہ کہنا مشکل ہوتا کہ یہ ترجمہ ہے۔ ان کی یہ کوشش و کاوشن اردو ادب میں اپنی نوعیت کی واحد چیز ہے اور سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام انجام دے کر اور بھی دوسرے ادیبوں اور دانشوروں کی توجہ اس طرف میذول کرائی ہے اس سب سے میں، بہار ڈاکٹر مولوی عبد الحق کا قول دھرا نابے جانہ ہو گا۔

مولوی عبد الحق صاحب مولانا قادری کے اس کارنامے سے واقع تھے اور ان کی ادبی خدمات کو کئی بار سراہ بھی چکے تھے لہذا وہ عام ادیبوں کو مطلب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"علوم و فنون کی کتابوں کا ترجمہ آنا دشوار نہیں۔ اس میں صرف اس علم کا سجنی جاننا لازم ہے لیکن ادب کی خصوصیات تخلیق ادب کی اعلیٰ کتابوں کا ترجمہ نہایت دشوار اور صبر آنہ ہوتا ہے۔ اس میں معانی کے ایسے باریک اور نازک فرق ہوتے ہیں اور خیال میں الیٰ لطافت اور ایراام ہوتا ہے جسے صرف ایک دقیق نظر تقاضا یا نکستہ رہنے ادیب ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس لئے نادر روزگار جو اہر باروں کے ترجمے کے لئے منجلہ دوسری قابلیتوں کے ذوق ادب کا ہونا ضروری ہے کچھ عرصے

(۱) حامد حسن قادری، مولانا، "نقد و نظر" اگرہ، آگرہ اخبار پر یہ ۱۹۳۲ء ص۔ ۱۔

قبل ان کتابوں کے ترجمے کے لئے قابل مترجموں کا دستیاب ہوا  
مشکل تھا لیکن اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن میں یہ صلاحیتیں  
موجود ہیں اور اصل زبانوں سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لہذا ایسی حالت  
میں اس سے خفقت کرنا زیان کے حق میں ظلم ہو گا۔” (۱)

اسی طرح ان کے افانوں کے مجموعے، ”صید و صیاد“ یا ”ایرانی افلانے“  
کو پڑھ کر ایسا محسوس بھی نہ ہو گا کہ آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مولانا  
 قادری نے عربی، فارسی اور انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر کے علمی سیداری پیدا  
کرنے کی کوشش کی ہے بھی وجہ ہے کہ مولوی عبد الحق کو بھی کہنا پڑتا ہے:-  
”مسلمانوں کی اس وقت جیسی کچھ حالت ہے اسے  
متنظر رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ علمی سیداری کا پہلا دور ترجمہ ہی  
ہے اگر غیر زبانوں کی علمی اور علمی تصنیف کے ترجمے ہو جائیں تو  
آئندہ دور کی تالیف و تصنیف کے لئے بیش بہا سرمایہ اور بیش  
خیبر ہو گا۔“ (۲)

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عوام میں سیاسی شعور، روحانی  
و اخلاقی بالیہ گی اور علمی و ادبی ذوق پیدا کرنے میں افسانوی ادب کا گہرا  
ہاتھ ہے۔ مولانا فادری نے افانوں کے ترجمے اس انداز سے کیے ہیں کہ ایسا  
معلوم ہوتا ہے کہ گویا خود افسانہ تکارنے ان کو اردو کا جامہ پہنا یا بے اور یہی  
ان کے کامیاب مترجم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔

افسانہ، ادب کی ایک اہم صنف ہے اس کے ذریعہ انسان اپنے دل کے  
بہت سے پوشیدہ گوشوں کو کھول کر رکھ دیا کرتا ہے۔ افانوں میں بہت سی باتیں  
”حدیث دیگران“ کی حیثیت رکھتی ہیں مگر تاریخ نے داے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں  
فروزانہ لیتے ہیں کہ روئے سخن کس کی طرف ہے۔ سماج و معاشرے کے خیالات

(۱) آمنہ صدیقی، ”افکار عبد الحق“، محوالہ بالا، ص ۱۳۶۔

(۲) ایضاً، ص ۱۳۵۔

دنظریات کو پہنچنے اور اس کی زندگی کا رُخ پھیرنے میں افسانہ نگار بھی بہرہ ابھر کردار ادا کر سکتا ہے ایک کامیاب افسانہ نگار کو تین باتیں خصوصیت سے پیش نظر رکھنی ہوتی ہیں :

پہلی بات تو یہ کہ انسانی نفیيات اور فطرت سے بخوبی واقع ہو اور انسانی زندگی کے برعکسی سے معمولی گزش سے پر بھی کہری نظر رکھتا ہو۔

دوسری بات یہ کہ وہ ایک مثاق اہل قلم کی حیثیت سے تحریر پر پوری پوری قدرت رکھتا ہو اور سہرا قعہ کو اس طرح پیش کر سکے کہ اس کی مکمل تصویر آمکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے۔

تبیری چیز جو اک افسانہ نگار کے لئے نہایت ہی اہم اور ناگزیر ہے یہ ہے کہ وہ جن حالات و کیفیات کو بیان کرنا چاہتا ہے اسی طرح کے احتیاط و جذبات کو خود پر طاری و مسلط کرنے تاکہ تصنیع کا تاثر بھی نہ آنے پائے۔

سعید نفیسی ایران کے شہرہ آفاق ادیب و افسانہ نگار ہیں۔ ایران کی ادبیات جدید میں ڈرامے یا تمثیلیں بہت پہلے سے اور کثرت سے لکھی گئی ہیں لیکن رومانی یا نفیاتی افسانے اور خاکے بیسویں صدی سے پہلے نہیں لکھے گئے اور اب تک بھی جو کچھ لکھے گئے میں ان کی تعداد بھی کم ہی ہے۔ اردو میں طنز یہ دمڑا جیہ طرزِ نگارش نے خاصی ترقی کر لی ہے لیکن ایران میں ابھی یہ طرزِ دروشن عام نہیں ہوئی ہے۔ سعید نفیسی کا قول ہے کہ وہ ایران میں اس صنعتِ ادب کے موجودہ ہیں۔

ان کے یہ مختصر افسانے ایران کے مختلف اخبارات و مجلات میں شائع ہوئے ہیں اور ایران کی سوسائٹی سے متعلق ہیں لیکن انسانی کردار و اخلاق کے تجزیے اور تبصرے کے سبب اپنے اندر عام دلچسپی رکھتے ہیں۔ سعید نفیسی ان افسانوں کا تعارف کرتے لکھتے ہیں :-

”یہ مختصر افسانے کسی خاص مقصد کی تشریح اور کسی خاص

خیال کے اظہار کے لیے بھگئے ہیں البتہ قوت تھوڑا اختراع سے کام لیا گیا ہے لیکن ان کی بیان دایسے رگوں کے خصائص و کردار پر کمی گئی ہے جن میں سے بعض کوشاید قم بھی پہچانتے ہو، لیکن اس حد تک ان کی روح کے اندر موشگانی نہ کی ہوئے۔

ان افسانوں کے متعلق مولانا قادری بھی اپنی رائے ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں:

”ہمارے یہاں بھی برخود غلط شاعر، بلند بانگ مصنف، طبل تھی لیڈر، علیش پرست دولت مند، فرنجی ہب آب نوجوان، آزادہ رو خواتین موجود ہیں۔ یہ طنز یہ خاکے ان کا بھی خاکہ اٹھاتے ہیں۔ ان افسانوں میں بیان کا پیچ اور طول خاص طور پر عجیب و دل کش ہے جزئیات کی تفصیل، نفس انسان کا مطالعہ اسلوب بیان کی قوت و قدرت، طنز و مزاح کی عطا فت نے ان افسانوں اور خاکوں کو بجا طور پر مصنف کے لیے باعث فخر بنادیا ہے، خود مصنف کو بھی اپنے بیٹھن سال کے ادب کا زنا میں میں اگر فخر ہے تو ”راز بھی صحائف اُست و بس“

سعید نفیسی کے افسانے اصلاحی بھی ہیں اور اخلاقی بھی اس کے افسانوں کی اسی خصوصیت نے مولانا قادری کو بھی متاثر کیا اور انھوں نے ان کا ترجمہ کر کے اپنی اصل سے بھی کچھ بڑھا دیا: مولانا کو حربی و فارسی اور اردو و انگریزی زبانوں کے ادب سے ایک دلی مناسبت ہے اور وہ ہر ایک زبان پر بخوبی قدرت رکھتے ہیں انھوں نے سعید نفیسی کے ان فارسی افسانوں کو اردو میں منتقل کر کے اپنی ادبی قابلیت اور جن ترجمہ کی صلاحیت کا اعلیٰ ثبوت دیا ہے۔ ہمارے یہاں انگریزی زبان کے توہنیاروں افسانے ترجمہ کیے جلتے اور آئئے دن اخبارات و مجلات اور رسائل و ڈائجسٹوں کی زمینت بننے رہتے ہیں صحیعی و فارسی کے افسانوں کو اردو میں منتقل کرنے کی طرف تو جنہیں دیتے اس کا خاص سبب یہی ہے کہ حربی و فارسی کے افسانے یا مفہما میں کا اردو میں ترجمہ کرنا اور اس میں حسن ترجمہ کو برقرار رکھنا جوئے شیر لانے

سے کم نہیں۔ آپ ان کے ایرانی افسانے پڑھیں اگر وہ خود یہ نہ بتا دیں کہ یہ سعید نفیسی کے فارسی افسانوں کا اردو ترجمہ ہیں تو آپ کو محسوس بھی نہ ہو گا کہ آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور ترجمہ کی اصل خوبی یہی ہے کہ کوئی یہ تمیز ہی نہ کر سکے کہ یہ طبع زاد ہے یا ترجمہ اور یہ بات مولانا قادری کے تراجم میں خواہ نظر کے ہوں یا نظم کے بذریجہ اُتم موجود ہے اس سے اب اس بات کا اندازہ سمجھنی لگایا جاسکتا ہے کہ ان کو اس فن میں کتنا مکال حاصل تھا۔ انھوں نے ایک نہیں بلکہ کئی زبانوں سے ترجمے کیے اور سب کے سب نہایت کامیاب و موثق ثابت ہوتے یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی ضروری ہے کہ قادری صاحب کو کم از کم ان زبانوں پر توقیعنا عبور حاصل تھا جن سے انھوں نے ترجمہ کیا اور جو شخص کئی زبانوں پر عبور رکھتا ہوا اس کو ترجمہ کرنے میں ایک سخت دشواری یہ ہوتی ہے کہ اکثر دبیثہ مختلف زبانوں کے الفاظ و محاورات گڑ مدد ہو کر عمارت کو ثقیل، بعد اور غیر منوس بنادیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ڈے بڑے قارروال کام شعر و انشاء پر داز بھی اس دشواری سے نہیں بچ سکتے۔ حلامہ اقبال جیسا بلند پایہ شاہ بھی اس سے نہ بچ سکا اپنی مشہور نظم «حضر راہ ہل»، «سرما یہ وحنت»، کاموازنہ کرتے ہوئے وہ ایک مقام پر زبان حضر کہتے ہیں :-

لے کہ تنجھ کو کھ گیا سرمایہ دار حیلہ گر  
شارخ آہو پہ رہی صدیوں تک تیری برت

علامہ نے اس شعر کے درمیں مصرع میں فارسی کے مشہور محاورے «برات حاشقان بر شاخ آہو» کا ترجمہ کیا ہے، چونکہ یہ لفظی ترجمہ ہے جس کا اردو زبان و ادب تجربے در دایت اور باحوال و معاشرے سے کوئی تعلق و منابع نہیں رکھتا لہذا اعلامہ کامصرع ایک چینستان کی سیاست رکھتا ہے۔ اور جب تک کوئی شارخ یا عالم اس کی تشریح نہ کرے عام قاری اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ مولانا قادری کے تراجم میں یہ خصوصیت ہے کہ انھوں نے سادہ و سلیمانی زبان میں ترجمہ کیا اور انہل وہ بے جوڑ الفاظ و محاورات کو پاس بھی نہیں پہنچنے دیا۔ انھوں نے غیر زبان کے وہ الفاظ استعمال

نہیں کیے جو تقلیل و ناماؤس معلوم ہوں۔ بجز ان الفاظ کے جو ہیں تو غیر زبان کے مگر اردو والوں نے اپنا لیئے ہیں اور زیان نہیں عام ہیں۔ ہم ذیل میں ان کے تراجم کے اقتباسات پیش کرتے ہیں جن سے اس فن میں ان کی حمارت و کمال کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے:-

”اب آپ منتظر ہوں گے کہ میں اس وعدے کے کوکیوں کو ثابت کرتا ہوں۔ کسی دعوے کے کو ثابت کرنے کا کوئی ذریعہ فطرت و طبیعت کی شہادت سے بہتر نہیں ہوتا یعنی انسانوں کی سیرت و سرگزشت سے کوئی مثال لائی جائے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے دو علی رشید ادیب معروف کی زندگی سے اس منظہ کا ثبوت ہمیا کروں کہ مرد سبب بد سختی ہے، اور بد سختی بھی کس کی؟ اس سختی کی بد سختی جس کو آپ اب تک اپنی بد سختی کا سبب بجھتے رہے ہیں اس کی بد سختی جس کو شرعاً مطلق کا مثال ہمکار کرتے ہیں، جس کو مصوّر بیرون مادل بتاتے ہیں، جس کو اہل تقویٰ مرکز فتنہ و فادر فرماتے ہیں جس کو علمائے اجتماعیات مشانے بد سختی دخوش و قتی تجویز کرتے ہیں۔ عرض جس کو ہر شخص کچھ نہ کچھ جانتا اور کہتا ہے سبجز میرے کرم فرمائیں سیما کے کہ وہ اس کو کچھ نہیں جانتے۔ اور یہ تجاتا اس یہے ہے کہ ہمارے شیعہ فقہاء اپنے اطوار و کردار کو مشہور ضرب الالتشال کے مطابق رکھتے ہیں چنانچہ ان کی یہ علمی بھی ”آنچوں کھٹے“، والی مثال کو ثابت کرتی ہے“ (۱) اس مجموعے کے ایک اور افسانے ”آدمی ہونا بہت دشوار ہے“، کا ایک اقتباس ہاختہ یکجھے ہے:-

”خدالا خوف نہ ہوتا تو ہمارا جانباز ایران کے تمام مضمون اور انشا پردازوں

(۱) حامد حسن قادری، مولانا (مترجم)، ”ایرانی افسانے“، آگرہ مطبوعہ آگرہ اخبارہ پرنس آگرہ ۱۹۲۲ء

کو دعوت دیتا کہ آئیں اور ثابت کریں کہ ان میں کون ایسا ہے، جس نے ڈپرٹمنٹ سورپے مالیت کی کتابیں چالیس روپے میں فروخت کرنے کے باوجود دوسرے ہی روز بغير لیت داعل کے ان کی قیمت وصول کر لی ہو، اس وقت مہر انجمن خانم رفیقة آف ابراء ہیم جانباز رٹیس المصنفین طہران پر بھی روشن ہو جاتا کہ وہ اگرچہ سمجھی آدمی نہیں بن سکت، مگر آدمی بننے سے بالآخر بھی ایک مرتبہ ہے۔ پھر بھی، یہ دو زہریے جملے کہ ”تم سمجھی آدمی نہیں بن سکت، سب کے پاس موڑ کا در ہے سوانح تمہارے“، ابراء ہیم جانباز کے دل و دماغ کو مسحوم کر رہے تھے، دو گھنٹے سے ایک قدیم و نادر کتاب ”تاریخ خشت سازی“، جونوس (۹۰) بر س پسلے کی تکھی ہوئی تھی، ابراء ہیم کے ہاتھ میں تھی، چاہتا تھا کہ نہونے کے طور پر اس کا ایک صفحہ خوش خط نقل کرے، اور عاشیر پر ایک دو تین چار نمبر ڈال کر تمن کی تصحیح کرے اور سولف کتاب اور کتابت نسخہ کے اغلاط بیان کرے لیکن خانم کے وہ درجے اس کے حوالہ گم کر رہے تھے، معلوم ہوتا تھا ساری کتاب میں یہی لکھا ہے کہ تم سمجھی آدمی نہیں بن سکتے“، سب کے پاس موڑ کا رہے سولئے

”تمہارے“ (۱)

مولانا نے انگریزی کے بھی بہت سے افانوں اور کتابوں کا ترجمہ کیا۔ تراجم کے سلسلے میں ان کا ایک اور ایم کارنامہ ابراء ہیم لٹکن کی زندگی کا خاکہ ہے جس کو مولانا نے اسٹرنگ نار تھو کی مشہور انگریزی تصنیف (۱)

(۱) ابراء ہیم لٹکن جھونپیڑی

ABE Lincoln Log Cabin to White House

سے اپوان صدارت تک“ سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔

(۱) حامد حسن قادری، مولانا ر مترجم، ”ابراهی افسنے“، آگرہ، مطبوعہ آگرہ اخبار پر پیس، آگرہ ۱۹۲۲ء، ص ۱۸ - ۱۷۔

لیکن کی ذات امریکی قوم میں بڑی محبوب و مقبول ہے اور اس قوم کا ہر فرد اس کا نام نہایت عقیدت و احترام اور خلوص و محبت سے لیتا ہے۔ درحقیقت لیکن اس خراج حقیدت کا مستحق بھی ہے۔ وہ ایک غریب مردور باپ کا بیٹا تھا اور ایک جھوپنپڑے میں پیدا ہوا تھا مگر اپنی انسان دوستی، محنت و مشقت اور ذاتی صلاحیتوں کے ذریعہ امریکہ کے منصبِ صدارت تک جا پہنچا۔ اس کی کوششوں اور کوششوں نے اس کی زندگی کو دوسروں کے لئے نمونہ بنادیا۔ یہی سبب ہے کہ آج اس کا شمار دنیا کے ان انسانوں میں ہوتا ہے جو نسل و قوم سے ماوراء ہو کر صرف انسانیت کے نام پر جدوجہد کیا کرتے ہیں۔ دنیا میں جب کبھی اور جہاں کہیں بھی آزادی کی جدوجہد کا ذکر ہوگا وہاں ابراہیم لیکن کا نام بھی ضرور دھرا بای جائے گا۔

اسٹرلنگ نارتھ نے پہ کتاب خصوصیت سے امریکی بیجوں کے لئے لکھی تھی اس لئے اس کا انداز و اسلوب اور حوالے داشارے پاکستان والوں کے لئے ناموس تھے۔ امریکی بیجوں کو چونکہ پہلی بھی پڑھیوں کے ذریعہ یا سکول کی درسی کتابیوں اور دیگر قصتے کہانیوں کی کتابوں کے ذریعہ لیکن کی زندگی کے حالات سے واقعیت بھی پہنچائی جاتی ہے۔ اس لئے ان کے واسطے اصل انگریزی کتاب کا انداز تحریر ناموس نہیں ہے۔

مولانا نے چونکہ یہ ترجمہ پاکتانيوں کے لئے کیا ہے اس لئے انہوں نے ترجمے کے وقت اس کتاب کے انداز کو بدلتے کی ضرورت محسوس کی اور اردو طبقے میں اس کو مقبول بنانے کے لئے جگہ جگہ انداز بیان میں تبدیلی کر دی اس کے باوجود بھی امریکی ناموں کی کثرت نے کہیں کہیں کتاب کو ثقیل بنادیا ہے مگر ایسا کرنا ناگزیر تھا۔

ان ترجمے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دہ عربی و فارسی پر ای مکمل طور پر عبور نہ رکھتے تھے بلکہ انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے میں بھی انہیں یہ طویٰ حاصل تھا ان کی ترجمہ کی ہوئی دو اور کتابیں "الکھل اور زندگی" اور "فطرت اطفال" بھی

اپنی مثال آپ ہیں اور نہایت سلیس و سادہ زبان میں ترجمہ کی گئی ہیں۔

یہ بات مولانا کی فطرت میں داخل ہوتی کہ جس بات سے ان کے دل و نظر کو تقویت اور روح کو بالیدگی ملتی ہتی وہ اس کو دوسروں تک پہنچا کر ان کو بھی اپنی مرسنوں میں شرکیں کرنا یا کسی اچھی و مفید بات سے روشناس کرنا چاہتا تھا اسی مقصد کے لئے انہوں نے فارسی زبان کے مشہور بزرگ رباعی گو شاعر مولانا ابوسعید ابوالخیر کی تصور رباعیوں کا اردو میں نہایت حمدہ و دل کش ترجمہ کیا ہے جس کا ذکر شاعری کے باب میں شامل ہے۔

۱۹۲۳ع کی بات ہے کہ مولانا کا پور سے پچوں کا ایک اخبار "سعید" نکالا کرتے تھے جونہ صرف پچوں میں بلکہ بڑوں میں بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں کلکتہ کے ایک اٹا عتی ادارے "میکمل انڈیکپنی لمیٹڈ" نے بنگال کے مشور شاعر رابندر ناتھ ٹیگور کی کتاب گاردنر (Gardener)

"باغبان" انگریزی میں شائع کی اور مولانا سے اس کا ترجمہ کرنے کے لئے کہ مولانا نے یہ پیشکش منظور کر لی اور مصنف کے دیباچے سے لے کر تمت بالخبر تک ایسا عمدہ ترجمہ کر دیا کہ اگر اس پر مولانا کا نام بھیثبت مترجم کے نہ ہوتا تو کوئی شاخت بھی نہ کر سکتا تھا کہ یہ ترجمہ ہے یا اصل۔

مندرجہ بالا امثال سے اس بات کا پہ تھوڑی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مولانا کو دوسری زبانوں سے اردو نثر و نظم میں ترجمہ کرنے کی کسی چہارتھی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے سعید نفیسی کے فارسی افانوں یا رابندر ناتھ ٹیگور کی مشہور و معروف تصنیف "گارڈنر" (Gardener) کا عوام کے لئے ترجمہ کیا بلکہ انہوں نے خصوصیت سے بچوں کے لئے بھی انگریزی سے اردو میں کئی کتابوں کا ترجمہ نہایت سہل و روان اور سلیس و سادہ زبان میں کیا جس میں "ابراہم بنکن" خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ اس کی ابتداء ہی وہ ابراہم بنکن کے اس قول سے کرتے ہیں :-

”میری زندگی کے واقعات کو اختصار کے ساتھ صرف  
 ایک فقرے میں بیان کیا جاسکتا ہے اور وہ فقرہ ( )  
 گرے کے مرثیہ میں موجود ہے۔ ”غربیوں کی سادہ و مختصر کہانی“  
 ابراہیم لینکن (۱)

(۱) حسن قادری، مولانا (متسمیم) ”ابراہیم لینکن“ محوالہ بالا۔ ص۔ ۵۔

## باب ششم

# مولانا قادری بحیثیت شاعر

جس زمانے میں مولانا قادری نے اپنی اولی سرگرمیوں اور شعر و سخن کی ابتدائی دہ بیسوی صدی کا ابتدائی زمانہ تھا۔ اس زمانے میں لکھنود اور دلی کی بساط شاعری الٹ پھکی تھی۔ ۱۸۵۷ء کے انقلاب اور رست خیز بے جانے میںی و مشرقی تمدن کو کچھ اس طرح متصادم کیا تھا کہ اہل مشرق کو دینا تاریک نظر آنے لگی تھی اور جب مشرق کی آنکھیں کھلیں تو نہ کوئی ملک تھا اور نہ کوئی ملت، البتہ مغربی تہذیب و تمدن کے اثرات بہت گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ملک اور قوم کو اگرچہ اس انقلاب کے سبب سیاسی و سماجی اختبار سے بڑا القصمان پہنچا مگر اردو شعر و ادب کے لیے یہ ایک فال نیک ثابت ہوا۔ کیوں کہ قدیم و جدید تہذیبوں کے تصادم سے ہندوستان میں ایسی تحریکوں کو ابھرنے میں بڑی مددی جو آگئے چل کر ملک و قوم اور شعر و ادب کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئیں۔

اردو شعر و ادب میں ابتدائی سے یہ خاصیت رہی ہے کہ اس نے دیگر زبانوں کے الفاظ و خیالات کو لیکر کیا ہے اور جب فرودت اپنے مزاج کو وقت کے سانچے میں ڈھالتا رہا ہے لہذا ہمارے شعر و ادب میں بھی اندازہ لگایا کر اب وقت سے مصالحت کرنے ہوگی اس لیے اس انقلاب سے شعر و ادب میں بھی ایک نیا

انقلاب رو شما ہوا۔ ادیب و شاعر تحریکات کی علمی فضاؤں کو خیر باد کہہ کر حقیقت واقعیت کی دینا میں آگئے۔

انقلاب سے بہتر کی شاعری سر اسر تقبیحی درستی تھی جو عزماً لفظی صناصی، مبالغہ آرائی، خارجی حالات، ادنی جذبات نگاری اور یاس و قتوطیت سے بھری ہوئی تھی۔ اس انقلاب نے ایک نئے طرزِ معاشرت کو جنم دیا جس سے علم و ادب، شعر و سخن اور تہذیب و تمدن سب ہی متاثر ہوئے۔ زندگی کے مسائل و معاملات میں انقلاب آیا، روایت سے بفاوت ہونے لگی، نئے نئے خیالات و تصورات ابھرنے لگے، فکر و نظر کی نئی نئی شعیں روشن ہوئیں، شعر اسکے ادر اک و احساس، شعور و وجہ ان اک نئی راہ پر گامزن ہو گئے۔ شاعری جو اب تک عشق و محبت، حُن و جمال، بھروسہ و صالح اور زلف و خسار کی راستان تھی اس میں قومی و ملی احساس کا جذبہ کار فرمان نظر آنے لگا۔

## مولانا کی شاعری پر عصری رجحانات کا اثر

۱۸۵۷ء کے انقلاب اور مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد رلی و لکھنؤ کی فضاخانہ جنگیوں اور بدانیوں سے مسوم تھی اب علم دفن دہلی و لکھنؤ سے رخصت ہو رہے تھے۔ لہذا آں اور لکھنؤ کے بہت سے شاعروں نے رام پور اور حیدر آباد (دکن) میں پناہ لی۔ یہ وہ نوں ریاستیں اس زمانے میں شور دار بکا گھوارہ بنی ہوئی تھیں۔ فرمان روائے رام پور کی عالم روستی و ادب نوازی کے بعد اس چھوٹی سی ریاست میں بھی بڑے بڑے اب کمال اور اربابِ فن جمع ہو گئے تھے۔ علماء کے گردہ میں علامہ عبد الحق خیر آبادی، اطباء میں مکیم احمد رضا اور شاعروں کی توپوری ایک جماعت تھی نامر شعرا میں شیخ احمد اول بجزمشی امیر احمد میانی، رائے دہلوی، جلال مکھنی، نسیم مکھنی، تسلیم مکھنی، منیر مغلن، فیض غنی اور مشی امیاز احمد خاں راز رام پوری فصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ رام پور اس زمانے میں علم و ادب اور شعر و سخن کا مرکز بنا ہوا تھا۔ نواب کلب علی خاں

خود بھی شاعر تھے اور قام شرعاً کی بڑی قدر و منزہت کرتے تھے جس کے متعلق مولوی عبد اللطیف خاں کشہر سکھتے ہیں :-

«فرمان رائے رام پور کی قدر دانیوں کی کشش نے بعدِ انقلاب بعدها تھی  
لکھنوا در گرد و پیش کے اربابِ کمال خصوصاً علماء، فضلاء، ادیبوں اور  
شاعروں کو جمع کر کے اسے اس دور کا بعد ادب بنادیا تھا۔ اس کا محل محلہ  
علم و فن کا ایک مرکز تھا، جہاں رات دن علمی مذکورے رہتے، شرود سنن  
کی عقائدیں گرم ہوتیں، جگی کوچہ امیر و دانش کی غزلوں کی نغمگی سے  
گونج رہا تھا۔ (۱)»

مولانا کے ہوش بینیدلتے سنبھالتے ایک نیا دور آچکا تھا جس میں حال، آزاد اور  
مرستید جیے مصلحین و محسنین اور دوپیش پیش تھے۔ مولانا قادری کا بھی گرد و پیش  
کے ماحول سے متاثر ہونا اک امر لازمی تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انھیں پچھن ہی سے شعرو  
ارب سے ایک دلی مناسبت پیدا ہو گئی اور انھوں نے گیارہ بارہ برس ہی کی  
محترم سے شعر و شاعری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی  
تحریر کرتے ہیں :-

”قداری صاحب کے والد مولوی احمد حسن رام پور میں وکیل تھے،  
اس کی چون بندی لکھنوا در گلی کی خزان سے ہوئی تھی۔ اور وہ خدر کے  
بعد اہل کمال کے یہے ”دارُ السرور“ بن گیا تھا۔ ۱۸۵۳ء میں ایمپریاں  
پور پہنچ گئے اور حداadt عالیہ کا منصبِ افتخار ان کے سپر دیکیا گیا۔ اس  
وقت ہر جگہ شاعری کے چرچے تھے۔ زبان کا کھرا کھوٹا پر کھا جا رہا تھا  
اور ایک ایک لفظ کی تراش خراش دیکھی جا رہی تھی۔ قادری صاحب  
نے اسی ماحول میں ہوش کی آنکھ کھولی اور ابتدائی تعلیم اپنے والد سے

(۱) کشہر عبد اللطیف خاں، ”حامدسن قادری“ (مقالات)، سرماہی ”رار دنامہ“  
کراچی، جزوی تاریخ ۱۹۶۵ء، شمارہ ۱۹، ص: ۹

حاصل کی جو خود اپنے شاعر، عالم اور محدث تھے۔ ان کا گمراہ کعند سال  
گہنہ میں امیر مینائی کے گھر سے زیادہ دو نہیں تھا جب نومبر ۱۹۹۷ء  
میں امیر کے گھر میں آگ لگی ہے اس وقت قادری صاحب کی سرگزیارہ  
برس کی تھی لیکن وہ امیر دلاغ کے اشعار گن گناتے اور ان سے  
مزے لیتے تھے ॥ (۲)

رام پور کی علمی رادیٰ فضا اور اندر ون خانہ دبیر ون خانہ کی اولیٰ مرگ میوں نے،  
 قادری صاحب کے ذہن کو جلا بخشی اور انھوں نے بارہ تیرہ سال کی عمر سے شعر  
کہنا شروع کر دیا۔ ان کے ابتدائی دور کی شاعری انسیں کے قول کے مطابق ۱۶ اغذلوں  
اور ۱۹۲ اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تک انھوں نے کسی کے سامنے  
زانوئے ملعذ تھے نہ کیا تھا۔ چون کہ اس وقت ذہنوں پر عام طور سے امیر مینائی  
اور جلال نکھنوی کارنگ سخن چھایا ہوا تھا اس لیے مولانا نے بھی وہی زنگ اختیا  
کیا اور راز رام پوری سے نفرتِ ملعذِ عاھل کی۔ اس سلسلے میں استادی و شاگردی  
اور شعر و سخن کی رو دار مولانا خود لیں بیان کرتے ہیں کہ:-

”میرے استاد شاعری جناب غشی امیات احمد خاں راز رام پوری  
رحمۃ اللہ علیہ (دوف پیارے خاں) بہت کم آمیز و کم سخن بزرگ  
تھے جو حضرت امیر مینائی کے شاگر در شید صحبتِ یافہ اور ہم محدث تھے۔  
امیر صاحب کے ساتھ مجوہاں کے سفر میں رہے۔ ”امیر اللغات“ کی  
تالیف میں معاون رہے۔ امیر کے بڑے محبوب شاگر در تھے۔ امیر  
خطوط میں راز کو اکثر القاب ”پیارے پیارے“، ”بکھارتے تھے۔  
استاد نے راز کی استادی کو تسلیم کر لیا تھا لیکن راز صاحب نے  
کبھی شاعری کو پیش نہ بنا لیا بلکہ رام پور میں مت جزی۔ (۱۹۹۵ء)

(۲) : احمد فاروقی، ڈاکٹر خواجہ، ”د جادسون قاری“، (مقالات، ”نقوش“، رام پور: جنوری ۱۹۹۵ء)  
(شخصیات نمبر)، ص: ۲۸۲-۸۳

کا پیشہ کرتے رہے۔ سرکاری دیبات کا تھیگر لیتے تھے اور نہایت خاموش زندگی بغیر نمود و ناٹش کے بڑے وقار کے ساتھ بس رکرتے تھے اسی وجہ سے شاگرد بنانے اور اصلاح سخن سے نہایت بے نیازی برنتے تھے۔ گئے چند شاگرد تھے جو زبردستی ان کے سر ہو گئے تھے۔ ان سے بھی یہ معاشر تھا کہ ایک غزل کی اصلاح ہفتواں اور ہبہیوں طلقتی رہتی تھی۔ کمی مشاعرے کی ضروری غزل ہوئی اور ان کو فرصت ہوئی تو ہاتھ کے ہاتھ درست کر کے دے دی۔ درستہ میرے ساتھ چند بار ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد غزل لینے گیا تو معلوم ہوا کہ اچھن کی جیب میں تمہی۔ دھری کے پیاس دھلتے چل گئی:-

راز صاحب کی اپنے نام شاگروں کو تائید تمہی کہ بغیر اصلاح کے اپنا کلام شائع ذکر نہیں۔ کم میں ان کی اس ہدایت کو اپنے لیے بہت اہم سمجھتا تھا۔ اس، یہ کہ میرے کلام میں خامیلوں تھیں اور مجھے ان کا احساس تھا۔ اسی لیے میں استار مغفور کی نصیحت پر بڑی سختی سے عمل کرتا تھا اور ان کو دکھانے بغیر اپنا کلام حصہ کو نہیں بھیجتا تھا۔

اب یہ صورت تھی کہ طبیعت میں شوق و جوش تھا کہنے کو جو چاہتا تھا اور چھپو لئے کوئی لیکن ہر غزل یا نظم پر فوراً اصلاح، استار کی بے نیازی کے باعث ممکن نہ تھی۔ آخر میں نے سوچا کہ کہوں اور فرضی نام سے چھپواؤں۔ اس زمانے (۱۹۱۰ء) میں راز صاحب کے پاس ان کے استاد بھائی میحیم برہم گور کھوری کا ہفتے دار پرچہ «فتنہ و عطر فتنہ» آتا تھا۔ میں نے اسی کو تختہ مشق بنایا اور مشہور امثال اور کہانیوں پر قلمبند کر جیسے شروع کیے۔ فتنہ میرے نام باقاعدہ آنے لگا۔ کبھی برابر ہفتے دار اور کبھی ہفتے میں ایک دوبار میرے قلمبند چھینے لے گئے۔ «فتنہ» میں دو شاعر ضیاء الدہوی اور فیاض مکھنی کا کلام چھپا تھا۔ میں نے میرا شاعر پیدا کرنے کے لیے «رضیاء رام پوری» اپنا فرضی نام رکھ دیا۔

جب یہ قطعے اکثر چھپنے اور راز صاحب کی نظر سے گزرنے لگے تو ان کو جستجو ہوئی کہ وہ رام پور کا کون شاعر ہے۔ رام پور کے جتنے شاعر تھے وہ سب کو جانتے نہ ہیں اس تخلص کسی کا نہ تھا۔ اس یہے راز صاحب نے بھی ہی سمجھے اکر کوئی شاعر اس فرضی نام سے لکھتا ہے۔ ملحوظ کون ہے؟ مجھ سے بھی ذکر کیا اور نظموں کی تعریف کی۔ میں اپنی تعریف اپنے استاد سے سن کر بہت خوش ہوتا تھا اور جب کوئی قطعہ چھپتا تھا میں اسی دن استاد کے پاس پہنچتا تھا۔ وہ کبھی درقتنه، میں سے خود وہ قطعہ سناتے تھے کبھی مجھے پڑھنے کے لیے دے دیتے تھے۔ میں ان کویر حلم بھی نہ ہوتے دیتا تھا کہ «قتنه» میرے پاس بھی آتا ہے۔ میں یہ الترام رکھتا کہ قطعے کہ کہ کر کوئی دیتا تھا اور سفر حضرت میں برابر «قتنه» کو جھیجتا رہتا تھا۔

«آخر ایک دن بیھانڈا پھوٹ گیا اور یہ غالباً اس وقت ہوا جب میں فروری، اللہ ہمیں اندرور کی ملازمت ترک کر کے فرشی فاضل کے امتحان کی ثیاری کیے رام پور واپس آیا۔ ایک دن استاد کے پاس گیا تو وہاں کوئی نہ سمجھتے تھے جن کو میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں جا کر بیٹھا تو استاد نے ان صاحب سے میرا تعارف کرایا کہ ان کا نام حامد بن قادری ہے۔ نام سننے ہی ان حضرت نے راز صاحب سے کہا کہ ان سے پوچھنے، «ضیا رام پوری» کے قطعے مجھے یہی بھیجا کرتے تھے استاد کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ خوش بھی ہوتے اور افسوس بھی کیا۔ کہنے لمحے، «حامد میاں! یہ تم نے بڑی نادانی کی ایسی اچھی نظموں کو خالی کر دیا جنم نام رہیں۔ اپنے نام سے شائع کرنا تھا میں ہنس کر خاشش ہو گیا، وہ ہمچنان حکیم بہم گورکھپوری ایڈ بیٹر و قتنہ» تھے۔ بعد کو میں نے استاد سے کہا کہ اصل میں ان نظموں کا یہ تصریح تھا کہ آپ جلدی اصل لاج نہ دیتے اور میں بغیر اصلاح اپنے نام سے شائع نہ کر آتا۔ (۱)

(۱) : حامد بن قادری، سولانا، «نطہات جواہر اشائیں»، (غیر مطبوع)، مٹوکر جناب، احمد فوجی

اپنے استاد رام پوری کے سلسلے میں خود مولانا کہا کرتے تھے کہ ان کی خاموش طبیعت کا ایک یہ بھی تقاضا تھا کہ وہ اپنی شہرت نہ چاہتے تھے، نام و نمرود اور تصنیع و نمائش کے قطعی قابل نہ تھے۔ یہی سبب تھا کہ ندوہ کہیں اپنا کلام چھپولتے تھے اور نہ بیرونِ رام پور اور سقامي مشائخوں میں شرکت کرتے تھے۔ حدیث کے انحصار نے اپنے قام شاگردوں کو بھی سخت تاکید کر رکھی تھی کہ وہ اپنا کلام چھپوئی تو اپنے نام کے ساتھ استاد کا نام نہ لکھیں حالانکہ دوسرے اساتذہ اپنے تمل مذہ سے گہرہ کہہ کر اور فرمائش کرنے کے اپنی استادی کا اعلان کرتے تھے اور اکثر اساتذہ کلام آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔

کسر طرح مولانا قاری نے ۱۹۱۴ سے قبل شاعری شروع کر دی تھی۔ ان کے اس زمانے کا کلام شوخی و نیکی بیس ڈوبایا ہوا ہے۔ مولانا قادری زائد و پیر ہمیز گار اور صوفی صافی ہونے کے باوجود ایک فطری شاعر تھے اور فطری شاعر کبھی زائدِ خٹک نہیں ہوتا۔ فطری شاعر کے لئے دل میں ایک درد، طبیعت میں ایک گداز، ذہن میں ایک توازن اور اس کی فکر میں ایک لطافت ضرور ہوتی ہے۔ مولانا نے بھی اپنی شاعری کا آغاز اسی ردایتی غزل سے کیا جس کا ن�名ہ آئندہ صفحات میں پیش کیا جائے گا۔ اس میں آنکہ چہرہ، ہجرہ وصال، حسن و جمال، لھذا وٹ و دل سوزی کے معنا میں ہیں مگر ان کی غزل میں حسن و عشق، کے روزہ الیسی صفائی و سادگی اور لطافت و پاکیزگی سے پیش کیے گئے ہیں کہ قاری کے ذہن پر ایک سنجیدہ و پُر لطف فضماً مسلط ہو جاتی ہے۔

اس کا ایک خاص سبب یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں جذبات و احساسات کی وہ شدت و گہرا ای مفقود ہے جو غزل کے شواکاٹرہ امتیاز ہے۔

وہ بھیتیت ایک ناقد اس بات سے خود بھی بخوبی باخبر تھے کیونکہ بقول پروفیسر آبل احمد قرود:

”اچھی غزل کہنا بڑا مشکل ہے اور اچھی غزل کرنے کی قدرت بڑی مشکل سے

حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اتنی بجائی پچانی آوازیں ہیں کہ کسی نئی آواز کا پچاننا مشکل ہے۔ اس کا پیداگرنا بھی آسان نہیں ॥ (۱)

ہذا شعرو شاعری کی طرف سے ان کا میلان کم ہوتا گیا اور اس کے سمجھانے وہ انشا پردازی کی طرف مائل ہو گئے تحقیق و تجسس اور تلاش و تفھیم کے شوق نے ان کو ادب کی نئی نئی شاہراہیں دکھائیں۔ لیکن فطری ذوق ہلکا یاد ہم تو ہو سکتا ہے مفقود نہیں ہوتا۔ یہی سبب تھا کہ وہ جب کبھی بھی کسی بات یا واقعہ سے متاثر ہوئے تو یہ فطری ذوق شعر گوئی پر ابعاد تما اور وہ شعر کہنے پر محبوہ ہو جاتے یہی سبب تھا کہ ۱۹۲۰-۲۵ میں کے دوران انھوں نے دوبارہ شعر گوئی کی طرف توجہ دی۔ اس سلسلے میں ان کی کئی غزلیں ان کے فلمی دیوان "مراہ سخن" میں موجود ہیں شعرو شاعری میں مولانا قادری نے غزل کے علاوہ رباعیات و قطعات بھی لکھے ہیں اور فتن تاریخ گوئی کے تواریخ باہروں میں غمار کیے چاہتے ہیں۔

## مولانا قادری کے شعری مجموعے

مولانا قادری کے شعری مجموعوں کی تعداد سات ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔

"(۱) مراہ سخن، (غزلیات) (۲) جلوہ گاہ

(۳) قطعات جواہر امثال

(۴) هزارہ رُبایات

(۵) محل صد برگ (ربایات) (۶) شنوی منونہ صورت

(۷) مشورہ حشنه (ایک نظم)

مولانا قادری کی شاعری کو سمجھنے اور ان کے کلام پر تنقید کرنے کے لیے انہی کے بنائی ہوئے بحاثت "نقدونظر" سے کام لینا زیادہ بہتر معلوم ہونا ہے۔ ممکن ہے

(۱) مسعود، پروفیسر آن احمد، "تنقید کیا ہے"، دہلی: راجاٹ پرس، ۱۹۳۷ء، ص ۷۰۱۔

کہ ہم ان کے نظریات و خیالات سے متفق نہ ہوں لیکن انھیں کے پیاپہنے پر شاعری کو پرکھنے میں زیادہ آسان ہوگی۔ انھوں نے جس بات کو جیسا دیکھا، سمجھا اور بتائیں کیا سکتا ہے جبکہ اس کی قیمت کو اس طرح محض ہے۔ ہم اس نظر سے نہ دیکھتے ہوں اور اس کی قیمت کو اس طرح محض ہے۔ ہم کرنے والے ہوں جیسے انھوں نے محض کی، ہمذا خود رست اس امر کے ہے کہ ہم ان کے ذمہ کی تحریکات و انتقال بات اور نظریات پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات و احسانات اور اندازِ بیان کو ان کے زمانے سے مطابقت دیتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کی نظر میں:

”شاعری کام بھی ہے اور کھلی بھی، شاعری برائے زندگی بھی ہے لور برائے شعر دارب بھی اور برائے لاشے بھی۔ مشرق و ہندوستان کا نظریہ شاعری مغرب سے بالکل مختلف رہا ہے، ہے اور رہے گا۔ میرے تزدیک ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی میں تنصار نہیں ہے۔ ان کا اجتماعِ عکن ہے خیالات تجربات اور موضوعات نہ نہ ہوں، بدلتے رہیں اور بدلتے رہتے ہیں لیکن ان کے اظہار کا بہترین طریقہ نہیں بدلتا۔“ (۲)

اکثر شواوناقدین کو راقم نے کہتے سناتے ہے کہ قادری صاحب نے روایت و قدرامت دونوں کو برقرار رکھا ہے یہ بات کسی حد تک سمجھا ہے اس کے لیے خود مولانا قادری نے ایک جگہ لکھا ہے۔

”میں اپنے مذہب، اخلاق و معاشرت، ارب اور شاعری میں نہایت گڑراائع ہوا ہوں۔ میں اپنے مذہب کو الہامی، اپنی تہذیب کو ترقی اور اپنے شعر دارب کو روایتی سمجھتا ہوں اور ان میں سے کسی کے متعلق اپنے نظریہ ادب کو بدلتے کے لیے تیار نہیں۔“

(۲) : حامد حسن قادری، مولانا تاریخ و تنقید، کراچی ٹائمز پر ۱۹۷۶ مارچ ۱۲۲

لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ جدید شاعری اور نئی طرز و اسلوب کو پسند نہیں کرتے۔ وہ نئے نئے رسمیات، تجربات، موضوعات اور اسالیب کو خود بھی شروع ادب کے لئے فعال نیک تصور کرتے ہیں مگر ساختہ ہی یہ بھی چاہتے ہیں کہ مغربیت ہمارے شعرو ادب پر اس قدر مسلط نہ ہو کہ وہ اپنی مشرقیت کو مکمل طور پر فنا کر دالیں اسی لئے وہ جدید انقلابی شاعری کے سبیلے میں تحریر کرتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

" باوجود عمر میں جذبات و بے باک بیجے کے انقلابی شاعروں نے اسالیب، موضوعات اور خیالات کا نہایت وسیع و کثیر سرماہی شعرو ادب میں فراہم کر دیا ہے کانٹوں کو ہٹا کر صرف پھول پھن لیتے ہیں۔"<sup>(۲)</sup>

## غزل کے لئے مولانا قادری کی رائے

" غزل کے ہر شعر کو کیف و اثر سے بھر لور ہونا چاہیے۔ تمام کائنات غزل میں انیسویں صدی تک حرف ایک غالب ہے جو بھر لور غزل گو ہے جس کا دیوان بلاشبہ شاعری کا الہام ہے۔ بیسویں صدی کے دور اول کی غزل کے متعلق یہ ہے کہ حضرت مولانا اور فانی بدآبیون جبوری دور کی غزل کا خاتمہ کر گئے۔ قدامت و جدت کی اتنی خوبصورت آمیزش نہ کسی شاعر میں ہے نہ ہو سکتی ہے۔ باقی یا شاعری میں گم ہیں یا شاعری ان میں گم ہے۔ بیسویں صدی کے موجودہ دور میں غزل نے جور نگ نکالا ہے نہایت دل گشائی، جو دست پیدا کی ہے نہایت دل کش ہے، جو زمانی حاصل کی ہے نہایت حوصلہ افزائی ہے۔ نہایت و ثوق و اعتماد سے کہا جاسکتا ہے کہ اب غزل کبھی فنا نہ ہو گی۔"<sup>(۳)</sup>

(۱) حامد سن قادری، مولانا، حامد سن قادری (خدنوشت) آرڈنمنہ مطبوعہ نجمن ترقی اردو بورڈ، کراچی جزوی تا مارچ ۱۹۶۵ء، ش ۱۹، ص ۳۱۔

(۲) حامد سن قادری، مولانا، "تاریخ و تتفییع" کراچی نائم پرنسپل ۱۹۶۶ء، ص ۱۲۶۔

غزل کے سلسلے میں مولانا کے منظریات پر پیش کرنے کے بعد یہ قرار دی معلوم ہوتا ہے کہ غزل کے متعلق بھی کچھ عرض کر دیا جائے۔

اوہ شاعری کے ہر در اور ہر زمانے میں غزل کو ایک نمایاں مقام حاصل رہا ہے جو دیگر اصناف سخن کے مقابلے میں اس کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ وہی سے لے کر حسرت مولانا تک اوہ غزل کو مقبولیت حاصل ہوئی وہ سب پرروشن ہے غزل میں ایک ایسی نغمی و ترجم آفربینی ہے جس نے اس کو آفاقی بنادیا ہے۔ غزل کا اپنا ایک مخصوص مزاج ہے جو جذبات و احساسات کو نوع بتورع اور رنگ برنگ کی مضامین بخشتا ہے۔

میر و سوہرا، خالب و مومن اور ناسخ و آتش کے دور میں شاعری عشق و محبت حسن و جوانی، بھردوں صال اور گل و بلبل کی داستان بنی ہوئی تھی۔ ہر شاعر کے یہاں روحاں کا نقد ان تھا۔ شاعر محبوب کے قد و فامت، کلب و رخار اور حارض و گیسر میں الجھاڑ ہتا تھا۔ میر دو دنے اس کو تصور کے مضامین سے سجا یا تو ان کی راہ پر گامزن رہتے ہوئے امیر میناں و حسن کا کور دی نے بھی اس رایتی رنگ کو چھوڑ کر شاعری کے خارجی عناصر سے احتراز کر کے اس میں ایک حدِ اعتدال پیدا کی۔ انہوں نے اسے خارجی عناصر و تصور کا آمیزہ بنادیا۔

غزل اگرچہ اپنے نرمی معنی کے اقتدار سے عشق و محبت اور حسن و جمال ہی کے مضامین تک محدود تھی لیکن بعد میں مضامین کی کوئی قید نہ رہی اور مختلف و مستقلاً قسم کے مضامین مکھے جانے لگے یعنی کسی شعر میں نفرت ہے تو کسی میں محبت، کسی میں مدرج ہے تو کسی میں خشم۔ کسی میں درسی اخلاق ہے تو کسی میں عفان و تصور۔ کسی میں منطق و فلسفہ ہے تو کسی میں سیاست و تدبیر۔ کوئی شعر جذباتی ہے تو کوئی نفسیاتی بغض یہ کہ غزل مختلف مضامین دگوناگوں جذبات و خیالات کا آئینہ بن گئی۔ اس میں ذوق و شوق جذب و کشش، حزم و عمل، سوزدگی، درد والم، یاس درمان، بہت و حوصلہ جو بہت موعظت، تسلیم درضا، دیواری گنجی و فزانی، اپنا شہیت و فدائیت، جوڑ وجفا، وصل و فراق

سب ہی قسم کے مضمایں ملتے ہیں۔ غزل کی یہی زنگاری اور ٹوپلمونی ایکس کے پسندیدگی اور مقبولیت کا موجب ہوئा۔

اس کی مقبولیت کا ایک خاص سبب یہ بھی ہے کہ اس کے ہر شعر میں ایک نیا مضمون ہوتا ہے جو مضمایں جملہ اصناف سخن میں انگ انگ بیان کیے جاتے ہیں وہ مجموعی طور پر غزل میں مل جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہیرے کی ماں ترشی ہوئی ایک صنف سخن کی سی ہے۔ اس میں تفصیل بھی ہے اجمال بھی، رموز بھی ہیں علامہ بھی، رمزیت بھی ہے ایماشیت بھی اور اشاریت بھی، ساحری بھی ہے صنائی بھی۔ تغزل بھی ہے اور ترم بھی جس بھی ہے اورستی بھی اس طرح اسے پڑھ کر ایک ہی وقت میں ہرنداق اور ہر طبیعت کے لوگ لطف اندوڑ ہوتے ہیں۔ یہ قدرے کو دریا بھی بناسکتی ہے اور سمندر کو گوزے میں بھی بند کر سکتی ہے۔

غزل آج اپنے ارتقا کی ان منازل میں ہے کہ اس کو دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کی شاعری کے مقابلے میں فخر پر طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس کا یہ عروج چند غیر فان غزل گو ہستیوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آج یہ اپنی تاثر و ترم، داخلیت و خارجیت، یحانی و ہماری اور جذباتی و اذہانی کیفیات کے اظہار کے روشن بد دش زبان کی لطافت و شیرینی بیان کی جدت و ندرت اور علامات و اشاریت سے محور ہے۔ لفظی بازی گری اور تصنیع کی بھروسائی و ساری اور برجستگی در دانی نسلی ہے ساتھ ہی تلطیف و پرمیانی اشارات و ریایات، فلسفہ در موزہ ہستی، تنقیدِ حیات اور حقیقی جذبات زیادہ نہ یاد نہیں۔

غزل کے عروج و ارتقا میں <sup>۱۸۵</sup> کا انقلاب بھی کام فرمائا ہے۔

یونہجہ اس انقلاب کے بعد ملکی دلی تقاضوں کے پیش نظر شعرو شاعری اور فکر و نظر کے انداز یکسر مبدل چھئے۔ اور وہ شاعری جو کبھی عشق و محبت کی ناکامیوں کی درد بھری داستانوں اور بھر و فراق کے پر مسوز قصتوں کا مجموعہ قصی حالی و شبیق

اور اکبر و آزاد کی کوششوں سے نئی راہ پر گامزن ہو گئی۔ حالیٰ اپنی عمر کا بیشتر حصہ پرانی و فرسودہ شاعری پر صرف کرچے تھے مگر زمانے کی بدلتی ہوئی اقتدار کو دیکھ کر سخن میں سلف کی پیر و می کرنا نہ چاہتے تھے۔ انھوں نے مولانا محمد حسین آزاد کی رفاقت اور مسٹر سید کی رہبری میں اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ایک عالم گیر تحریک شروع کی جس کا خاطر خواہ اشتہر ہوا۔ انھوں نے مولانا آزاد کے ساتھ مل کر لاہور میں «اجمیں پنجاب» کی بنیاد ڈالی۔ اور اس کے زیر انتظام بجائے بصرعِ حرب کے عوامیات و موصوعات دے کر شاعرے منعقد کرائے۔

انگریزی تعلیم اور انگریزی شعروارب سے اردو ادب بھی متاثر ہوا اور اس دور کے اردو شاعر بھی اس قسم کے شعر لکھنے لگے:-

بیرے کی چمک مشک کی ہے کار نہیں میں سودا گروئیں ترا کردار نہیں میں<sup>(۱)</sup>  
اس سے حال آئی تحریک کو بڑی تقویت می۔ اگرچہ ان کی مخالفت بھی ہوئی مگر آخر لوگ ان کی کوششوں کو سراہنے پر مجبور ہو گئے۔ اور ان کا اندازِ فکر و نظر اور طرزِ تخلیل و کلام بھی بڑی حد تک بدل گیا۔ اب شاعری کے توسل سے جذبہِ حبِ الوطنی بیدار ہوا اور قوم کو ایک درسِ اخلاق بھی ملا اور اکبر نے بھی اپنے عخصوصِ ظریفانہ انداز میں مغربی تہذیب و تقدّن پر شتر زنی کی جس کو پڑھ کر لوگ ہنسنے تو سی مجدد لپر ایک چوتھی پڑتی رہی۔ حالیٰ نے اپنی غزلوں میں عشق و محبت کی جھوٹی داستانیں بیان کرنے کے بجائے قوم کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی طرف توجہ دی۔ محسیدانِ غزل اتنا ہو یعنی وہی طبقہ ہے اور اس میں اسی تدریجی پہچانی آدازیں ہیں کہ کوئی نئی آواز مشکل ہی سے پہچانی جا سکتی ہے لہذا مولانا حامد حسین قادری بھی میدانِ غزل میں کسی بلند مرتبے پر فائز نہ ہو سکے مگر انھوں نے عصری رجمیانات اور تقاضوں کو ضرور محسوس کیا اور

(۱) «وینس» اٹلی کا مشہور شہر ہے۔ «بیان» وینس، کا اشارہ نیک پیر کے ڈرامے کی طرف ہے۔ (ستقالہ نگار)

حال کی طرح شعر و سخن میں غزل کی روایتی شاعری سے کسی حد تک احتراز بر تما۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیان کہیں کہیں عاشقانہ رنگ ہے مگر ابتداء سے پاک ہے۔ اور عشقِ مجازی کے ساتھ ساتھ عشقِ حقیقی کی حرارت بھی کار فرمائے ہے مثلاً وہ

کہتے ہیں : ۰

مرا شوق اس کی مستوری کا ہے فیض ۰۔ مرا درد جگر، دردی کا ہے فیض زندگی ایک فریب تھی حاصل ۰۔ اُٹھ گیا وقت واپسیں پردہ مطلوب بشه اگر خدا ہو ۰۔ ۰۔ ہو جائے فنا جو ماسوا ہو مولانا قادری نے حصوں تصوف کی خاطر دینوی زندگی سے کسی حد تک کنارہ کشی کر لی انھوں نے جلد ہی سمجھ لیا کہ دنیا کی یہ نام رونقیں انسان کے لیے ایک سبق ہیں اور یہ نام ۰ام ایک حلقة وہم و خیال ہے۔

## مولانا قادری کی رومانی شاعری

عشقِ محبت کی زنگین راستتا میں، چل دلبیل کے افسانے، بھروسہ صال کی باتیں یہ سب اردو غزل کا لازمہ ہیں۔ خواہ وہ اردو کے صوفی شاعر خواجہ میر درد گول یا مُصلح قوم مولانا الطاف حسین حال کوئ اس سے بے نیاز نہ ہے سکا اور بقول مرزا غائب : ۰

”ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو ۰۔ نبتو نہیں ہے بارہ ۰۔ ماغ بکھے بغیر اسی طرح غزل میں بھی عاشقانہ مرضیاں کا شامل ہونا زمی بات ہے وہ غزل ہی کیا جس میں عاشق اپنی محرومی اور محبوب کے بھروسہ جفا کا ذکر نہ کرے لہذا مولانا بھی اس روشن سے انحراف نہ کر سکے۔ ابتدائی دور کی شاعری پر امیر درائیغ کا رنگ غالب ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ

آپ کے استاد را فر رام پوری امیر مینائی کے شاگرد تھے اور خود ان کی شاعری کا خاص زنگ بھی یہی تھا اس لیے قادری صاحب کے یہاں بھی چا بجا امیر مینائی کا زنگ جھلکتے ہے۔ مشی امیر مینائی کی شاعری قدیم مقامات سے ملبوہ ہے۔ ان کے یہاں یہ غام باقیں لکھنوا اور رام پور کے دربار سے دا بستکی کا سبب ہیں وہ پرانی باتوں کو نہایت حسرت دیا اس کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ لہذا اس زمانے میں پرانی باتوں کو اٹ پھیر کر کے زنگین عبارات و اشعار میں ڈھال دینا ایک عام روشن شخصی یہی سبب ہے کہ ان کا ابتدائی کلام طبی حد تک ناتسخ کے زنگ میں زمکان نظر آتا ہے اس کے بر عکس جب وہ داعی کا تبتغ کر کے ساری دبے تکلفی کی طرف آتے ہیں تو اس میں کہیں کہیں سُوقیت و رکھت اور ابتدی و ذم کا پسلو بھی جھلکنے لگتا ہے۔ امیر کے متعلق ڈاکٹر رام بالو سکینہ کہتے ہیں۔

”امیر کے ابتدائی کلام میں وہ سب عجوب موجود ہیں جو ناتسخ کے زنگ کے لیے مخصوص ہیں۔ اس میں کوئی چیز نئی و اور سختی ( )

نہیں ہے بلکہ وہی پرانے و فرسودہ مقامات میں جو اٹ پٹ کر زنگین عبارت میں بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ ان کا درود ساری لوگوں درستہ خانہ معتقد ان کے بڑے حریف و معاصر داعی کی طرز پر ہے اور اس میں تخلیق سلاست و ردانی اور دلکش حاشقانہ ترکیبیں بکثرت موجود ہیں۔

” ان کے نعتیہ اشعار گو کہ قدمی مقررہ طرز میں ہیں مگر اعلیٰ

تخلیق فصاحت و بلا خت اور جوش و اعتقاد کے بہترین نمونے ہیں اور ردانی و سلاست توازن الفاظ اور ایجاد کے لیے مشہور ہیں۔ حشو و زوائد اور صنانع بدائع کی کثرت سے ان کا کلام پاک ہے تصوف کی چاشنی بھی کہیں کہیں جلوہ گر ہے۔ جو مشرقی شاعری کی جان اور ادب آموزی کی خاص پہچان ہے ॥ (۱)

(۱) : علیگری، سرزا محمد (مترجم)، ”تاریخ ادب اردوہ از رام بالو سکینہ، لاہور: منظور پرنٹنگ پرنس، سن، ص ۲۴۹

مولانا قادری نے ہر دو قسم کی شاعری (فاشقانہ و صوفیانہ) میں آمیر میناں و جلال بکھنوی کی پیر دی کی یہی سبب ہے کہ ان کے ابتدائی دور کے کلام میں متانت کے بھائی شوخی کا اثر زیادہ نہایا ہے اس زمانے میں عاشق و معترق کے اختلاط کے مضمایں اور انسان جنہ بات کی حکماںی عام تھی اس لیے اس زمانے کے مذاق و روحانی کو دیکھتے ہوئے یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ اس زمانے کی روشن کے اعتبار سے یہ بات بڑی حد تک روا تھی۔ اس جدید دور کے شعرا و ناقدین کو یہ طرزِ کلام پسند نہ ہو لیکن اس زمانے میں یہ روشن حام تھی جس کی تصدیق اس دور کے دیگر تمام شعرا کے کلام سے ہوتی ہے۔ مولانا قادری نے اس اثر کو قبول کیا اور جس قسم کے اشعار کے ان کی پندر

مثالیں یہ ہیں : ۱۰

کیا خوب تم نے ہم کو دفا کا صلا دیا ۔ ۱۱ فہرست سے بھی نام ہمارا اڑاریا  
آئیز آج کے رکھ کے کہا میں نے دیکھنے ۔ ۱۲ گویا تمہیں کو سانس لا کر ٹھہار دیا ۱۳

ایک اور غزل کا شعر ہے :

میرا ذمہ جو اُسے کچھ بھی خبر ہو اس کی  
آپ آئیں تو سہی غیر سے چھپ کر دل میں تاں ۱۴

مولانا قادری خود کہہ چکے ہیں کہ استاد کی صحبت سے مجھے میں بھی آمیر میناں کا نگ پیدا ہو گیا تھا اور فکر میں ایسے ہی مضمایں و انداز آتے تھے لہذا اپنے آمیر میناں کا ایک شعر پیش کیا جاتا ہے اور پھر مولانا قادری کے اسی زمین میں اشعار پیش کیے جائیں

(۱۰) : کشہ، جبد اللطیف خان، «حامد حسن قادری»، مجموعہ بالا، شش، ۱۹، ص ۹

(۱۱) حامد علی، مولوی سید، «مولانا حامد حسن قادری»، و «شفق» (مہنامہ)

جن، ۱۹۴۳ء، ص ۶۱

گے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مولانا نے امیر مینائی کا اثر ہمان تک قبول کیا تھا۔ امیر  
بکتے ہیں ہے

”پائے نازک پہ ہوا لوٹ گئی۔ بنا۔ بال کھوئے تو گھٹا لوٹ گئی  
مولانا قادری بکتے ہیں ہے“

ان کے دامن کی جو پائی خوشبو۔ بنا۔ کیف دستی میں صبا لوٹ گئی  
ایک اور شعر ملاحظہ ہو: ہے

ڈار پر ڈار کیے اس نے یہ کہہ کر مجھ سے۔ بنا۔ پھر تو کہنا کہ ستانے میں مراحتا ہے  
”مراحتہ شخص“ مولانا کا ترتیب کردہ مختصر ساقلی دیوان ہے اور ترتیب

دو دین کے سلسلے میں عموماً ملحوظ رکھنے والے قاعدے کے مطابق حرف

تجھی کے اعتبار سے البتا یا نئے ترتیب دیا گیا ہے جس کے لیے وہ کہا کرتے  
تھے کہ ”صرف دُ د ماہ کی قلیل سی مدت میں ترتیب دیا گیا ہے“ (۲)

مولانا قادری اخلاقی اخبار سے بڑے بلند پایہ بزرگ تھے مسحی زبردستی کے باوجود  
مزاج میں شوخی و زیگزگی کا عنصر بھی تھا۔ بادۂ تضوف سے بھی مُرشاد تھے۔ زبان دریان  
اور تغزل و تخيّل کے اعتبار سے انھوں نے امیر کی تقلید توکی مگر معاملہ کچھ رایسا، ہی  
رہا جیسا کہ اکبر الہ آبادی میر کے سلسلے میں کہہ گئے ہیں:

”میں ہوں کیا پیزیر جو اس طرز پر جاؤں اکبر  
ناشخ دُرْوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ

لیکن اس سے مولانا کی شاعرانہ حیثیت تسلیم کرنے میں کوئی بات مانع نہیں  
ہوتی۔ وہ بہت کم گوارکم سخن تھے اور اتنا قلیل سا سرما پیدہ شعری رکھنے کے باوجود بھی  
ان کے یہاں بڑے عمدہ اور معیاری اشعار مل جاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان کی ابتدائی  
شاعری پر تقلید و تیقّن کا عنصر غالب ہے اور ابتدائی شاعری میں ایسا ہوتا ہی ہے اگرچہ

(۱) : محمد مولوی سید حامد علی، سابق یونیورسٹی کالج آگرہ: مہماں شفقت مولانا

وہ اپنے کلام میں آمیر کی شیرینی و شگفتگی اور سخنی آفرینی و بلند پردازی تو پیش نہ کر سکے لیکن ان کے یہاں روایت و تصور اور حقائق و معارف کے رموز و نکات جا بجا نظر آتے ہیں جو مشرقی شاعری کی جان اور اخلاق و ادب آموزی کی خاص پہچان ہے۔ ایسے اشعار و خیالات بغیر الفاظ بیشتر شُفر کے یہاں بھی مل جاتے ہیں مولانا قادری بھی اس میں کسی سے پچھے نہیں رہے۔ مندرجہ ذیل اشعار میں قافیہ و درافت کی پابندی اور معنویت و سلاست میں ان کا کلام کسی اچھے شاعر سے کم نہیں۔

کہتے ہیں : -

بے خودی دیتی جو ہدلت کوئی تم ۔۔۔ ہم بھی کرتے جستجو کی آرزو  
چاہیے چل کی حقیقت پر نظر ۔۔۔ کرنہ حامد رنگ دبو کی آرزو  
روٹے زرد، اشک سرخ، ناڈل ۔۔۔ اس خزان کا نہیں بہارِ عوض  
ان کے اشعار میں ایک قسم کی شاہکی و صفائی اور پختگی ملتی ہے چند اشعار اور ملاحظہ ہوں : -

سوڑ دل چاہیے صفا کے یے ۔۔۔ ہے یہاں شعلہ چرانغ میں چرانغ  
طبیدت میں پیدا مزرا کر دیا ۔۔۔ محبت نے درد آشنا کر دیا  
مل آج حامد عجب حال تھا ۔۔۔ اُسے عشق نے کیا سے کیا کر دیا

ایک اور غزل کے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں : -

لحد سے اٹھو کے نظام دیکھ لوں میں تیری ٹھوڑی بھی ۔۔۔ جو آیا ہے تو کر دے چال سے برپا فیامت بھی  
کہا قاصدے سے، کہنا عجر بھر یونہی بسر ہو گئی ۔۔۔ کہاں کا خط، ہمارا پڑھ پکے وہ خط قسمت بھی  
یہ کون آتا ہے وہ آتے ہیں شاید یہ گھرشن کو ۔۔۔ خبر کے ساتھ ساتھ اڑتے تھی مھولوں کی رنگت بھی  
بسر ہوتی ہے اپنی زندگی کس بطفے سے حامد ۔۔۔ خدار کھے مزے کی پیڑتے ہے درد محبت بھی  
مولانا قادری کی بعض خریں جوش داڑا اور اس لب و لہجے سے مزین ہیں  
جو غزل کے بے مخصوص ہے۔ مولانا نے اساتذہ کے کلام کا باقاعدہ سطح الحکیم تھامیسہ  
محضی خاتب دسومن اور عالی داکتر کو جس طرح مولانا قادری نے سمجھا اور پڑھا

دوسری کے لیے یہ بات آسان نہ تھی یہی بسب تھا کہ انھوں نے تنقید کرتے وقت غالب کے پوزے اڑانے میں کسی خوف اور اس کی شاعر انہ عظمت کا اعتراف کرنے میں کسی سُخنلے کے کام نہ لیا۔ اکبر خونکہ ایک مُصلح قوم دہم در قوم تھے مولانا ان سے بھی متاثر ہوئے۔

اکبرالہ آبادی کی ایک غزل کا مقتطع ہے:-

”رندِ عاریِ مقام ہے اکبر۔ ۷۔ بو ہے تقویٰ کی اور شراب کارنگ“  
مولانا قادری نے اکبر کا تثییر کرتے ہوئے ان کی زمین میں بھی غزل کہی ہے ملاحظہ ہو:-

چشمِ ساقی میں ہے شراب کارنگ۔ ۷۔ اب نہ پوچھو دل خراب کارنگ  
عرق آسود ہے رُخِّ گلگوں۔ ۷۔ آج پانی میں ہے شراب کارنگ  
روزِ ابھری میں روزِ مشتی ہیں۔ ۷۔ آرز و دُوں میں ہے خباب کارنگ  
رُخ ہوابے نقاب، ہم بے بوش۔ ۷۔ یہ بھی ہے اک ترے حباب کارنگ  
ابر میں چشمِ اشک بار کا طور۔ ۷۔ برق میں دل کے اضطراب کارنگ  
ہو گی داں حسرت گز زا بد۔ ۷۔ دیکھ کر غفو بے حاب کارنگ  
مست ہو کر اچھاں فے حامد

اس س عمل میں بھی ہے ثواب کارنگ

مولانا قادری کی اکثر غزوں میں نعتیہ اشعار بھی ملتے ہیں اس کی وجہ ان کا وہ مذہبی اور ما بعد الطبعائی روحانی تھا جو ان کی غزوں میں منظر آتا ہے۔ غزل کی روایات اور تجربات ان کے سامنے تھے۔ میر، درد، غالب، مومن، حالی، اکبر اور اقبال نے ان کے افکار و تخلیقات کو اور بھی وسعت و جلا بخشی۔ میر، درد کے صوفیاتِ خیالات، غالب و اقبال کا مفکرانہ انداز اور حالی و اکبر کے اصلاحی جذبے سے مولانا قادری کا متاثر ہونا ایک لازمی بات تھی۔ حالی و اکبر اور اقبال کے اثر سے ان کے کلام میں بھی پسند و نصائح اور اخلاق و معنوں کے مضامین منظر آنے لگے۔ غزل میں اخلاقی و

فلسفیانہ باتیں بیان کرنا اور اس کے تغزل و ترجم اور موسیقی و شعریت میں کمی نہ آنے دینا یہ ایک مشاق شاعری کام ہے۔ مولانا قادری غزل کے اس سحرِ حلال سے بہرہ درنہ تھے اور پسح تو یہ ہے کہ انھیں اپنی شعرگوئی پر کوئی فخر بھی نہ تھا۔ شعرگوئی ان کے لیے صرف تیکین ذوق کا سامان تھی۔ وہ اپنے کلام کو شایع کرنے کے بھی زیادہ شوقیں نہ تھے۔ ان کے یہاں جو اخلاقی مفہومات ہیں وہ سپاٹ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ان کے مذہبی رنگ کے مفہومات میں بھی تصور کا گہرا اثر اور دل کشی نہیں پائی جاتی اگرچہ مولانا نے اپنی غزلوں میں تصور کا رنگ بھرنے کی بھروسہ کو شش کی مگر ان کو صرف مذہبی حیثیت ہی حاصل رہی۔

مولانا کامراج شاعرانہ فرود تھا مگر غزل گوئی کے لیے موزوں نہ تھا۔ یا یوں کہا جائے کہ انھوں نے غزل سے واجبی ساتھی رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلوں میں وہ تغزل موسیقی اور برجستگی دبے ساختگی نہیں جو غزل کا طرہ امتیاز ہے۔ شاعری میں تغزل صرف روایات کے زیر اثر پیدا نہیں ہوتا اس کے لیے ایک خاص قسم کے ماحدی کی فرودت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شاعر کی شخصیت میں بھی ان خصوصیات کا ہونا لازمی ہے جو غزل کی محک ہیں۔ یہ فرود ری نہیں کہ میر تقی میر کی طرح ہر شاعر کے یہاں سوز و گداز و درد الم، اور بے ساختگی و برجستگی ملے۔ داغ بھی شوخ دنگیں طبیعت کے آدمی اور حاکی جیسے متین و سنجیدہ انسان بھی غزل کے اچھے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لیے جوش و جذبے کے ہلاوہ دل کی تڑپ اور حسن سے متاثر ہونے والی طبیعت بھی لازمی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جوش و جذبے اور اضطراب و ہیجان کے تحت ہی غزل کبھی جاسکتی ہے اس کے برعکس نہایت صلحے ہوتے اور سنجیدہ اذمان رکھنے والے بھی نہایت بلند پایہ غزل میں کہتے ہیں۔ خواجہ میر درد، اصغر، اور حسرت مولانا کا کلام اس کی بہترین مثال ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا دل گرفتہ ہے اور میر و خالب کے نزدیک دل کی گرفتگی و گردانختگی ہی شاعری کا اصل محک ہے میر کا تقول ہے کہ: سے ہم کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہمنے ۷۰۔ در دنگم کئے کیے جیں تو دیوان کیا

بہر کیف مولانا قادری بھیت ایک غزل گو شاعر اس سبب سے بھی کوئی خاص مقام حاصل نہ کر سکے کہ صفتِ غزل میں بخوبی شعر اٹھ آزمائ کرچکھیں اور ہر خیال اور ہر جذبے کو مختلف رنگ اور انداز سے پیش کیا جا چکا ہے۔ اس میں بظاہر اتنی گنجائش نہیں کہ کوئی عام شاعر اپنے کو میرزہ و ممتاز کر سکے۔ اب تک اردو غزل ایک ایسی راہ ہے جس سے بڑے بڑے کارروائیں گزرے ہیں اس کارروائی کے رہروؤں میں سے کسی ایک ایسے ہی رہرو کی چال ڈھال پر خصوصیت سے توجہ دینا بڑی مشکل بات ہے۔ اگر وہ کوشش کرتے اور خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہو ستے تو عکن تھا کہ اس میدان میں بھی اپنی جگہ بنایتے مسخر وہ تو ابتداء ہی سے مرسیہد احمد خان کی طرح شاعری کو ترک کر کے انشا پردازی کی طرف مائل ہو گئے اس درود میں اگر طبیعت کبھی راغب بھی ہوئی یا کسی کی فرمائش ہوئی تو چند شعر کچھ یہے درستہ انہوں نے شاعری کو متفہ نہیں بنایا۔

## مولانا قادری کی تعریف شاعری

ان کی اکثر غزلوں کے مجازی اشعار سے بھی عشقِ حقیقی جعل کتا ہے ان کے دل و دماغِ محمد خداوند حرج رسولؐ کی طرف مائل نظر آتے ہیں اگر ایک طرف وہ مردِ فاضل تھے تو دوسرا طرف تھوت و میں بھی کامل قصہ یہ امر واقع ہے کہ ان کا دل ہر وقت ذکر الہی اور عشقِ رسولؐ سے سرشار رہتا تھا۔ مندرجہ ذیل اشعار سے ان کی اس خصوصیت کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے:-

مبادر ک قم کو موسیٰ طور کا عشق	بھیں ہے گنبد پر نور کا عشق
مرا مل ہے چرائی عشق موسیٰ	جسے ہو، ہو، چرائی طور کا عشق
چلیں گے سر کے بل گو پاؤں تھک جائیں	نہیں پاندہ کچھ دستور کا عشق

کوئی دن اور لیتا صبر سے کام تو پھر تسلیم تھا منصور کا عشق  
مدینے چل، وہیں مر اور وہیں حکومت  
نہیں تسلیم حامد دور کا عشق

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے اور نعتیں تکھنا ہر شاعر عنوان اپنے  
لیے ذریعہ نجات تصور کرتا ہے اور بات بھی یہی ہے مگر ہر شاعر اس میدان کا  
مرد نہیں ہوتا غاکب جیسا بلند پایہ شاعر بھی اپنی بے بی و عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا  
ہے کہ:

**غَاكَبْ شَانَهُ خَواجَهَ بِهِ نِيزَادَانْ كَنْزَتِيمْ** کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است  
مولانا میں ایجاد و انحراف کا مادہ خاصاً تھا ان کے پیاس عربی و فارسی کے الفاظ کے  
ساتھ ہندی و اردو کے بھی سبک و شیرین الفاظ کا حسین امتزاج و اشتراک ہے  
آن کے حسن سعیدت نے اس آمیزش کو اور بھی چار چاند لگا دئی ہے ہیں۔ شیخ سعدی  
شیرازی کے مشہور نعتیہ قطعہ کو جس علامہ مصروع ادل "بلغ العلی بکمالہ" ہے تو بہت سے  
شعراء نے تضمین کیا ہے آمیر میناں کی تضمین تو بہت ہی مشہور ہے مولانا قادری  
نے خیال کیا کہ آمیر میناں کے نقش قدم پڑلتے ہوئے ایک تضمین میں اردو کے قافیے،  
ایسے اختیار کیے جائیں جو عربی کے قافیوں کے باکل مشابہ و مماثل اور تمہ آواز ہوں۔  
چنانچہ تضمین ملا خطہ ہو،

تو کرم پھر ان کا سنبھالے ہی  
انھیں دل جو کر دیں حوالے ہی  
کہ ہیں وصف ان کے نزلے ہی  
کشف الدّجی بحـالہ  
صلوٰۃ علیہ وآلہ  
حذت جمیع خصا بہ  
مولانا نے شیخ سعدی شیرازی کے اسی مشہور نعتیہ عربی قطعہ کا فارسی میں کس  
قدر سادہ، دل نشین اور بے مثال منظوم ترجمہ کیا ہے۔ ملا خطہ ہو،

بِهِ عَلُو دَسِيدَ كَالِّ أَوْ شُدَّه رُوزِ شَبَّ بِجَمَالِ أَوْ  
 حَنْتَ بِجَعْ خَسَالِهِ صَلَّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ  
 هُمْ نِيكَ بُودَ خَسَالِهِ أَوْ رَحْمَتَ بَرَّ أَوْ بَرَّ آهَلِ أَوْ  
 اِيكَ اور فَعْتَ شَرِيفَ مَسَدَّسَ کی شکل میں لکھی ہے جس میں عرب کے قافیوں کے نماشیں  
 مشابہ اور ہم آہنگ و ہم آواز قافیے نظر کیے ہیں بلا خطا ہو : سے  
 وَرَدَ دُرُودٌ پاکٌ ہے زَمْرَدٌ هَرَانِسٌ وَجَنَّ ذِكْرِ بَنِیٰ سے دل کو رکھ مسلم خستہ مُطْمَثَن  
 اُنْ کے کرم پر رکھ نظر اپنی مصیتیں نگن  
 اُنْ پر سَلَامٌ صَبَحٌ وَشَامٌ اُنْ پر دُرُودِ رَاتِ دِن  
 صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ

ایک اور نوت محدث کی شکل میں ہے جو بڑی طویل ہے۔ اس کے بھی تین بند ملا حظہ  
 فرمائیے ہے ۔

فَخَرُّ الْمُرْسَلِ مَرْدَارِ دُوعَلَمٍ اَفْضَلُ اَشْرَفُ اَخْنَمُ اَقْدَمٍ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ اَشْرَفُ اَخْنَمُ اَقْدَمٍ  
 کہتی ہے ان سے رحمتِ داور اباً اَعْطَيْنَاكَ اَنْجُونَ شَرِيفَ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ اَشْرَفُ اَخْنَمُ اَقْدَمٍ  
 شَمِيعُ سَبِيلٍ بِهِيْ گُلُّ بِهِيْ فَخَرُّ بَشَرٍ بِهِيْ خَسِيمُ مُرْسَلٍ بِهِيْ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ اَشْرَفُ اَخْنَمُ اَقْدَمٍ

مولانا کو حضور اکرم کی ذاتِ اقدس سے اک دالہانہ محبت و عقیدت تھی۔ درِ رسول  
 پر بھی حاضری کا بے حد اشتیاق تھا اسی جذب و گیفت کے عالم میں مستفرق ہو کر جب  
 وہ کچھ معرض کرتے تھے تو دوسرا بھی اس سے متاثر و مکبیت ہوئے بغیر نہ رہتے  
 تھے۔

اس کا اندازہ اُنکی منہ رجہ ذیلِ نعمتیہ رُباعیات سے بخوبی ہو سکتا ہے : سے  
 مرے دل میں ہے تنورِ مدینہ مرسی آنکھوں میں ہے تصویرِ مدینہ  
 کھا آنکھوں میں خاکِ روضہ پاک یہی حادثہ ہے اک سیرِ مدینہ

کیا بھر کرم حضور کا سینہ ہے دل رافت و محنت کا گنجینہ ہے  
 انوارِ خدا دیکھو لو اسکے اندر قامت نہیں قدِ آدم آئینہ ہے  
 کامل ہے جہاں میں بیٹک دین تیر کیوں بول نہ بالا ہوا بد تک تیرا  
 سرپر ہے ترے تاجِ الہم شرح کا طرہ ہے رُفعتِ الکَفْدِ ذِکرِ کَفْتیرا  
 پہچانے دربندی یہ تقدیر مجھے ہاتھ آئے نسبات کی یہ تدبیر مجھے  
 اکسیر کی قدر ہو نظر میں کیا خاک خاک درِ صطفیٰ ہے اکسیر مجھے  
 دنیا میں رسولؐ اور عجی لاکھ ہی زیبا ہے مگر حضور کو تاج شہی  
 ہے خاتمہِ مُحَمَّدٌ عناصرِ آن پر ہیں مشرع آخر اس رُباعی کا وہی  
 یہ بھی سببِ آفاق ہے کہ مولانا اکثر اپنی حیات میں اک خاص رُباعی کا درد کرتے  
 رہتے تھے وفات کے بعد مرحوم کے صاحبزادے ڈاکٹر خالد حسن قادری نے کشیر  
 اڑو کانج سری نجمری میں مجھے قادری صاحب کی رحلت کی خبر دی تو اسی روز شعبہ اڑو  
 کے زیرِ اہتمام میں نے مولانا قادری کی بار میں ایک تعریتی جلسہ منعقد کرایا مرحوم کے  
 سلسلے میں جب طلب کے سامنے میں اپنے تاثرات کا اظہار کر رہا تھا کہ شدتِ جذبات  
 سے مغلوب ہو گیا میں نے مرحوم کی ہی ایک رُباعی جو کبھی انھوں نے میرے سامنے ہی  
 والدِ محسوس (رحمیم سید قمر احمد) کو سنائی تھی وہ سنائی اور تقریباً ختم کر دی تیکن  
 جب میں یہاں کراچی پہنچا اور مولانا کے مزار پر حاضر ہو تو کوچ مزار پر دہلي رُباعی  
 کندہ دیکھی اس نے آن کے روحانی تصرف کا فائل ہونا پڑا۔ آن کے ایک اور  
 شاگرد شید منظر جبلیل شوق قدوامی نے اسی رُباعی کی وساطت سے آن کی  
 تاریخ وفات نکالی جو مندرجہ ذیل ہے:-

" مقا عشق رسولؐ میں ہمیشہ جو شفقت  
 مائل رہا دل سدا مدینے کی طرف  
 باقی نہ رہے بلعید جو رحلت کے بعد  
 مل جائے تھد ہی میں زیارت کا شرف

۱۳۸۳ - ۷۴

## قطعات و ضرب المثال

غزل اور دیگر اصناف سخن کی طرح اردو میں قطعہ بھی فارسی کے ہی اثر سے داخل ہوا ہے اردو میں اس صنف سخن کی مقبولیت خصوصیت سے انیسوی صدی کے آخر سے شروع ہوئی اس صنف کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کے مضامین نہایت حسن و خوبی سے نظم کیے جاسکتے ہیں۔

قطعہ بیان و معنی کے اعتبار سے قصیدے اور غزل سے حاصل و مشابہ ہے اکثر شعر اقصیدے یا غزل میں بھی چند ایسے اشعار جو ایک دوسرے سے مر بو طد مسلسل ہوتے ہیں بطور قطعہ کے شامل کر دیا کرتے ہیں۔ تیر و غالب کے یہاں بھی اکثر ایسے اشعار ملتے ہیں لہذا اصطلاح شاعری میں قطعہ ان چند اشعار کو کہتے ہیں جن میں ایک شعر کا مطلب دوسرے سے متعلق و مر بو طد ہوتا ہے۔ اس کے سب اشعار کے آخری مفرغے (دوسرے مفرغے کے) ہم قافیہ ہوتے ہیں ایک اور خصوصیت ہے قطعہ اور غزل کیلے مابد الامتیاز ہے وہ یہ کہ قطعہ میں غزل یا قصیدہ کی طرح مطلع نہیں ہوتا بلکہ اس کا مضمون قصیدہ یا مشتہری کی طرح مسلسل ہوتا ہے اس طرح وہ نظیمیں بھی جن کے پہلے مفرغے میں قافیہ نہیں ہوتا اسکو ما قطعہ کی ضمن میں شمار کی جاتی ہیں۔

اردو شعر اکے دو اویں کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے غزلات کے ساتھ طویل قطعات بھی لکھے ہیں۔ چنانچہ ان کی وہ غزلیں جو مطلعوں سے عاری ہیں اور ربط و تسلیل کی حامل ہیں قطعات میں شمار کی جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ قصائد بھی جن میں مطلع نہیں ہیں انہیں بھی ہم اصطلاحاً قصیدہ نہ کہہ کر قطعات ہی کہیں گے۔ قطعہ میں اشعار کی تعداد کم از کم دو ہوتی ہے مگر زیادہ اشعار کہنے کے لیے تعداد کی کوئی حد و قید متعین نہیں ہے۔ اس لیے اس کے اشعار کی تعداد اصرف شاعر

کی مرضی و نشا پر ہی منحصر ہے۔ شعر گوئی کے لیے کسی مخصوص بھرا اور وزن کی بھی تخصیص نہیں ہے لیکن یہ بات لازمی ہے کہ اس کی بھرا اور وزن ریاضی کی مخصوص بھرا اور وزن سے جو اہم اس کے لیے موضوع و مضمون کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔

کے مضامین جن میں ربط و تسلسل ہو قطعے کے ذریعے پیش کیے جاسکتے ہیں۔  
مولانا قادری نے بھی قطعات کیے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی کے دیکھ تر حقالق کا جزو نہیں ہیں اور نہ ان میں اجتماعی شعور اور گھری سنجیدگی کا فراہم ہے۔ یہ چلکے ہیں پھر بھی ہر صریح چست و پرجستہ اور ہر فقرہ و محاذہ شوخ و بمحمل نظر آتا ہے۔

۷ فروری ۱۹۳۶ء، برڈ جموں "انجمن ترقی اردو سینٹ جانس کالج آگرہ" کے زیر اہتمام علامہ میکش اکبر آبادی کی زیر صدارت کالج کے ہال میں سالانہ مشاعرہ منعقد ہوا جس کا مصروف طرح تھا:-

"کہاں سوئی ہوئی ہے فطرت پروانہ برسوں سے"

اس روز مغرب سے قبل ہی بادل چھائے، بھل کوندی اور بارش شروع ہو گئی  
لیکن مشاعرہ کے وقت تک سامیں و شرعاً خاصی تعداد میں جمع ہو گئے۔ اکبر آباد کے  
اساتذہ میں سے علامہ میکش اکبر آبادی اور علامہ سید ابوبکر اکبر آبادی بھی تشریف لے آئے  
مولانا بحیثیت صدر رشیعہ اردو اور صدر راجحہ ترقی اردو بڑے فکرمند تھے کہ اس موسم  
میں مشاعرہ کا طرح کامپیاب ہو گا لہذا مولانا نے موقع کی مناسبت سے ہال میں بیٹھے  
بیٹھے یہ فی البدیلہ قطعہ کہا اور آغاز مشاعرہ و تحریک صدارت سے قبل بطور حفظ ماقوم  
نذرِ سامیں و شرعاً کیا آپ بھی لاخڑ کیجئے:-

ہمیشہ کامیں فن بیان تشریف لائیں	ہوا کرتی ہے یہ بنہ من سجانہ برسوں
مجھ بہم کو ہواتھا اتفاق ایسا نہ برسوں	لکی مجمع کی شاید ابرڈ باراں سکھیب سے ہے
مکون سے آج تھوڑا کام میلیتی تو کیا ہوتا	تڑپتی بی رہی ہے بدق بے تاباڈ برسوں
یہ مانا ابر بھی ہے صبظے سے یگناز برسوں	دبار کھدا ذرا آج اپنے جوش گزیکو

ذرا دلمل کو اپنی خشک رکعتیں شہر کی شرکیں      ہی ہیں عرصہ گاہِ لغت پیشِ ستانہ برسوں سے  
محیرِ مشکلیں ہیں امتحانِ شوق کی خاطر      ہوا تھا کب ظہورِ محبتِ مردانہ برسوں سے  
بررسوں بعد اسے حامد صلاٹے شمع اور دیے "کہاں سوچی ہوئی ہے فطرت پرداز برسوں سے"  
یہ قطعہ سنکر اہل مخالف مولانا کی بدر گوئی سے خالص محفوظ ہوئے۔

## ضربُ الأمثال

ضربُ الأمثال کے سلسلے میں یہ باتِ ثقہ نے نہیں کہی جاسکتی کہ یہ کب اور  
کس طرح وجود میں آئی۔ محیرِ باتِ قرین پر قیاس ہے کہ یہ لوگ ادب کی طرح خود بخود  
پہلتی و پھولتی رہیں۔ ان کی ثہرتِ دقبویت کا ایک خاص سبب یہ بھی ہے کہ ان میں حقائیق  
حیات اور انسانی تجربات کو ایجاد و اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح  
"ضربُ المثل" تجربات کو تفصیل و طوالت کی سجائے اجمال و اختصار اور جامیعت  
سے بیان کر دیا کرتی ہیں۔ اور جو کامِ نظم میں صنعتِ تلمیح انجام دیتی ہے ادیب و شاعر  
اسی سے نظم و نثر دونوں میں وہی کام لے لیا کرتے ہیں۔ متندن اور مہندب لوگ اس  
کی افادیت و اہمیت اور طریقِ استعمال سے خوب کام لیتے ہیں۔ اگر ضربُ المثل حسب  
سوق ہو تو کارگر اور سودمند ثابت ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ قاری اور  
سامع بھی اس کے مخفی معنی سے پوری طرح آگاہ و باخبر ہوں ورنہ شاعر کی محنت  
بے کار جائے گی۔

ذیل میں ہم مولانا کے چند ایسے قطعات بطورِ نمونہ درج کرتے ہیں جن میں ضربُ الأمثال  
نہایت خوبصورت و سلیقے سے استعمال کی گئی ہیں۔ مشہور شل ہے "اوکھی میں سر  
دیا تو موسیون سے کیا ڈرنا" (۱) اس شل کے پیش نظر مولانا کہتے ہیں:—

(۱) : یہ شل اس طرح بھی ہے کہ "اوکھی میں سر دیا تو دیک کا کیا ڈرنا" (مقالات نگار)

عشق نے نادان کچھ اچھا نہیں بہتر نہیں  
کس نے کرتا ہے کہنے کو تو باور نہیں  
چھوڑتا ایمان تک یعنی خارج نہیں  
خوش نہیں رب اسے، راضی اسکے پیغمبر نہیں  
سرودہ ہمارے عشق میں جس کو خیال نہیں  
دُوگ ان کو جانتے جنوں سے کم نہیں  
ان کا کوئی گھر نہیں ہے ان کا کوئی دُر نہیں  
کیا صمیت ہے جو ان کی جان کے اوپر نہیں  
کون ایسا ہے کہ تم سے چشمِ جس کی تر نہیں  
الغرض بہتر ہی ہے ان بُتوں پر مرنہیں  
تیرے یعنی میں اگر دل ہے کوئی پھر نہیں  
اوکھی میں سرد یا تو مولوں کا ڈر نہیں<sup>(۱)</sup>  
ایک اور قطعہ ملاحظہ ہوا اس میں «بے وقت کی راگنی» اور «تفاوت خلنے میں طویلی  
کی صدا» والی ضرب الامثال کی طرف توجہ دلائی ہے ۔

جہاں تھا ایک مہر منہ کچھ سنبھالنے میں  
وہاں جو شخص تھا مشغول تھا وہ علی چھائیں  
جو اپنے دغدھ سے شہر تھے سائے زنجیں  
یہی توفیر ہوتا ہے نہیں اور پرانے میں  
ہونے مصروف بس کچھ میں اپنا سُر لانے میں  
کروہ مشغول تھے سب اپنا فرمی گیت گئیں  
صد اطویلی کی سنتا کون ہے تفاوت خلنے میں<sup>(۲)</sup>

مجھ سے اک دن حضرت واعظہ بری فرلانے لے گے  
عشق میں عمر آدمی کی سفت ہوتی ہے تباہ  
رین درین اراد لون ہو جاتے ہیں انسان کے خواب  
یاد رکھے ہے عشق یا زی فیما با بل لگاہ  
دل حسینوں کو وہ درے جس کو نہیں پر دادل  
ہیں جو عاشقِ حبیتے، ہیں سختیوں پر سختیاں  
ہیں جو عاشقِ جنگلوں میں چھانتے پھر ہیں خاک  
ان کے دل پر کون سی آفت ہے جو آتی ہیں  
کون ایسا ہے کہ جو کرتا نہیں آہ و فہمان  
ہے سراسر فائدہ اس میں کہ بازا عشق ہے  
یہ نصیحت میری تبحیر پر کارگر ہو گی ضرور  
سن کے میں نے عرض کی خراب توجہ کچھ ہو ہو جو  
ایک اور قطعہ ملاحظہ ہوا اس میں «بے وقت کی راگنی» اور «تفاوت خلنے میں طویلی  
کی صدا» والی ضرب الامثال کی طرف توجہ دلائی ہے ۔

کسیجاں منعقد تھا ایک دن اک جلسہ قومی  
صدائے مر جبا و حبذا آتی تھی ہر ب سے  
یکایک حضرت واعظہ بھی اس جلے میں جا کوئی  
دو جلسہ تھا «نیو فیشن» کا اس میں طلب پہنچے  
لکھ کرنے نصیحتِ مشدوں کو مولوی صاحب  
الاپا آپ نے بے کار راگ اپنی نصیحت کا  
شجانا تھا انہیں کوئی جلے میں فیما پہنچے

(۱) "فتنہ عطر فتنہ" گورکھ پور : ۲۰ فروری ۱۹۱۰ء، ج ۲۵، ش ۵، ص ۹

(۲) بہم گورکھپوری حکیم (مدیر) "فتنہ عطر فتنہ" گورکھ پور : ۹ فروری ۱۹۱۰ء، ج ۲۵، ص ۶

ایسے قطعات بجاہر امثال سولانا قادری نے متعدد کیے ہیں۔ یہ امثال اردو کی بھی ہیں  
ہندی کی بھی اور فارسی کی بھی۔ ذیل میں ہم ان کے طویل قطعات کو صرف نظر کر کے حرف  
وہی مصروف کے درج کر رہے ہیں جو مولانا نے تضمین کیے ہیں۔

- ۱۔ اُو کھلی میں سرد یا تو موسلوں کا ڈر نہیں
- ۲۔ صد اٹوٹی کی ستائون کون ہے تقاضہ لئے میں ۔
- ۳۔ پوکھڑا زکعبہ برخیزروں کجا ماند مسلمان
- ۴۔ گھر کا جیدی تکالڈھاٹے
- ۵۔ ہر کجا چشمہ بُود شیریں با مُشدِ دم دُرُن و دُنوز گرد آئند
- ۶۔ گھر کی سرغی دال برابر
- ۷۔ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندر ہیری رات ہے
- ۸۔ ان نینن کسی بھی بیکھر با وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ
- ۹۔ در عمل کوشش وہر چہ خواہی پوش
- ۱۰۔ آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے
- ۱۱۔ دوستی نادان کی ہے جی کا زیان ہو جائے گا
- ۱۲۔ عیدِ رمضان آمد و ماہِ رمضان رفت
- ۱۳۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے
- ۱۴۔ خلطی کی ہے جو کافر کو مسلمان سمجھا
- ۱۵۔ میں ہو چکی نمازِ مصلیٰ اٹھائی ہے
- ۱۶۔ درکارِ نیز حاجت / استخارہ نیست
- ۱۷۔ در صبح الدہ ہر کیف نادرا

(۱) : برهم گورکھوری حکیم (مدرس) "فقہہ و علل فقہہ" گورکھور ۱۹۱۷ء۔ - ج ۲۵ ص ۶

- ۱۸۔ تو پاک باش برادر مدار از کس باک  
 ۱۹۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی  
 ۲۰۔ ہمت کا حامی خدا ہے  
 ۲۱۔ رونی صورت ہیں، ہمیں قیدِ محروم کیا ہے  
 ۲۲۔ غم نداری بُر بُخْر  
 ۲۳۔ زخور دان خطلا دز بزرگان عطا  
 ۲۴۔ تکھے نہ پڑھنے نامِ محمد فاضل  
 ۲۵۔ مادر چہرہ عیا الیم و نلک در چہرہ خیال  
 ۲۶۔ بد نام اگر ہوں مجھے تو کیا نام نہ ہو گا  
 ۲۷۔ پدرِ مسلمان بود  
 ۲۸۔ الیاس احدی الراحیں

۲۹۔ اونٹ رے اونٹ ترمی کون سی کل عییدِ صی  
 سولانا نے فرب الامثال کو تنظیم کرنے کے لیے قطعاتِ ہری نہیں کہے بلکہ انھیں کلامِ پاک بے عبی  
 بے پناہ ششق تمہاراں کی تاریخیں تو سراسر آیاتِ قرآنی سے مرتباً ہیں ہی مگر عام قطعات میں  
 بھی لئو کا یہ وصف نہایاں ہے۔ قطعہ میں آیاتِ قرآن کی تفصیل کر کے وہ اس میں اک عجیب  
 سرورو دیکھ اور زور دا شرپید اکڑ دیا کریتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے قرآن خظیم کی صدائ  
 آیات کو قطعات میں تفصیل کیا ہے۔ یہاں چند قطعات دو جیکے جاتے ہیں۔

ہے یہ ارشادِ خداوند ابد اس میں کچھ شک ہے نہ کچھ باعث کد  
 کہہ دو عالم سے پیاسِ اسلام "إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّا ذَلِيلٌ"

حق پر باطل کو دو نہ ترجیح دہبر کیا ہو جو خود ہے گم راہ (۱)  
 بننا چاہے جو کفر نہ ہاری کہدو دینَ اللہُ عَزَّوَجَلَّ ہدی اللہ

(۱) ع "اؤ خوشیتِ نعم است کہ ابری بری کند"

ہونہ محنت سے آدمی مالوس  
مل رہے گا کبھی تو کچھ نہ را  
ضاف قَدْن میں ہے "عَلَّ اللَّهُ" بِحَمْدِ اللَّهِ ذَا لَكَ أَسْرَاءٌ

قاروں کا ساحش ہونہ تیرامک  
ینا ہی نہیں تجھے ہے کچھ دینا بھی  
کرمال سے عقیٰ کی طلب بھی نادل "لَا تَنْسِيْ يُغْدِيْكَ مِنَ الدُّنْيَا بَھِي

قادری زنگ سخن زنگ جہاں کا بھی بھیب عقل انسان اس راہ میں حکم ہوتی ہے  
یاد نکتہ یہ رہے عیش کے متواalon کو عید کے روز حضرت کی دہم ہوتی ہے"

مسلم ہے خسم حکم خدا پر اسی کا اصل میں اسلام ہے نام  
یہی دنیا، یہی عقبی، یہی دین یہی منزل، یہی مقصد، یہی کام  
نہو وہ پیر د طاعتوت و طفیاں کر "إِنَّ الَّذِينَ عَنْدَ اللَّهِ أَلْأَقْلَمْ"

دین اسلام خدا کے نزدیک ہے پسندیدہ مکمل اعلیٰ  
تیرے غلبہ میں نہیں شک مسلم "لَا تَخْفِتْ إِنَّكَ أَنْتَ أَلَّاَ عَلَى

## منظومات و متنویات

تاریخ ادب کے مطالعہ سے اس بات کا پناہ چلتا ہے کہ نظر کی ابتدائی شریطے پر ہوئی دوسری کو اپنی زبان کی طرف راغب و متوجه کرنے کا ایک آسان طریقہ تعلیم بھی ہے مبلغیں اسلام دیگران دین نے بھی ترویج داشاعت دین کی خاطر نظر کو ہی ذریعہ اظہار

(۱) ایسا مشہور ہے کہ جس دن عید الفطر ہوتی ہے اسی دن محشر کی دن تاریخ پڑتی ہے  
(مقالہ بخار)

بنایا۔ ایک طول طویل اور فصح و بیخ عبارت وہ کام نہیں گز کتی جو نظم کا ایک سیدھا حاملہ اور حامم نہم مصروع کر جاتا ہے۔ نظم کو آج کل دو حصی میں استعمال کیا جاتا ہے پلا تو اس کا وہی قدیم مفہوم ہے یعنی اشعار کا ہر دو جمیع خواہ وہ غزل و قصیدہ ہو یا مشنوی و قسطہ مگر ایک مرکزی خیال اور تسلی رکھتا ہو۔ قصائد و مشنویات اسی فمن میں آتے ہیں۔ مگر دور جدید میں نظم ایک فہری کے موضوعی اشعار کو بھی کہا جانے لگا ہے اسی کو نظم جدید کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ایسی نظموں کے عنوانات و معرفوں کا مقرر ہوتے ہیں۔ اس میں شاعر خارجی حالات و راقعات کو بھی فطری و ذاتی انداز سے پیش کرنا ہے۔ اردو نظم بھی اردو غزل کی طرح شاعری میں بڑی اہمیت کی حاصل ہے جس طرح غزل میں میر و درد، آتش و غالب، مومن و فانی اور حست و حجج ممتاز شعراء ہوئے ہیں اسی طرح نظم میں نظیر اکبر آبادی، حائل و آزاد، شبیل و مسعود پیغمبر و نادر، اکبر و اقبال اور اسمیل میری و شوق قدو dai کے نام بھی نمایاں ہیں۔ ان سب شعراء کی نظیمیں جنوب الوطنی، درس عزم و عمل اور مناظر فطرت سے بھری نظر آتی ہیں۔ مولانا قادری کا رجحان بھی نظم نگاری کی لطف زیادہ تھا۔ لیکن علمی خدمات اور تعلیمی و تدریسی مشاغل و مصروفیات نے اسی جنبے کو پیچے نہ دیا۔ لیکن پھر بھی ہنگامی حالات میں کوئی فردودت پیش آجائی یا کوئی خاصی واقعہ ظہور مذکور ہو جاتا تو ان کی فطرت نظم نگاری رنگ لانے پر بغیر ہیں رہتی تھی اور ایسے مقصوں پر وہ جو کچھ بھی نظم کرتے وہ دوسروں کو مستاثر کیے بغیر نہ رہتا۔

آپ کی ابتدائی دور کی نظموں کا انداز کچھ چھپڑھاڑ کا ساہنے۔ شلائی  
لے کل خفت و اغط عجب حالت تھی حفظی۔ ب۔۔ نایاں آپ کے آئینہ رُخ سے تھی حیران  
شکستہ حال غمگین مضری پر معلوم ہوتے تھے۔ ب۔۔ نظر آتی تھی گز آسود ساری بیشی نورانی  
جو میں نے حال پوچھا کچھ نہ بولے ہو گئے نام۔ ب۔۔ چراکارے کئندھا قتل کر باز آیہ پیشیاں  
مگر جو تاڑنے والے ہیں فوراً تاریخ لتے ہیں۔ ب۔۔ کہے دیتی تھی سازا حال ان کی چین پیشیاں  
یہ میں نے عرض کی پڑھ کر مجھ پر ہو گیارہ۔ ب۔۔ چھپانہ پیٹ دائی سے نہیں ہے کیا یہ نادانی

کسی کو آپ نے بھی دیا ہے دل یہ ظاہر ہے  
کسی کے دام گیسوں پنے ہیں آپ بھی بے شک  
کہاں ہے آپ کی وہ پارسائی اور وہ تقویٰ  
عبادت بیٹھ گئی سب نقش باطل کی طرح گویا  
خطا اس میں نہیں ہے آپ کی ایسے مہربان لیکن  
مجھے تو آپ کہتے تھے مگر اپنی توابہ کیسے  
”چوکفہ از کعبہ برخیز کنجما ماند مسلمانی“  
۱۹ ستمبر ۱۹۲۸ء کو یونیٹ جاتیں کا بیج آگرہ کی انجمان ترقی اردو کا پہلا اجلاس  
منعقد ہوا۔ طلبہ داساتذہ نے مولانا کے بھی جلسے میں نظم پڑھتے کی فرمائش کی۔ مولانے  
”ترقی اردو“ کے عنوان سے ایک طویل نظم ہے میں پڑھتے جو بہت پسند کی گئی۔

### ملاحظہ ہو: ۶

پھر نغمہ سرا ہے ہزارِ اردو  
بے جان تھا جسم زارِ اردو  
پھر شاد ہوں غشم گشتارِ اردو  
مشالہ گل عذارِ اردو  
بہنے لجے جوشبارِ اردو  
کردیجئے جان ششارِ اردو  
پڑ مسدود ہے لالہ زارِ اردو  
ہے پھیسلی ہوئی کنوارِ اردو  
اجدار بزرگ دارِ اردو  
چلنے لجے کاروبارِ اردو  
لگوں کر ہوں سب کے قلب دجان ایک  
جب تک نہ ہو ملک کی زبان ایک  
پھر ایسی دیکھاؤشانِ اردو  
اڑنے لجے پھرنشانِ اردو

ہو ہند کی نگوافر نکا ہے ایسی زبانِ اردو  
 تصنیف کرو کتابیں ایسی ہر شخص ہو مدح خوانِ اردو  
 سائنس و فلسفی دلایا جک ہوں غیر جسم زبانِ اردو  
 تصنیف جو کچھ ہو نشر یا نظم ہو لائق عز و شانِ اردو  
 مضمون کا نک، شکر زبان کی محور ہوان سے خوانِ اردو  
 رکھتے ہیں یہ رائے حضرت داعی دہ نازش دود مانِ اردو  
 "جس میں نہ ہو رنگ فارسی کا  
 سمجھتے ہیں اسے زبانِ اردو"

## رُباعی کا فرق

اُردو نظم کی تاریخ کے سطاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اُردو شاعری کے ابتدائی دور میں بھی شعرا نے رُباعیاں بھی تھیں۔ اُردو کے پیدے شاعر محمد قلی قطب شاہ کے دیوان میں متعدد رُباعیاں ملتی ہیں بلکہ محمد قلی قطب شاہ کے ایک اور ہم عصر لاد جہی کے ٹھیکیات میں بھی کچھ رُباعیاں ملتی ہیں۔

رُباعی کی تاریخ نے سلسلے میں مولانا حامد حسن قادری رقم طراز ہیں:-  
 "رباعیاں بھی اور اصناف شاعری کی طرح شروع ہی سے پائی جاتی ہیں۔ مثلاً شاعر سے پیدے کے ایک شاعر میر عبد القادر حیدر آبادی کی یہ رُباعی اپنے رنگ میں خوب ہے ॥ (۱)

(۱) : مولانا قادری نے بوجہ فرودت شعری اور زبان کا فاف نظم کرنے کی خوفی سے مرتباً داغ کے مصروف کی تربیت بدی دی ہے۔ (ستقانگار)

(۲) : حامد حسن قادری، مولانا، "تاریخ د تنقید"، محلہ بالا، ص ۱۱۵

ہر چند ہمن سب سے اٹھا یا ہے ہات اس پر بھی نہ آزاد کہلئے ہیمات  
ٹام نہنے ہر ایک یہ کہتا ہو گا دکھن میں ہے قادر ابھی ورقید ہیات  
رباعی عربی لفظ درج سے مشتق ہے جس کے معنی چار کے ہیں۔ اس لیے رباعی چار  
مصوروں والی نظم کو کہتے ہیں اس کو پلے ترانہ یاد و بیتی بھی کہتے نہ ہے۔ حسہ بحر الفصاحت  
مکھتے ہیں ہے۔

”بدائع الافکار فی صنایع الا شعائر میں مولانا حسین کاشقی داعظ نے لکھا  
ہے کہ ”رباعی“ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بحر خزرج سے مخصوص ہے  
اور بحر خزرج عرب کے شعروں میں چار اجزاء پر ختم ہوئی تھی (۲) (۲)  
رباعی اپنی مستقل اور متین ہیئت ( ) کے اعتبار سے جملہ اصناف  
سخن سے مختلف ہے۔ یوں تو قصیدہ اور غزل کی طرح اس کے بھی پلے دونوں صورتیں  
ہم قافیہ ہوتے ہیں یعنی یہ کہ رباعی کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے۔ لیکن رباعی دو بیتوں یا مرد  
شعروں تک ہی محدود ہوتی ہے اور غزل کی طرح یہ بھی مردف یا سخیر مردف ہو سکتی ہے  
یعنی اس میں حرف قافیہ ہی لانا چاہیں تو وہ بھی لاسکتے ہیں اور اگر قافیہ دردیف  
دونوں کا اہتمام رکھیں تو یہ بھی ہو سکتے ہے۔

رباعی کی ہیئت قوافی کی ترتیب کے لحاظ سے بھی مخصوص ہے۔ رباعی کے پلے  
دوسرے اور چوتھے صورتیں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ابتداء فارسی شعرائے متقدمین عام  
طور پر چاروں مصوروں میں قافیہ لاتے تھے۔ چنانچہ عنصری دفتری دغیرہ کے یہاں اس  
قسم کی دو بیتیاں ملتی ہیں جو بعد میں رباعیاں کہلائیں لیکن بعد میں تیسرے صورتی سے  
قافیہ حذف کر دیا گیا اور ایسی رباعی کو ”خشی رباعی“ کہنے لگے۔ اب خشی رباعیوں  
کا رواج ہام ہے یعنی رباعی کا تیسرا صورتی بے قافیہ ہوتا ہے۔

(۲) : بحر الفصاحت (ص ۲۳، بحوالہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری)، اردو رباعی کافنی و تاریخی ارتقا  
(مضمون)، ماہنامہ ”نگار“، کراچی: ۱۹۶۴ء، (سال نامہ اصناف ادب نمبر ۱۷ ص ۲۲)

میر تقی میر اور سو دا کے یہاں بھی غزل کے علاوہ رباعیات کی بھی خاصی تعداد ہے ہر ایک نے تقریباً سو رباعیات کی ہیں۔ میر کی ایک رباعی ہے: ۷  
 ہر صبح غنوں میں شام کی ہم نے خونا پکشی مدام کی ہم نے  
 یہ ہدلت کم جس کو کہتے ہیں عمر مر کے غدن فن تمام کی ہم نے  
 سو دا کی رباعیات میں یہ رباعی بہت مشہور ہے: ۸  
 سو دا پٹے دنیا تو بھر سو کب تک آوازہ ازین کو بے آن کوکب تک  
 حاصل یہی اس سے کہ نہ دنیا ہو میں بالفرض ہوا یہ بھی تو پھر تو کب تک  
 رباعی کے اوزان بھی مخصوص اور متعین ہیں۔ رباعی ہمیشہ بحر حرج اخرب اور ازم  
 کے اوزان میں کہی جاتی ہے۔ یہ اوزان تعداد میں چوبیس ہیں جن میں بارہ اخرب  
 کے اور بارہ اخرم کے۔ یہ خاصیت بھی صرف رباعی میں ہے کہ اس کا ہر صدرع ان  
 چوبیس اوزان کے کسی ذریں میں ہو سکتا ہے۔  
 اخرب کے تمام اوزان در مفعول، مفقول، مفائل  
 مفایل، مفعول۔

اخرم کے تمام اوزان در مفعول، مفقول، مفائل  
 مفایل، مفعول۔

ان چوبیس اوزان کے باہم اشتراک سے بقول صاحب «بحر الفصاحت»  
 کم از کم بیاسی ہزار نو سو چواں (۱۹۲۳) صورتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح اندھے  
 ترتیب کے رد و بدل سے متفرق مصاریح ترتیب دیئے جاسکتے ہیں۔ رباعی کے اوزان و  
 تقسیم کی سہوتوں کے لیے یہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ رباعی کے صدرع کا پلا اور آخری رکن  
 ذہن میں رہے اور بقیرہ دور کن اور لگا کر تقسیم کر لی جاتے۔ مثلاً یہ کہ رباعی کے ہر صدرع کا پلا  
 رکن مفعول یا مفقول اور آخری رکن فعل فاعل یا قع ہو گا درمیان میں آنے والے ارکان مفائل  
 مفایل، مفایل، مفعول یا مفقول میں سے کوئی سے دو ہوں کے اور اس طرح چوبیس اوزان  
 تشکیل دیئے جاسکیں گے۔

رباعی ایک مختصر صفت سخن ہے جس کے ذریعہ ایک مخصوص وزن کے چار مھروں کے کوئی مستقل و مخصوص مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ رباعی میں تسلیم بیان اور خیال کے تدیرجی ارتقا کے لیے فروری ہے کہ اس کے چاروں مھرے زنجیر کی کڑیوں کی طرح باہم مربوط ہوں الفاظ و تراکیب کا انتخاب موضوع و مضمون کی مطابقت سے ایسا برعکس ہو کہ اس سے بہتر قیاس میں نہ آسکے۔ پسے مھرے میں مناسب الفاظ کے ساتھ خیال کو رذناک کرایا جائے، دوسرے اور تیسرے مھرے میں اس کے خدوخال کچھ اور غایاں کیے جائیں۔ چوتھے مھرے میں مکمل خیال کو ایسی رجستگی، شدت اور قوت کے ساتھ پیش کیا جائے کہ سخنے والا مسحود متین ہو جائے۔

رباعی کے چوتھے مھرے میں شاعر اپنے وجد ان تخيیل کی مدد سے اظہار خیال کرتے ہوئے کوئی نجتی یا فلسفہ کی بات کہتا ہے کبھی کبھی تلمیحات و استعارات اور شاعرانہ تعییل یا فطرت کی ترجمان کے ذریعہ بھی کلام کو دلکش بناتا ہے۔ اگر اس انداز ہو تو قوانی کی رجستگی اور بندش کی چستی سے بھی دل چپی کو بڑھادیا کرتا ہے۔ غرض یہ کہ شاعر کوئی نہ کوئی چونکا دینے والا طرز دا سلوب فرور اختیار کرنے ہے۔ رباعی کے چوتھے مھرے کی افادیت دا ہمیت اور اس کی مجموعی کیفیات و تاثرات کے سلسلے میں مولانا وجید الدین سلیم تحریر کرنے ہیں کہ:-

”چار مھروں میں کوئی مضمون اس انداز سے بیان کرنے کے سامنے پر اس کا اثر ہو، ایک ہزار ہے۔ اس میں کوئی مھرے بے کار اور برائے بیت نہ ہونا چاہیے اور چوتھا مھرے خاص کر پلے والے مھروں سے زیادہ شاندار اور اہم ہو کیونکہ اس مھرے پر شاعر کے خیال کی تان ٹوٹتی ہے یہ مھرے ایسا ہونا چاہئے کہ سخنے والے کے دماغ میں اس کی گوئی بخوبی دیر تک باقی رہے۔<sup>(۱)</sup>

(۱) وجید الدین سلیم، ”افادیت سلیم“، ص ۹۲ مطبع کامام درج نہیں کیا گی۔

مولانا حامد حسن قادری بھی رباعی میں پورتھے صحرے کو بہت اہم بتاتے ہیں۔ اور اپنی ایک تغیری رباعی میں اس کی اہمیت و عظمت اور برتری کا اعتراف اس طرح کیا ہے:

دنیا میں رسولؐ اور بھی لا کہ سبھی      بُ زیبا ہے مگر خضور صلیم کو تماجِ شہی  
ہے خاتمہ محسن عن اصران پر      بُ ہیں صحرے آخر اس رباعی کا وہی  
چونکہ رباعی بہ لحاظِ ہمیٹ ایک مختصری صنفِ سخن ہے اس لیے ایجاد و اختصار اور  
فصاحت و بلاغت اس کی شرطِ اول ہے اس لیے جب تک موضوع کی مناسبت  
سے فکر انگریز اسلوب اور الفاظ و تراکیب سے کام نہ لیا جائے گا میا ب رباعی کا وجود  
میں آنا حتمکن نہیں۔

حال و اکبر در ایسے عظیم ادبی و قومی رہبر و مصلح تھے جنھوں نے رباعی کی صنف  
کو خصوصیت سے اصلاحی اور تعمیری کاموں کے لیے پسند کیا اکبر و حالی کی رباعیا۔ کام  
مطالعہ ہمیں ۱۸۵۶ء کی جنگ آزادی سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ اگر کوئی سورجِ صفر  
ہندوستان کے اس دور پر آشوب کی خون چکان داستان کی سماجی و معاشرتی تہذیبی  
تمدن اور بذہبی تاریخ کو ترتیب دے تو اس کو حالی اور اکبر کی رباعیات سے ٹڑی  
مدمل سکتی ہے۔ یہ رباعیات اس دور کی پیداوار ہیں جب مغربی تہذیب و تمدن  
مشرقی روایات سے بر سر پیکار تھا۔ انگریزی تہذیب و تمدن اور تعلیم و تربیت سے  
مسلمانوں کو مذہب سے بیگانہ کر دیا تھا۔ مذہب سے دوری، قسم میں سستی و کامی، آباد  
اجداد کی روایات سے انحراف اور اسلام کے کارناموں سے روگوانی یہ سب اس دور  
کے مفہراشتات تھے جو قوم کے اذہان پر پوری طرح سلطنت کر دیے گئے تھے۔ حال و اکبر  
دونوں نے شیخ سعدی کی طرح اخلاقیات اور پسند و نصائح کو رباعی کا موضوع بنایا اور یہ  
ان دونوں حضرات کے خلوصی بی کا نتیجہ تھا کہ ان کے واغظانہ و ناصحانہ اور مصلحتی  
لہجہ کے باوجود مبھی ان کی رباعیات لطف دائر اور جذب و کشش کی حامل ہیں۔

ایک طرف اگر مولانا حالی نے ملت اسلامیہ کو اس کے عروج و زوال کی داستان

سنگر حقائیق زندگی کو سمجھنے کی طرف توجہ دلانی اور بہت سے اخلاقی پہلوؤں، اصلاحی نکتوں اور تعمیری منصوبوں سے روشناس کرایا تو دوسری طرف اکبر نے بھی اپنے مخصوصیں طنز یہ نشتروں سے قوم کی رُگوں سے خون فاسد نکال کر اسے صحت پختنی چاہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے قہقہوں میں بھی اک گریان کنان قوم ہی سیکیاں اور کراہیں موجود ہیں۔ بہر کیف اس طرح حالی و اکبر نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اخلاقی و اصلاحی اور سیاسی و مذہبی ردایات سے خوب کام لیا۔

مولانا قادری بھی ایک خدا ترسن اور صاحب عرفان بزرگ تھے۔ ان کے بہت سے اشعار اور خصوصیت سے مادہ ہائے تواریخ و میراث کسی آیت قرآنی یا حدیث بنوی صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعیات کو مزین کرتے ہیں۔

انھوں نے تقریباً چار سورہ رباعیاں اُن سو (۱۰۰) رباعیات کے علاوہ کہی، جیسے بزرگ سلطان ابوسعید ابوالخیر کی فارسی رباعیات کا اردو ترجمہ ہیں۔ لیکن یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ مولانا ایک رباعی نگار کی حیثیت سے وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو خواجہ الطاف حسین حاکی، اکبر اللہ آبادی یا سید احمد حسین احمد حیدر آبادی کو حاصل ہوا جس طرح اردو شعراء نے فارسی کے شعراء عصر خیام، یا، حضرت سر مردم کی رباعیات کا ترجمہ کیا ہے اور ان کو "خانہ مخیام" یا "جامِ سر مردم" کے ناموں سے شائع کیا ہے اسی طرح مولانا قادری نے بھی بذریعہ مر رباعیات، کے عنوان سے فارسی کے مشہور صوفی شاعر سلطان ابوسعید ابوالخیر کی سو (۱۰۰) منتصو فرانہ اور عارفان رباعیات کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔

حضرت سر مردم اور عصر خیام کے سلسلے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے یہاں اتنی غنائیت و نفعی اور فلسفہ و تصوف ہے کہ مترجم ماہر دفن کار ہو اور کوشش کرے تو ان کی دلکشی و دل آدیزی کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ مگر سلطان ابوسعید ابوالخیر کی فارسی رباعیات میں عصر خیام کی سی غنائیت اور سر مردم کی سی سرشاری و مرستی تو نہیں البتہ پند و نصائح اور عرفان دلکھوت جا سجا ملتا ہے لہذا ان میں وہی حُسن و دلکشی اور سلامت و

رداںی برقرار رکھنا بڑے کمال کی بات ہے۔

مولانا قادری اگرچہ دنیا کے ادب میں بحیثیت محقق و ناقد اور مُورخ ادب ایک اعلیٰ و اُدنیٰ حیثیت کے مالک ہیں مگر شعر گوئی و زندگوی میں بھی عکس بکھرتے ہیں۔

وہ اپنی صوفی فلسفی، غزلت گزینی اور گوشہ نشینی کے سبب نام و نمود اور سنتی شہرت کے دور میں معروف نہ ہو سکے درستہ ان کی بہتی شعر و ادب کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تقدیر و نظر اور تحقیق و تتفقید کے میدان کے علاوہ فن تاریخ گوئی میں بھی ان کا کوئی خلاف نہیں اور وہ اپنے اس دور کے مانے ہوئے تاریخ گو ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک شاعر کی حیثیت سے ان کا جو کلام رسائل و جواب اپنی زندگی بنادھن و دلکشی اور نزاکت و لطافت کے پہلوؤں سے خالی ہے۔ اس لیے مولانا قادری شاعری کے میدان میں اپنا سکانہ جھاسکے۔ البتہ مولانا کی رباعیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ رباعیاں انسانی زندگی کے حقائق کی عکاسی اور ہماری زندگی کے شبد و مردوز کے کسی نہ کسی پہلو کو پیش کرتی ہیں۔ آج کل کی اس ماڑہ پرست دُنیا میں جہاں مذہب و روحانیت ہر قسم کی پیکر بن کر رہ گئے ہیں مولانا قادری نے بڑا کام یہ کیا ہے کہ ان کی رباعیاں حکماں و فلسفیاں و نظریات اور متصوفانہ و حارفانہ خیالات سے مُترین ہیں۔ مولانا نے مختلف موضوعات پر سینکڑوں طبع زاد رباعیاں کہی ہیں۔ لیکن ان کی وہ رباعیاں خاص طور پر شہر و مقیبلہ میں جوانہوں نے سلطان ابوسعید ابوالخیر کی فارسی رباعیاں سے ترجیح کیں ان کی یہ رباعیاں، عالم گیر، ریاض، نہاد، نقاد، الناظر، اور دیگر کئی رسائل میں شائع ہو چکی ہیں۔

مولانا قادری نے ان سب کو یکجا کر کے «نہاد اور رباعیاں» کے نام سے ترتیب دیا ہے۔ سلطان ابوسعید ابوالخیر صاحب عرفان اور صوفی مش بش زرگ تھے۔ فارسی میں سب سے پہلے آپ ہی نے حقیقت و معرفت اور عرفان و تصنوف کو رباعیاں میں پیش کر کے ماڈہ پرست لوگوں کی رہنمائی کی۔

## منظوم ترجم ریباعیات مولانا ابوسعید ابوالخیر

مولانا قادری نے سلطان ابوسعید ابوالخیر کی ان رباعیات کے ترجمے میں اکثر جگہ حسن و دلکشی، لطافت و نزاکت، سلاست دروانی کو حتی الامکان برقرار رکھا ہے اور اپنی ان خوبیوں کی بدولت مولانا قادری کو ایک اچھا رباعی گو شاعر تسلیم کیا جا سکتا ہے لیکن ان رباعیات میں وہ پھیل کاپن نہیں جو اکثر ترجمے میں ہوتا ہے۔ مولانا قادری فن شعر سے پوری طرح یا خبر ہونے کے علاوہ فن عرض اور علم بیان پر بھی پورا پورا عبور رکھتے تھے اس لیے ان کے کلام میں فتنی اغلاط نہ ہونے کے برابر ہیں۔ زیل میں سلطان ابوسعید ابوالخیر کی فارسی رباعیات اور مولانا قادری کی ترجمہ کی ہوئی چند اور دو رباعیات پیش کی جاتی ہیں۔

ٹاکٹہ فرمائیے: نہ

**فارسی (سلطان ابوسعید ابوالخیر)      اردو (مولانا حامد حسن قادری)**

باز آ، باز آ، ہر آن چہستی باز آ	باز آ، باز آ، جو کچھ ہے، باز آ
گ کافر و گیر و بُت پرستی باز آ	گ کافر و گیر و بُت پرستی باز آ
این درگہ مادر گر نومید نیست	نومید نہ ہو ہماری درگاہ سے تو
صد بار اگر توبہ شکستی باز آ	سو بار بھی توڑ دی جو تو با باز آ (۱)
آن را کہ فنا شیوه و فقر آئیں است	کر لیتا ہے سائک جو رہ قفر کو طے
نکشف ولیقین نہ معرفت نہ دین است	پھر کشف ولیقین دین نہیں کوئی شے
رفت او ز میان سہیں خدا را مذکور خدا	مٹ جائے خودی، خدا رجھرف خدا

(۱) حامد حسن قادری، مولانا، مترجم، خزانہ رباعیات، ابوسعید ابوالخیر، مولانا، ارڈ فہرست  
محولہ بالا۔ ص ۶۱۔

”الفقر اذا تم ہو اللہ“ این است ”الفقر اذا تم ہو اللہ“ یہ ہے

زان غئے خور دم کہ روح پیمانہ دست روح اس کی شراب عسم کا پیمانہ ہے  
 زان مست شدم کہ عقل دلوانہ دست عقل اسکے جنوں میں مست درلوانہ ہے  
 دودے بین آمد، آتشے با من زد اس شمع کی لو سے دل میں ہے الگی  
 زان شمع کر آفتاب پروانہ دست جس شمع کا آفتاب پروانہ ہے

منصور، حلّاج آن نہنگ دریا۔ منصور سابن رَاهِ رُو، رَاهِ نَهْدا  
 کر پتہ تون داتہ جان کرد جدا۔ کر پتہ تون داتہ جان کرد جدا  
 رونے کے آنا الحق بزبان می آورد۔ بکلا تھا زبان سے آنا الحق بس دم  
 منصور کجا بُود؟ خدا بُود خشد! منصور کجا بُود؟ خدا بُود خشد!

اے در دل من اصل تمنا ہم تو دل میں مرے اے جان مقاٹو ہے  
 وے در سر من مایہ سودا ہم تو سر میں مرے سرایہ سودا تو ہے  
 ہر چند بر ذکار در می بحکم کرتا ہوں جو خور سے زملے پر نظر  
 دی تو، امر و ز تو ہے، فرد اتو ہے<sup>(۱)</sup> امر و ز ہبہ توئی و فنددا ہم تو

## مولانا کی متصوفات و عارفانہ ریاضیات

مولانا کی ان ترجیہ شدہ ریاضیات میں جو حسن دو لکھی ہے۔ اس کا پرتوان کی اپنی طبع نامہ

(۱) حامد حسن قاری، مولانا، مترجم، خزانہ ریاضیات، ابو سعید ابوالخیر، اور دنیا مرحومہ بالائش ۱۹۔ ص ۳۔

رباعیات میں جی موجود ہے۔ اگرچہ انہوں نے کسی خاص موضوع کو مد نظر رکھ کر رباعیات نہیں کیا، تاہم ان کی بیشتر رباعیات میں متصوفانہ و عارفانہ زنگ اور درس اخلاق و انسانیت نایا ہے۔ دوسرے حام شاعروں کی طرح انہوں نے صرف قافیہ پڑھائی نہیں کی۔ بلکہ ان کا مقصد لوگوں کو پیغام خلوص و محبت اور رُحوتِ فکر و عمل دینا ہے اور جو کچھ خود دیکھا دیجھا ہے اس کو درکھانا اور سمجھانا ہے جس سے ان کی بے غرضی و بے کوتی اور انسان دوستی و ہمدردی کا ثبوت ملتا ہے۔

غزل گوئی میں اگرچہ ان کا کوئی خاص ستامنہ نہیں ہے مگر رباعیات کے سلسلے میں کہا جاسکتا ہے کہ ان میں وہ عام محسن شعری اور لطف زبان و بیان موجود ہے جس کی توقع اپک اچھے رباعی گو شاعر سے کل جاسکتی ہے۔

**Marfat.com**

## باب ہفتم

# مولانا قادری کی تاریخ گوئی فن تاریخ گوئی

فن تاریخ گوئی اہل علم و ادب میں بڑا معروف و مقبول اور نادر فن ہے۔ مسلمانوں سے قبل اہل یونان میں بھی یہ فن پایا جاتا تھا مگر اس کی صورت دوسرا ہتھی۔ جس طرح ہمارے ہاں "ابجد" کے لحاظ سے حروف کے لئے اعداد مقرر ہیں اسی طرح اہل یونان میں بھی اعداد مقرر تھے مگر وہ اس سے عموماً اختیار لغت (Code Words) یا مخفف حروف (Abbreviations) کا کام لیا کرتے تھے۔ مگر ہمارے اس سے بڑے بڑے اہم کارناموں کے رو نہا ہونے، واقعات کے واقع ہونے اور ولادت و وفات کے ایام و تواریخ کو یاد رکھنے کا کام لیا جاتا ہے۔

تاریخ ہمیں زندگی کے آغاز و ارتقاء، اس کے شعور و وجہ ان کی منازل، اس کی تہذیب و تمدن کی رفتاروں، اس کے احسانات و رحمانات کی بدلتی ہوئی کیفیتوں اور اس کی علمی و ادبی و سمعتوں سے آگاہ کرنی ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی تاریخ کرکٹی میں تاریخ نے، ہی ان کو جنم دیا ہے اور تاریخ نے ہی ان کو سنوارا و ابھارا ہے۔

فن تاریخ گوئی ایک دوست طلب کام ہے اس کے لئے نہ صرف زبان و ادب اور شعروں میں ہمارت رکھنا ضروری ہے بلکہ ایک تاریخ گو کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایک ماہر ریاضتی دان بھی ہو اور آسانی سے جمع و تفریق اور نظر خوبی و

تعمیر سے کام لے سکے۔ مزید بڑاں ماہرین فن نے اس میں بھی بڑی بڑی جگتوں اور نذرتوں سے کام لے کر برشے برشے دشوار التراجمات قائم کیئے ہیں۔

اکثر ہر حرف کے مفہومی نام کے عدد شمار کر کے مادہ تابیر نے مکمل کرتے ہیں۔ مثلاً فقط «عادل» کے اعداد بحسب ابجد رہ قاعدة حمل یا ثہرما یہ میں:

ع، ۲۰۰، الف، ۱، د، ۳۰، ل، ۱۰۵ + ۳۰

لیکن حروف «عادل» سے وہ اعداد جو باطنی طور پر اخذ ہوں گے وہ اس طرح شمار ہوں گے:

عین، ۳۰۰، الف، ۱۸، دال، ۳۵، لام، ۱۷ + ۳۱

یہ قاعدة استخراج نہایت مشکل ہے اور محنت شاہقة وقت کثیر کا طالب ہے۔ بھی سبب ہے کہ آج کل کے اس شیئی دور میں اس طرف توجہ نہیں دی جاتی مگر اب بھی چند شائقین اس طرف مائل ہیں۔ زمانہ قدیم سے ہب تک مسلمانوں نے اس فن کو بڑی کوششوں اور محنت سے قائم رکھا ہے۔

اسی طرح حضرت امیر خروہ نے اپنے نام کے سلسلے میں کہا ہے:-

مرا نام یارے سست "خواجہ عظیم" دو شین دو لام دو قاف دو جمیں  
برآمدی اگر حرف زین حرو، ۰، ما بدانم کر ہستی تو سرد فہیم

اس میں حرف شین کے عدد بحسب ابجد ۳۰ میں۔ اس طرح دو حرف شین کے اعداد کا مجموعہ ۶۰۔ دو لام کے عدد کا مجموعہ ۴۰، دو قاف کے اعداد کا مجموعہ ۲۰۔ اور دو جمیں کے اعداد کا مجموعہ ۶ ہو گا۔ یعنی حروف دو اعداد کی ترتیب دیکھو ہو گا۔

"ش ش = ۳۰ + ۳۰، ل ل = ۰۳۰ + ۰۳۰، ق ق = ۱۰۰ + ۱۰۰"

حج، ۳۰ + ۳۰، ۸۹۶

مندرجہ بالا اعداد کا مجموعہ ۸۹۶ ہے اور ابجد کے حساب سے بھی اعداد خروہ کے میں:

"خ، ۴۰۰، س، ۰۹۰، د، ۰۲۰، و، ۰۰۹، ۶۰ + ۶۰، ۸۹۶"

لہذا "خرد"، "بادشاہ" اور "خواجہ عظیم" یہ تینوں الفاظ ہم معنی ہیں۔

## تاریخ کیا ہے؟

زندگی کے دہ تھام واقعات و حادثات جزو زمان و مکان کی آنکھوں میں جنم لیتے ہیں ان واقعات کو اور ان کے اوقات کو یاد رکھنا تاریخ کہلاتا ہے۔ تاریخ ہمارے ماضی کی عکاسی کرتی ہے ہم مااضی سے روشنی لے کر اپنے حال کو سنوارتے اور مستقبل کے لئے اسی روشنی کی مدد سے کوئی واضح لائحہ عمل مرتب کرتے ہیں۔ تاریخ ہمارا قومی ورثہ ہماری اقدارِ حیات کا حسنہ زانہ، ہماری خوشیوں کا نغمہ اور ہمارے غم کا مرثیہ ہے۔ تاریخ ایک ایسا دریچہ ہے جس میں سے ہم اپنے مااضی کی جھلک سنجوں دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ کے کمینے میں ہمیں اپنے اسلاف اور آباؤ اجداد کے خدوخال سنجوں نظر آ سکتے ہیں۔ تاریخ ہماری تہذیب و تکملہ اور معاشرت و ثقافت کی آئینہ دار ہے اسی سے قوموں کے عروج و نزول اور انحطاط و کمال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

تاریخ کے لغوی معنی واقعات اور حادثات کا عالم ہے۔ یہی واقعات و حادثات زمانہ، عرصہ اور وقت ظاہر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ساحر سہوانی لکھتے ہیں، "تاریخ کے لغوی معنی کسی چیز کا وقت پیدا کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں تعین کرنا ہے۔ ابتداء سے کسی امر عظیم کا ازال سے ابتداء کر فتن تاریخ گوئی کی اصطلاح میں تاریخ اس فتن کو کہتے ہیں کہ کوئی لفظ یا جملہ پڑا گندہ خواہ پیوستہ ہو یا کوئی مصروعہ مناسب و یا معنی ہو اس کو "مادة" کہتے ہیں۔" (۱)

(۱) ساحر سہوانی، "طبعہ تاریخ"، ص ۷ بحوالہ "دفتر تاریخ"، از موالا حامد حسن قادری، (محفوظہ)، مملوکہ ڈاکٹر خالد حسین قادری، (پروفیسر اردو لندن یونیورسٹی، برطانیہ)۔

## قواعد تاریخ گوئی

مورخین ادب کے نزدیک تاریخ الی لفظی صنعت ہے جس میں کوئی حدیث آیت، مصروعہ یا شعر کسی بات واقعہ کے حدود پر بحابِ جمل قرار پائی جائے یعنی اس کے الفاظ کے اعداد کے مجموعے سے بحاب "ابجد" اس واقعے یا حادثے کا سن معلوم ہو سکے۔ عام طور سے ماہرین فن تاریخ گوئی نے بحابِ جمل یا زبرہ تاریخ کی میں مگر بعض ماہرین نے دشوار التراجمات کر کے بھی تاریخیں کہی ہیں۔

### ۱۔ قاعدہ زبرہ

اس کو بحابِ جمل یا قاعدہ زبرہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں تاریخ بحابِ حروفِ ابجد نکالی جاتی ہے۔ حروفِ ابجد کا نامہ ہے۔ ابجد کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ: "آباجاؤ" ایک بادشاہ کا نام تھا جس کا مخفف "ابجد" ہے اور باقی ساتوں کلمے اس کے بیٹوں کے نام ہیں۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ مرزا نامی ایک شخص تھا جس نے خط لکھنا ایجاد کیا اور یہ آنھوں کلمے اس کے بیٹوں کے نام ہیں۔ بعض کے نزدیک "ابجد" اور اس علیہ السلام کی ایجاد ہے۔

### حروفِ ابجد اور ان کے اعداد

الفاظ	ابجد	ہموز	معنی	مکمل	ہموز	شخص
حروف	ا ب ج د ه و ز ح ط م ب ک ل س ن ف ص	۹۰ ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۹۰ ۸۰ ۷۰				
اعداد	۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰					

الفاظ	قطع						
حروف	ق	ر	غ	ث	خ	ض	ذ
اعداد	۱۰۰	۹۰۰	۸۰۰	۷۰۰	۶۰۰	۵۰۰	۴۰۰

## ابجد کی اقسام

(۱) ابجد آدم، (۲) ابجد نوحی، (۳) ابجد تَرْفَع وَتَنْزُل، (۴) ابجد سَبْعَه،  
 (۵) ابجد عناصر، (۶) ابجد طبیعی، (۷) ابجد ابدان۔

### ۱- ابجد آدم:

یہ سب سے قدیم اور پرانی ابجد کے سات الفاظ ہیں جن کو بعض محققین نے  
 ابجد آدم کہا ہے۔ الفاظ یہ ہیں:

ابتث، بحمد، ذر زس، شصفط، لمعفت، فکلم، نوبی "جمل مروجہ ہیں  
 ان الفاظ کو کوئی دخل نہیں ہے عام طور پر تاریخیں ان سے نہیں سکھائی جاتیں۔

### ۲- ابجد نوحی:

یہ موجودہ ابجد ہے۔ اس کے اول چھے الفاظ سریانی زبان کے اور آخری دو  
 الفاظ عربی زبان کے ہیں۔

## كلماتِ ابجد

كلمات	أبجد	هز	محظى	بلمن	سقفص	قرشت	شخذ	ضفنج
منی	مشروع کیا	بحداریا	داقف ہوا	سخن گو ہوا	جلد لکھے یا	ترتیب ری	دل میں لے یا	تمام کیا

ابجد کی بقیہ قسمیں ابجد نوحی سے ہی بھلی ہیں جو حسب ذیل ہیں :

### ۴۔ ابجد ترقع و تنزل

"ابجد ترقع : اليقح، بکر، جلش، دمت، بہت، وسخ، زعف، حض، طصظ۔"  
"ابجد تنزل : غقیا، ركب، شلچ، تمد، شنہ، خسو، زغز، صفح، فلصط۔"

### ۵۔ ابجد سبعہ :

ابجد، ہوزح، طیکل، نسخ، فصقر، شنشخ، ذضطخ۔

### ۶۔ ابجد عناصر :

ابجد، ہوزح، طیکل، نسخ، فصقر، شنشخ، ذضطخ،

### ۷۔ ابجد طبیعی :

اہطم، فشد، جزکس، قشظ، دحلع، رخغ، بوین، صتفض،

### ۸۔ ابجد ابدان :

ابجد، ہوزح، طیکل، نسخ، فصقر، شنشخ، ذضطخ،

## قاعدہ زبر و بنتیات

ابجد کا دوسرا قاعدہ، قاعدہ زبر و بنتیات کہلاتا ہے۔ یہ قاعدہ نہایت دشوار و دقت طلب ہے۔ اس حساب سے تاریخیں صرف ماہرین و اسناد فن ہی نکالا کرتے ہیں۔ عزیزیہ لکھنؤی وغیرہ بعض شعراء نے اس قاعدہ سے تاریخیں نکالی ہیں۔ اس میں حروف کے اسمائے ملفوظی کے اعداد شمار کئے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر

اس میں لفظ "علم" کے اعداد اس طرح شمار ہوں گے:

ح۔ی۔ن + عین ل۔ا۔م + لام م۔ی۔م + میم، علم  
۲۹۱ ۱۳۰ + ۵۰ - ۱۰ - ۳۰ ۷۱ + ۳۰ - ۱۰ - ۳۰ ۴۰ + م + م

دشوار وقت طلب ہونے کی وجہ سے یہ قاعدہ مُرقد ج نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس قاعدہ سے صرف چند اسامیہ نے تاریخیں نکالی ہیں۔

## اقام تاریخ

(۱) تاریخ صوری، (۲) تاریخ معنوی، (۳) صوری و معنوی یا تاریخ جامع۔

### ۱- تاریخ صوری

صوری عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی غوب بصورت یعنی ظاہر کے ہیں ایسی تاریخ میں اعداد کا شمار کیے بغیر کسی حادثے یا واقعہ کی تاریخ صاف صاف الفاظ میں بیان کر دی جاتی ہے۔ مثلاً:

تیرہ سو <sup>(۱۴۰)</sup> اسی تھا سن، بھری صبا	جب ہوئے انور علی ہم سے جدا
عیسوی تاریخ صوری اس کی کہہ	ساتھ کو انسیں سو پر تو بڑھا را
۱۴۰۰ = ۱۹۶۰ ع ۱۳۸۰	

اس صوری تاریخ میں الفاظ کے ذریعہ ۱۳۸۰ھ اور ۱۹۶۰ع مادہ ہائے تاریخ برآمد ہوتے ہیں:

### ۲- تاریخ معنوی

اصطلاح اہل فن میں تاریخ معنوی وہ ہے جس کی وجہ سے تاریخ کے اعداد جمل کے مجموعے سے سنبھالنے مطلوبہ حاصل ہو۔ تاریخ کی یہ شکل عام طور پر مروج ہے اور

(۱) صبا مختاری "تاریخ فن تاریخ" مطبوعہ مکتبۃ اردو شاہزادہ ص ۱۸۔

اگر تاریخیں اسی قسم میں کہی جاتی ہیں۔ مثلاً فکریل بدایوفی نے جب مولانا قادری کو اپنا  
مجموعہ کلام پیش کیا تو مولانا نے یہ تاریخ کی معنوی نکالی:

ان کے مجموعے میں جو کچھ ہے وہی تاریخ ہے  
"فکر کی آرائشیں سُل، شعر کی رعنائیاں"

۱۹۳۳ء

### تاریخ صوری و معنوی

تاریخ کی تیری قسم صوری و معنوی دونوں سے بل کر بنتی ہے۔ اس کو "تاریخ  
جامع" بھی کہتے ہیں۔ اس میں الفاظ سے تو سترہ و سال ظاہر ہوتا ہی ہے لیکن  
حروف کے اعداد کے مجموعے سے بھی وہی سترہ نکلتا ہے جو شاعر الفاظ سے ظاہر  
کرتا ہے۔ مثلاً مولانا محمد حسن علی شاہ کی تاریخ وفات ظاہر ناسیطی نے یوں نکالی  
ہے:

چوں عاشق ذاتِ قلْ ہو اللہ واحدٌ شد و اصلِ رَبِّ الْمَلَکِ وَ الْمُلْکُ یُؤْلَدُ  
ایں صوری و معنویت تاریخ وصال

بِسْمِ اللہِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیْمِ

۱۲۸۳ھ

### اقامت تاریخ باعتبار لفظ

(۱) تاریخ مُفرد ، (۲) تاریخ مرکب

#### ۱- تاریخ مُفرد

وہ ہے جو کسی ایک حرفا کے عددِ جمل سے حاصل ہو۔ جیسا کہ ناسخ لکھنؤی  
نے ایک حکیم صاحب پر تین مرتبہ شاہی عتاب نازل ہونے اور تینوں مرتبہ نصف  
نصف تنخواہ کم ہو جانے کی تاریخ میں کہی ہے:

از حاءے حکیم ہشت پر گیر  
سر مرتبہ نصف نصف کم کن

"ح" کے اعداد سب سب چھل ۸ ہیں اس کے نصف ۴ ہوئے پھر اس کا  
نصف کیجیئے تو ۲ ہوئے اور اس کا بھی نصف کیجیئے تو ایک باقی رہا۔ ان  
چاروں کو ایک ہی سطر میں بھجا لکھیئے تو مادہ تاریخ یہ نکلے گا :- ۱۰۴ - ۳۰۸ = ۱۲۳۸

## ۲۔ تاریخ مرکب

ایسی تاریخ جو ایک یا کئی لفظوں سے مرکب ہو۔ مثلاً علامہ اقبال کی تاریخ وفات  
جو تین الفاظ سے مرکب ہے۔ سیماں اکبر آبادی نے یوں نکالی ہے:  
"شاعر مشرق گذشت"  
۶۔ ۱۹۳۸

### اقامت تاریخ بہ لحاظ اظہارِ کلام:

(۱) تاریخ منتشر، (۲) تاریخ منظوم

### ۱۔ تاریخ منتشر:

وہ تاریخ جو ایک یا اس سے زیادہ چھلوں یا فقرتوں کی عبارت سے حاصل کی  
گئی ہو۔ جیسے "تاریخ طباعت دیوانِ کلام بدیع"

۶۔ ۱۹۳۶

### ۲۔ تاریخ منظوم:

وہ تاریخ جو ایک مصروع یا جزو مصروع یا شعرِ سالم سے اخذ کی گئی ہو۔ سالم صروع  
کی مثال: (تاریخ وفات سیماں اکبر آبادی از مولانا حامد حسن قادری)

قادری لکھنڈہ یہ تاریخ وفات

"نہ ہا شاعر اعظم سیماں"

۶۔ ۱۹۵۱

جُنڈ مصروع کی مثال ہے (تاریخ وفات شہنشاہ جہانگیر از کشفی)  
 پھر تاریخ و فاتحہ جست کشفی  
خود گفتا۔ جہان گیر ان جہاں رفت۔

۱۰۳۶

## اردو کے تاریخ کو شعراء

فن تاریخ کے اس مختصر سے جائزے کے بعد اگر ہم اردو شاعری میں اس کی ابتداء دار تقاضہ کا اندازہ لگانا چاہیں تو معلوم ہو گا کہ ہمارے بہت کم اساتذہ اس طرف متوجہ ہوئے۔ اردو کے صرف چند شعراء کے نیام یہ رجحان مٹا ہے۔ جن میں حکیم مومن خان موقن ہرزا دائع، نواب مصطفیٰ خان شیفۃ، ناسخ لکھنؤی، احسن مادر ہووی اور سیاہ اکابری دیگرہ کے نام خصوصیت نے قابل فہم کر ہیں۔ چند مثالیں مرزا غالب کے ہاں بھی ملتی ہیں اور آج بھی بعض شعراء کے نیام دو ایک اس قسم کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ لیکن مولانا قادری کو اس فن سے بڑا شغف تھا۔ اور اس پر انہیں بڑا مجبور بھی حاصل تھا تقریباً چار ہزار تاریخیں ان سے یاد گاریں اور اس میں سب سے زیادہ کمال کی جوبات ہے وہ یہ کہ انہوں نے قرآن مجید سے اس قدر تاریخیں نکالی ہیں کہ اتنی تاریخیں کسی دوسرے تاریخ گو سے منقول نہیں ہیں۔

ان کی تاریخ گوئی میں دو خاص باتیں ہیں جو دوسروں کے ہاں کم دیکھی گئی ہیں اول تو یہ کہ انہوں نے آیاتہ قرآن مجید سے کئی سو سے کئی سو سے زیادہ تاریخیں نکالی ہیں۔ ان تاریخیں میں اکثر تاریخیں وفات کی ہیں لیکن دوسرے واقعات کی تاریخیں بھی ہیں مثلاً جنگ و فاد، صحت و مرض، تقریبی و تنزلی، عقد و عقیقہ، شادی و مرگ، تقسیم و تنظیم مسجد و مقبرہ جن سے ستر ہیبومی یا ستر ہجری نکلتے ہیں۔

تاریخ گوئی میں مولانا کی ایک ادرا خصوصیت یہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے صرف مشہور

معروف ہستیوں یا اعزہ و اقارب کے انتقال می کی تاریخیں نہیں کہیں بلکہ ملکی وغیرملکی احوال و کوائف اور عامد دلچسپ باقی کو بھی مذہب نظر رکھا۔ مثلاً:

”شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم کا عشق“ شادی کے لئے کوشش

ترک شاہی، آغاز جنگ، اختتام جنگ، مصر کا انقلاب، آگرہ کا سیلا۔ ایران کا تسلیل، افریقیہ کے مظاہر سے، پرمٹ کا اجڑا، خاندانوں کی تفریق کا نفرنسوں کے معابر سے، صلح و جنگ اور بست سی عام روزمرہ کی معمولی باقی کی بھی انسوں نے نہایت دلچسپ و نادر تاریخیں نکالی ہیں؟ اپنی تاریخ گوئی کے سلسلے میں وہ خود ایک جگہ بکھتے ہیں:-

”معمولی روزمرہ کے حالات کی تاریخیں کہی ہیں۔ اپنی، اپنے گھر کی عزیز دل کی، دستوں کی، کوئی نئی اور دلچسپ بات دکھی۔ اور ان کی تاریخ گوئی کی رُگ پھر کی۔ مثلاً کوئی امتحان میں پاس ہوا۔ کوئی فیل ہوا۔ کسی کی خلاف امید مقرر ڈال دیا۔ کسی نے بے طلب چائے پلانی، اپنا علاج شروع کیا، پر سہر توڑا، گھر میں سامپے نکلا، کسی نے سچھو یا سچھر نے کامٹا۔ بند رونی سے گیا، کسی نے دارضھی رکھ کر منڈادی۔ کسی نے منڈا کر رکھی، کسی نے بڑھاپے میں پیکون پہنچ کا شوق کیا، کسی وجہ کو ماش کی دال ناپسہ بھائی، کارچ میں پارٹی ہوئی، کارچ اسات کی پکنک منائی گئی، انہوں نے جہاز کا سفر کیا، گھر کے سچھوں نے نائش منعقد کی۔ کارچ کے رہ کوں نے امتحان سے اسٹریک کی، کسی نے بڑھاپے میں اپنا حقیقتہ کیا، کسی کا تیر انکا ح ہوا۔ کسی کا چھٹا انکا ح ہوا۔ کسی کی بیوی نے زد و کوب کیا، اسی طرح کی بے شمار تاریخیں مع چھوٹے بڑے قطعات کے لکھی ہیں۔ ایک خاتون کے متغلق شناکہ وہ جمعہ کو پیدا ہوئی، جمعہ کو انکا ح ہوا، جمعہ کو بیوہ ہوئی، جمعہ کو انتقال کیا، اس عجیب اتفاق کی تاریخ کہہ دی۔“ (۱)

(۱) حاجی فاروقی، جولانا ”خود نوشت“، ”اردو نامہ“ کراچی: جنوزی تاریخ، ۱۹۹۵ع شمارہ ۱۹۵، ص ۷۱، ترقی اردو یورڈ، کراچی۔

فن تاریخ گوئی کی مختلف صنعتوں میں قادری صاحب کی تاریخیں دیکھ کر اور حصہ سے قرآن مجید کی آیات سے ان کی نکالی ہوئی تاریخیں دیکھ کر اس فن پر ان کے عبور و مبارت اور قدرت و کمال کا سجھوئی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

مولانا کی تاریخ گوئی کے سلسلے میں ان کے ایک قریبی دوست پر وفیض عبداللطیف خان صاحب کشته لکھتے ہیں :-

"تاریخ گوئی ان کا محبوب مشغله تھا۔ چلتے پھر تے، امتحنے بیٹھتے تاریخی ماذتے نکالتے اور قطعات یا اشعار تصویف کرتے رہتے اور عجیب عجیب جذبی برستے رہتے اور تاریخ نہایت روشن برجستہ اور معانی خوبیز ہوتی رہتی۔" (۱)

قرآن کریم کی آیات مقدسرہ سے تاریخیں سکان کوئی آسان کام نہیں ہے اس کام کو وہی شخص سزا بجا دے سکتا ہے جس کو قرآن عظیم سے ایک طرح کا قلبی درود حافی تعلق ہونے کے علاوہ عربی پر گہرا جہور بھی حاصل ہو۔ قادری صاحب چونکہ ایک عالم با عمل، صوفی صافی اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت ان کا معمول تھا لہذا تلاوت کرتے وقت سہل دروان آیات کو تاریخی ماذق کرتے منتبہ کر لیا کرتے تھے۔ آیات قرآنی سے نکالی ہوئی بیشتر تاریخیں ان آیات پر مشتمل ہیں جو نہایت ہی سہل الادا اور عوام و خواص کو کیساں طور پر اُذہ بڑھاتی ہیں مثلًا جرمی کی مسجد کی تاریخ اذان ہی کے الفاظ سے یوں نکالی ہے :

حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّىٰ عَلَى الْعَلَّاقِ، حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَّاقِ

(۱) : کشته پر وفیض عبداللطیف خان، "حامد بن قادری"، اردو نامہ، کراچی:  
ترقی اردو بورڈ، جنوری تا مارچ ۱۹۷۵ء، ش ۱۹، ص ۱۶

اپ سیس دیکھنا ہے کہ مولانا نے اپنی تاریخ گوئی کے لئے خود کیا کہا ہے۔ اپنے قریرے مجموعہ تاریخ "جامع التواریخ" (۱۳۶۲ھ) میں دہ یوں رقم طراز پیش ہے:-

"تاریخ گوئی علم و ادب کا ایک عجیب لطیفہ ہے میلانوں کی ایجاد اور عربی و فارسی اور دو کے ساتھ مخصوص، اگرچہ حدود تہجی کے اعداد مسلمانوں کیا، میا یوں سے بھی پہنچ کے ہیں۔ لیکن ان اعداد سے یہ کام لینا جس کو تاریخ گوئی کہتے ہیں اور اس کو ایک مستقل و با اصول فن بنادینا مسلمانوں کے شوق بلاغت طرازی اور شغفت اتنا پروازی کی اختراع بدیع کے علاوہ ان کی فرصت بے تہابست کی بھی یادگار ہے۔ آدمی مجھے جیسا ہے کار ہو تو تاریخیں لہا کرے۔ تاریخ گوئی سے زیادہ محنت اور کم نفع کا مشکل سے ہی کوئی دوسرا مشغله علی نکل سکے گا۔" (۱)

اپنی تاریخ گوئی کے سب سے میں بھی ان کا بیان ہے:-

"جمہے رکن سے تاریخ گوئی کا شوق ہے اور ادب اشتعل کو چالیں پرس سے زیادہ ہو گئے کئی ہزار تاریخی مادتے نے نکالے ہوں گے جن میں سے ذیر ڈھنہ ہزار کے قریب دو مجلد قلمی بیاضنوں میں ترتیب سنین کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔" (۲)

"دفتر تواریخ" (۱۹۰۱ء)، از ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۱ء تا ۱۳۵۵ھ

بیاض اول: ۱۹۳۴ء میں ۹۰۰ تاریخیں۔

"میزان التواریخ" (۱۳۵۶ھ)، از ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۷ء تا ۱۳۵۶ھ

بیاض ثانی: ۱۳۶۱ھ/۱۹۴۲ء میں ۵۳۵ تاریخیں۔

مکمل:  $900 + 535 = 1435$

ان میں صد ہشت تاریخیں قطعات میں منظوم و مرتب ہیں اس کی تفصیل یہ ہے

بیاض اول میں ۳۵۳ قطعے )

بیاض ثانی میں ۱۷۵ قطعے ) ۶۲۸ قطعے )

(۱) ایضاً "حامد بن قادری، مولانا، جامع التواریخ" محوالہ بالا ویباچہ۔ ص ۱

قطعات میں کم سے کم دو شعر تو ہوتے ہی میں لہذا ان کے بعض قطعات دو شعروں پر، بعض دس شعروں پر اور بعض پچس (۱۲۵) پچس (۱۷۵) شعروں پر مشتمل ہیں۔ چند نظریں تیس (۳۰) یا زیادہ اشعار پر بھی مشتمل ہیں مثلاً اقبال کی چند تاریخیں ایک طویل مشوی میں نظم کی ہیں جس کے اشعار تقریباً ستر (۷۰) یا یہی اسی طرح پر فیروزی محمد خاں حضور کی تاریخ وفات پر بھی نہایت طویل نظم لکھی ہے۔

ان کی تاریخوں میں بعض تاریخ گوئی کے لطف و صنایع ہیں، بعض عجیب و غریب واقعات کی تاریخیں ہیں، بعض تاریخیں الی بھی ہیں جو کسی کی فرمائش پر فی البدیل بھی کہی ہیں اور ساختہ بھی فرمائش کرنے والے کا نام بھی تحریر کر دیا ہے۔

ان کو قرآن مجید سے تاریخی مادتے سے اخذ کرنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ اس سے جہاں ان کی قرآن سے عقیدت و محبت اور اس کی عظمت و حُرمت کا علم ہوتا ہے وہاں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا انہوں نے کس قدر عقیدت و محبت اور کیسے خود انہماں سے مرطابہ کیا تھا کہ ایک ایک حرفت اور ایک ایک آیت دل پر نقش رہتی تھی۔ قرآن مجید سے تاریخی مادتے سے اخذ کرنے کے بعد میں انہوں نے "جامع التواریخ" کے مقدمے میں خود لکھا ہے:

"میں نے قرآن مجید کی آیات کریمے اتنی تاریخیں نکالی

میں کہ میرے علم میں کسی دوسرے تاریخ گو سے اس قدر تعداد منقول نہیں ہے" (۱)

لیکن اس کے ساختہ ہی انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی قرآن کریم سے الی دل کشی درکار ویز تاریخیں نکالی ہیں کہ ان کے ذہن کی رسائل کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ قادری صاحب بھی اس سے متاثر تھے لہذا اس سلسلے میں انہوں نے خود بھی "جامع التواریخ" میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ "قدیم زمانے کا تذکرہ ہے کہ کوئی

(۱) : حامد بن قادری، مولانا، "جامع التواریخ"، محوال بالا، (دیباچہ)، ص ۲

شخص جن کا نام آدم تھا، جو کو گئے ان کی بیوی بھی ساتھ تھیں۔ خوش نصیبی سے دونوں میاں بیوی مدینہ مستوہ میں انتقال کر گئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے، کسی نے تاریخ کہی:

### يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

۱۱۶۵

بحان اللہ کیا تاریخ ہے! ایسے مقام پر تو مر نے کی آرزو کیا کرتے ہیں۔ ایسی تاریخ کے لئے بھی مر جانا چاہیے؟ (۱)

قرآن مجید سے تاریخ نکالنے میں بعض خاص صورہ ہیں پیش آتی ہیں جو بظاہر اصول کے خلاف ہیں لیکن اگلے بنزروں نے ان کو جائز رکھا ہے اس لئے مولانا نے بھی حسب خود رست ان کا اتباع کیا ہے۔ مثلاً:

۱۔ کسی آیت سے پہلے و او عطف سلسلہ کلام کے سبب آتا ہے اگر وہ آیت مع واو کے تاریخ کے لئے لی جائے تو عطف بے محل معصوم ہوتا ہے لیکن تاریخ واو کے ساتھ پوری ہوتی ہے اس لئے واو کو بھی شامل کرہ لیا جاتا ہے مثلاً کسی نے زیب النساء بیگم (بنست اور نگز زیب عالم گیر) کی تاریخ وفات کہی تھی۔ "وَدَخَلَتْ جَنَّتَهُ" (در ۱۱۲ ح)۔

عربی میں تاریخ ناتیث رقیٰ لکھی جاتی ہے اور اس پر وقت ہوتا ہے (بھی پڑھی جاتی ہے اس لئے تاریخ گوئی کے اساتذہ نے اس کو ہائے ہوڑہ مان کر پانچ عدد لئے ہیں مثلاً امیر میانی نے اپنے دیوان کے نام "مراۃ الغیب" میں پانچ عدد کے کر ۱۲۸۹ھ نکالے ہیں۔ لیکن بعض تاریخ گو حضرات نے اس (رقیٰ) کے چار سو عدد لئے ہیں اس طرح کسی نے سرستید مرحوم کی تاریخ وفات قرآن مجید سے بھی نکالی ہے: "إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ" (۱۳۱۵ھ)

(۱) حامد بن قادری، مولانا، "جامع التواریخ" (محولہ بالا، (دیباچہ)، ص ۲۔

خود قرآن کریم میں بھی کہیں کہیں تاء سے تابیث (ت) کو پوری "ت" کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ مثلاً سورہ رعد، کو ۷، پارہ ۶۱ میں "فَطُرْتَ اللَّهُمَّ الَّا تُفْطِلُ النَّاسَ عَلَيْهَا" صحیح "فَطُرْتَ" تھا، لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے "ت" لکھی گئی۔ اسی طرح رحمت اللہ میں پوری "ت" لکھی گئی۔ لیکن یہ بھی املا سے قرآن کا قائدہ و کلیہ نہیں ہے۔ "کلمة اللہ" "حجۃ اللہ" میں چھوٹی "ت" بھی لکھی ہوئی موجود ہے۔ جن اسماء کی جمع "ات" کے ساتھ آتی ہے ان میں پوری "ت"۔

لکھی جاتی ہے جیسے "جات" یا املا سے قرآنی میں "جنت"۔ لیکن انہوں نے بضرورت تاریخ اس کے پانچ عدد لینے کے لئے "جنت" لکھ دیا ہے۔ قرآن شریف میں ہزارہ کے لئے کہیں شوشه لکھا ہے کہیں نہیں۔

لکھا "اولنات" میں ہر جگہ شوشه ہے لیکن سورہ یوسف میں "آلن" حصہ "الحق" میں ہزارہ کے لئے شوشه نہیں ہے۔ شوشه کی حالت میں اس کو "ی" کی علامت سمجھ کر دس (۱۰) عدد لئے جاتے ہیں اور بغیر شوشه کے کچھ نہیں۔ "اولنات" کے عدد ۷۴ ہیں اور "آلن" کے ۸۱ اگر آلن لکھ دیں تو ۹۱ عدد ہو جائیں گے اور آلان لکھا جائے تو ۸۲ ہوں گے۔

اسی طرح درمیانی الف کے لکھنے کی مختلف صورتیں ہیں مثلاً

"مولنا" مولیں اور مولانا، تینوں صورتوں سے کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں "مولان" کی صورت اختیار کی گئی ہے لیکن خود مولانا نے تینوں طرح لکھ کر مختلف عدد لئے ہیں۔ یا مثلاً "صَالِحَت" اور "صالحات"، "خلدین" اور "خالدین" دونوں امداد رست ہیں یا مثلاً سورہ ججر کو ۷، پارہ ۳ میں "انَّ عَبَادِي" لکھا ہے اور سورہ فخر، پارہ ۳ میں "فِي عَبَادِي" ہے اس لئے انہوں نے بھی "فَادْخُلِي فِي عَبَدِي" اور "فَادْخُلِي فِي عَبَادِي" دونوں سے تاریخیں سکھائی ہیں اور اس طرح کی (ف) اور (د) کو کہیں رہنے دیا ہے اور کہیں حذف کر دیا ہے۔

بھن آیات میں جن سے تاریخ نکالی گئی ہے کسی عامل کے سبب ۶

سے لفظ کی ایک خاص صورت ہے لیکن وہ حرفِ عامل مادہ تاریخ میشامل نہیں کیا گیا پھر بھی اسی لفظ کو بجنسہ رہنے دیا ہے ورنہ وہ آیت کا حصہ نہ رہتا۔ مثلاً ”إِنَّ الْمُتَقِيْنَ فِي ظَلَلٍ وَّعِيُونَ وَفَوَّاْكِهَ“ ہے بغیر ان کے تاریخ نکالی ہے۔ قاعدة شحو کے مقابل ”إن“ کے نہ ہونے کی حالت میں ”المتقون“ ہونا پاپیے لیکن الفاظِ قرآنی کے سبب سے یہ تصرف جائز نہیں رکھا گیا۔ اور اگر کسی جگہ تغیر کر کے اگر اعداد اس تن پورے کیے جی گئے ہوں تو مولینا اس کو قرآن کی آیت نہیں کہتے عربی کا فقرہ کہتے ہیں۔ یہی صورت کبھی اعراب میں بھی پیش آئی ہے مثلاً انہوں نے ایک تاریخ نکالی ”فضلہ کان علیک گیرا“ : ۱۳۹ ( بنی اسرائیل رکوع، ۱۰ پار ۱۵۵) یہاں بظاہر ”فضل“ کا لام منصوب (زیر کساتھ) ہونے کا کوئی سبب نہیں لیکن آیت میں ”إِنْ وَصْلَهُ“ ہے۔ مولانا نے ”إن“ نہیں لیکن حکمت وہی فائم رکھتی ہے۔

غرض کہ انہوں نے ضرورتِ شرعی کھلئے مادہ تاریخ کے اعداد پورے کرنے کی غرض سے آیات کریمہ کو بجنسہ رکھا اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ حالانکہ اس سبب میں ان کو بہت دقتیں اور کوہ گذن و کاہ برآوردن والا معاملہ درپیشیں رہا ان کے چھ جوہر ہائے تواریخ تقریباً چار ہزار تاریخوں پر مشتمل ہیں۔

مولانا کی فی المدیہ تاریخ گوئی کے سیدہ میں مولوی سید حامد علی صاحب لسکیار و کٹوریہ کا لمح آگرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز شام کے وقت میں مولانا قادری کے مکان پرانے سے ملاقات کے لئے پہنچا۔ اور اطلاع کرائی تو وہ فوراً ہاتھ میں کانہ قد قلم لئے باہر آگئے میں نے کہا کہ اگر آپ کچھ لکھنے میں مصروف ہتھے تو کہا وادیا سوتا میں پھر آ جاتا۔ قادری صاحب نے کہا کہ ”آپ کے دوست پر فلیمفتی جبیب صاحب (۱) کو پشاور رخ

(۱) مفتی پروفسر محمد حبیب۔ عذر شعبہ فارسی پشاور پوسٹ گریٹسٹی۔

لکھر رہا تھا سوچا کہ آپ کا بھی کوئی پیام ہو تو لکھ دوں۔ اس نے یونی اٹھا چلا آیا۔ ابھی کافی سے آنے پر ان کا خطا ملا کہ ایک جوان مرگ شخص سید غلام الحسین این مومن کی تاریخ مطلوب ہے۔ میں نے عدد جوڑ سے تو نام کے عددوں سے پورا سال وفات بدلتا ہے نام خود ہی تاریخ ہے میں ابھی اچھتی بھی نہ انہوں نے پایا تھا کہ معاد دسرا شعر موزوں ہو گیا اور پھر جو نکھنے بیجھا تو پہلا بھی موزوں تھا۔ یعنی آپ بھی سماحت فرمائیں۔ ”تاریخ یہ ہے:

مومن کا وہ نوجہ پشم تھا دل کا چین حاصل ہوا اسے قریب سوں لشکلین

مرنے کی خبر یہ نام خود دیتا تھا تاریخ ہے ”سید غلام الحسین“

۱۳۵۲

اس سلسلے کے دو اور واقعہ تحریر کرنے ہوئے مولوی سید حامد علی صاحب لکھتے ہیں:

”تاریخ گوئی میں ایسا زدگو، بیمارگو، اور نفرگو شہزاد ادب کی کی تاریخ میں مشکل ہی سے نکلنے گا وہ معمولی سے غور دنکرہ میں عجیب و غریب۔ مادر نے مکال لیتے اور سننے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے۔ زدگوئی اور بدیہیہ گوئی کی بہت سی مثالیں ان کے بہار موجود ہیں۔ ایک دن کافی سے دالپس تشریف لائے: نشست گناہ میں باہر سے آئے ہوئے خطوط رکھے ہوئے تھے ہم کی آدمی خوش گپیوں میں صروف تھے۔ مولانا تشریف لائے خلوط اٹھا کر پہلا ہی خط پڑھا۔ پھر مزید پر کھد دیا۔ اندر گئے کارڈ لائے اور جواب لکھنا شروع کر دیا۔ پنجاب کے کسی مقام سے کسی صاحب نے کسی عبد الغزیز کے مقبرے کی تعمیر کی تاریخ چاہی بھتی اور لکھا تھا کہ میں نے بہت سے تاریخ گو حضرات سے تاریخیں کھلوا میں لیکن ان میں ایک بھی معقول نہ بھتی۔ قادری

۱۱۔ مامد۔ مولوی سید حامد علی۔ سابق پیغمبر اور کنوریہ کافی۔ آگرہ۔

صاحب تے ملہ بھر میں تاریخ نکالی، صرف عسے لگائے اور روانہ کردی اس  
تاریخ کا مصروعہ مجھے آج بھی یاد ہے: ۶۷ "ابو ان استراحت عبد العزیز ز" ہے  
۱۳۵۲

اسی طرح ایک اور واقعہ کا ذکر محلہی سید حامد علی صاحب اپنے ایک صفحون میں کرتے ہیں  
"ہمارے کارج کے ایک ییکھراہ پنڈت گوری پرشاد ہمدرم کا  
انتقال ہوا تو میں نے تاریخ نکالی مگر پانچ عدد کی کمی رہ گئی میں نے کافی زور لگایا  
مگر ناکافی ہوئی آحسن صبح کو قادری صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا قادری  
صاحب کارج جانے کی تیاری کر رہے ہے بتتے اطلاع ہونے پر شیر و انی کے  
بین گلاتے ہوئے باہر تشریف لاتے ہے۔ میں نے جلدی جلدی اپنا مقصد بیان کیا (۱)  
میرا مصروفہ تھا ۶۷ "خزان گلشن کشیریان اکبر آبادی" ادھر میری زبان  
سے مصروفہ نکلا اور ادھر قادری صاحب نے فرمایا: ۶۷  
"لب ہاتھ سے اے حامد ہوئی تاریخ رحلت کی  
خزان گلشن کشیریان اکبر آبادی  
۱۹۳۵

"ہاتھ" کی "ہ" نے ۵ عدد کی کمی پوری کر دی۔ میں خوش خوش والیں ہو ٹما۔  
ابھی چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ آواز دے کر بلا یا اور فرمایا ایک تاریخ اور لیتے جائیے  
میں نے کہا "ارشاد"، فرمایا ۶۷ "ہمدم داخل دوزخ ہوا" (۱۳۴۵) ۶۷  
اس طرح کے بطيئے رات دن پیش آتے اور ہم سب لوگ بطفت ان دوزخ ہوتے  
رہتے رہتے۔ یہی حال ان کی بد نیہ گوئی کا تھا۔ (۱)

آیات قرآنی سے تاریخیں لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کام دہی شخص کر سکتا ہے  
جسے قرآن و حدیث اور غربی میں حمارت تامہ حاصل ہو۔ سر سید احمد خان کی یہ دونوں تاریخیں

(۱) مہنامہ شفق، کراچی، جون ۱۹۴۷ء، ص ۹۰۔ مولانا قادری نمبر۔

نہایت عمدہ و تھوہب میں :-

۱۔ "إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ" (۱۳۵) ۲۔ إِنِّي مُتَوَفِّيٌّ وَرَأْفَعُكَ إِلَى وَمَطْهَرَكَ  
اس میں پہلی تاریخ پر اہل فن کو یہ اعتراض ہے کہ "عاقبتہ" کی "ۃ" "ت" رہا ہے اس  
میں بلکہ "ۃ" ہے اس لئے اس کے عدد ۳۰۰ کی بجائے ۵ لئے جانے چاہئیں جبکہ  
یہاں ۳۰۰ بی شمار کیجئے گئے ہیں اور پھر "ۃ" کو "ت" لکھنا بھی املا کے قرآن  
کے خلاف ہے۔

اس سے مراد یہ تھی کہ بست سے حضرات نے قرآن کریم سے تاریخیں نکالی میں  
لگر قادری صاحب کا یہ کمال ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کے وقت الیسی نظر  
آئی جس سے منتقل تریب کا کوئی سن نکان ہو لیں اس کو لکھ کر لکھ لیا اور حب کوئی ایسا  
داقعہ رو نہ ہوا تو اس پر چپا کر دی۔ اس سے میں وہ خود بھی دفتر تاریخ میں تحریر یہ  
کرتے ہیں:

"ایک بار ایک آیتہ کرمہ میں ۱۲۹۶ھ نکلے یہ سن میری  
ولادت سے آٹھ سال پہلے کا ہے۔ لیکن تاریخ نہایت نفیں و اہلی محتی۔  
چھوٹنے کو جس نہ چاہا۔ اسوات خاندان کا حبڑ دیکھا۔ معلوم ہوا کہ اس سال  
میں حضرت مولانا فضل عالم صاحب کا وصال ہوا ہے۔ یہ میرے پردادا کے  
چھوٹے بھائی تھے۔ برٹے کا بیل درویش اور خاندان نیازیہ نظامیہ بہنی کے  
خلیفہ تھے۔ میری والدہ و خالہ وغیرہ اور بہت سے افراد خاندان کے پیر و درشد  
تھے۔ تاریخ کے نئے سمجھی ایسا ہی باتفاقات آدمی در کار تھا۔ چنانچہ ان کی نوع  
پاک کو اس کا ثواب پہنچا دیا۔ چونکہ اس "دفتر تاریخ" کے "دفتری" کے وجود  
بے وجود سے بھی پہلے کی بات ستی۔ اس لئے اس میں درج کرنے کی گنجائش  
کہاں تھی۔ اسی حبڑ پر لکھ دی اور اب یہاں حاضر ہے:

"عَسَىٰ أَنْ يُبَعَّثَ لِرِبِّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا"

قادری صاحب کے "دفتر تاریخ" میں ایسی بھی بہت سی تاریخ ہیں جو واقعہ کے متوں بعد نکالی گئی ہیں اور اس کا حوالہ انہوں نے اس تاریخ میں بھی دیا ہے مثلاً منشی فضل حسن صابری مالک اخبار "دید بہہ سکندری" کی فرمائش سے لکھی گئی۔ اور اس طرح کے دیگر حضرات کے نام بھی اس فرمائشی تاریخ کے ساتھ درج ہیں۔

قرآن کریم سے نکالی گئی سب ہی تاریخیں نہایت خوب ہیں مثلاً "اپنے خالہ زاد بھائیٰ وَ عَظِيمُ الْحَقِّ جَنِيدِيٰ کی ولادت کی تاریخ یہ نکالی ہے : "وَلَجْعَلَهُ رَبُّكَ رَضِيَّاً" (۱۳۴۸ھ) یہ ہے وہ دعا جو حضرت ذکر ہا ی علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لئے بارگاہ خداوندی میں کی تھی۔ اسی طرح انہوں نے مولانا الطاف حسین عالیٰ کے لئے بھی سورہ یعنی شریف کی ایک آیت سے ایک نہایت ہی خوب صورت مختصر اور موزوں تاریخ یہ نکالی ہے۔ "فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ" اس تاریخ میں انہوں نے اساتذہ فن کے اصولوں پر عمل پیرا رہتے ہوئے دونوں لفظوں میں "ا" اور "ا" کے عدد سیکان یعنی ۵ لیئے ہیں لیکن کہیں کہیں سرستید احمد خاں وغیرہ کے اتباع میں "ا" کے عدد ۳۰۰ بھی لیئے ہیں کوئی پس و پیش نہیں کیا ہے مثلاً اخلاق علی صاحب میر بھٹی کی تاریخ وفات چب وہ آیت کریمہ "وُجُوهٌ يُوْمَئِيزُ نَاعِمَةٌ" سے نکلتے ہیں تو یہاں "ا" کے عدد سیکانے ہے کے سرستید کے اتباع میں دہی ۳۰۰ لیئے ہیں۔ (۱)

"دفتر تاریخ" کے دیباچے میں ایک جگہ تحریر کرتے ہیں: "ایک مرتبہ ۱۹۱۶ع میں تلاوت کرنے ہیں اس آیت کریمہ پر نظر پڑی۔ "هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّنِی" عدد نکالے تو پہلے ۱۹۱۸ع تھے اس وقت میرا پہلا سچپ کوئی سال بھر کا ہو گا لیکن خیال آیا کہ انشاء اللہ میرا ہی کوئی سچپ اس وقت تک اور ہو جائے گا اور اس کے لئے یہ تاریخ موزوں ہو گی لیکن کہہ کر رکھ لی اتفاق سے ۱۹۱۸ع میں لڑاکی پیدا ہوئی لیکن "هذا" اس کا اشارہ نہ کر کے لئے تھا۔ برادر عزیز مولوی محمد طاہر فاروقی نے کہا یعنی "هذا الانعام" اس

(۱) حامد حسن قادری "دفتر تاریخ" محوالہ بالا، ص ۹۸۔

سے چار سال بعد تیرا بچہ رکا ہوا تو اسی تاریخ کو یون کر لیا۔ "هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ" یہاں پھر الٹی بات ہو گئی یعنی مذکور کے نے اشارہ موت تو اس کی تاویل کی گئی، "هَذِهِ النَّعْمَةُ"

بعض اوقات مولانا نے ایک ہی مادہ تاریخ میں کمی بیشی کر کے اس کو کئی کمی قبول پر استعمال کیا ہے گریہ ان کی فتنی ہمارت اور علم و فضیلت کی بات ہے کہ ہر تاریخ اپنی جگہ نہایت بہتر اور مونوں ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے مولانا راشد المیزی کی تاریخ وفات آیہ کریمہ سے یوں نکالی ہے: "لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ" (۱۹۴۷ھ)

بعد میں یہ مادہ تاریخ اور بھی کمی ضرورت مندوں کے کام آیا اور کمی تاریخیں اور بھی نکال گئیں۔

یہ آیہ کریمہ قرآن مجید میں ضمیر غائب کے ساتھ بھی ہے اور بہت مشہور ہے قادری صاحب نے پہلے بھی یہیت سے بزرگوں نے اسی آیہ کریمہ کے مختلف حصوں سے مادہ پائے تاریخ نکالے ہیں۔

قادری صاحب نے بھی کوشش کی اور اس آیت سے مندرجہ ذیل قواریخ نکالیں۔

مندرجہ ذیل تاریخ مولانا کے سلسلے کے کسی قدیم بندگ کی یہ ہے:

"لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُنَّ مُحْزَنُونَ" (۱۸۵۰ع)

اسی آیت کے نسل سے قادری صاحب نے مولانا فخر الدین کی یہ تاریخ نکالی:

"أَوْلَيَاءُ الْلَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُنَّ مُحْزَنُونَ" (۱۱۹۹ھ)

حضرت شاہ نیاز احمد صاحب برٹوی مشہور بزرگ میں ان کے لئے اس آیت سے

یہ تاریخ اخذ کی:

"إِنَّ أَوْلَيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُنَّ مُحْزَنُونَ" (۱۲۵۰ھ)

اور اسی سلسلہ مولانا شاہ نظام الدین حسین برسیوی رحمۃ الرحمہ علیہ کی بھی یہ تاریخ نکالی:

"وَلِهُمْ إِنَّ أَوْلَيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُنَّ مُحْزَنُونَ" (۱۳۲۲ص)

اسی طرح مولانا کی اور یہی قرآنی تاریخیں نہایت دلکش و دلچسپ ہیں۔

جنگ ترکی و اٹلی جو ۱۹۱۱ء مطابق ۱۳۲۹ھ میں واقع ہوئی اس کے لئے کہیں  
قدر موزوں اور خوبصورت تاریخ نکالی ہے۔

"ان الابرار لفی نعیم و ان الفجوار لفی جحیم" (۱۳۲۹ھ)

اسی طرح ہندو مسلم فادار کے موقع پر ہندوؤں کی شکست کے متعلق کیا برجستہ تاریخ

نکالی ہے۔ "وَتُزِيلُ مَنْ تَشَاءُ" (۱۹۲۰ء)

تاریخ گوئی کی ایک صنعت یہ بھی ہے کہ مادہ تاریخ کے الفاظ کے صرف ابتدائی  
حدوف، درمیانی حروف یا آخری حروف کے اعداد یتی ہیں اور اس کی طرف کی خوبیت  
پر لے ہیں اشارہ کر دیتے ہیں لیکن یہ صنعت برقرار رکھنا بھی صنعت ہے زبردستیات کی طرح  
کوئی آسان کام نہیں ہے اس صنعت میں پہلی تاریخ صرف حکیم مومن خاں مومن کی ملتی ہے جو  
انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کی وفات کے موقع پر نکالی تھی۔ قادری صاحب  
نے بھی حکیم مومن خاں تو من کی اس طرز میں طبع آنہائی کی ہے اور نہایت نفییں و نادر اور  
عمودہ تاریخیں نکالی ہیں مثلاً انہوں نے محسن کا کوروئی<sup>۱</sup> و حضرت سید نظام الدین شاہ دلگیر  
اکبر آبادی کی تاریخیں اسی انداز سے نکالی ہیں:

تاریخ وفات محسن کا کوروئی :۔ رویم نوو" اندوہ و غم درد و الم . روح و ستم" ۱۳۲۶ھ

۱۰۰۰غ = ۱۰۰د = ۳۰۰ر = ۱۰۰س = ۴۰۰ = ۱۳۲۶ھ

درمیانی حروف سے حضرت سید نظام الدین شاہ دلگیر اکبر آبادی کی تاریخ وفات یوں  
نکالی ہے۔<sup>(۱)</sup>

سب بے سروچا ہو گئے، دلگیر کے جانے سے اب نہ لطف و کرم، شعرو سخن عشق و وفا، وصل و ادا  
تفصیل حسب ذیل ہے:

لطف کا۔ ط = ۹، کرم کا۔ ر = ۳۰۰، شعر کا۔ ص = ۷۰۰، سخن کا۔ خ = ۶۰۰

عشق کا۔ ش = ۳۰۰، وفا کا۔ ف = ۸۰، وصل کا۔ ص = ۹۰۰، ادا کا۔ د = ۳ = مکمل = ۳۵۳

(۱) حضرت سید نظام الدین شاہ دلگیر اکبر آبادی میوہ کردہ آگرہ میں آستانہ عالیہ قادریہ کے  
سجادہ نشین اور آئری مسجدیت تھے۔

حضرت سید نظام الدین شاہ دیگر اکبر آبادی کی ایک اور تاریخ وفات آخری حروف کو چھوڑ کر اس طرح نکالی ہے:

سال مرگش لفظہ نعم حامد کہ اندھہ بھردے ہے ؟ آہ وافس و ملال و صدر و غم بحیات

۱ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۰۰ = ۱۳۵۴ھ

مولوی سعید احمد صاحب مارہروی میخیر شعیب کا لمح آگرہ نے مسلمانوں کی تعلیم کئے اکبر آباد میں مدرسہ محمدیہ اور کالج فائم کیا۔ آپ بڑے دیندار، خدا ترس اور گوناں بگوں صفات کے حامل بزرگ تھے۔ قادری صاحب سے بھی ان کے دوستانہ مراسم تھے۔ مرحوم کی وفات پر قادری صاحب کو بڑا صدمہ ہوا۔ اور ان کے متعدد تواریخ کہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے مرزا غالب کے مصرعوں میں مولانا قادری کا تصرف ملاحظہ کیجئے:

(۱)

دل ہی کیا ساخت گیا تیر سے سعید احمد آہ ۔ دوستوں کے نہ رہے ہوش بجا تیرے بعد سو گوارہ نجمن و دربہ و کالج ہیں ! علم و تعلیم ہے اور شغل بجا تیرے بعد عشق دیں، عشق ادب، عشق خدا عشق رہا ۔ یادگار اب یہ تیرا عشق رہا تیرے بعد دُود آہ ” آئے محل میں جو بیتا نایخ کہوں ۔ شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا تیرے بعد منصب صبر و رضا کے کوئی قابل نہ رہا ” ۔ یہ بھی اگر مصرع تاریخ سنائیں تو بعد ۱۹۳۶ء = ۱۹۶۶ء میں ” آہ ” کے ساتھ قادری نے بھی یہ تاریخ کہی ” آہ ” کے ساتھ ۔ آج ہے تعزیت ہر و دفاتیرے بعد ۱۹۳۶ء = ۱۹۶۰ء

(۲)

آج آگرہ پر جو ابر غم چھایا ہے  
اک صاحب بیل نے پرده فرمایا ہے  
مرقد پر منشی سعید احمد کے  
لکھ دکہ ” وصال ذات حق پایا ہے ”

(۱) حامد بن ناولی، مولانا، ”جامع التواریخ“، ص ۲۵-۲۶ (مخوظہ)،  
ملوکہ ذاکر، خالد حسن قادری (لندن)، پر مولانا حامد بن حسن قادری۔

سعید احمد نیک دل پاک سبیرت پسپھر کرامت کے تھے نجم شاقب  
یہیں بھری و عیسوی سال رحلت کرم شیوه، ذی شان عالی مناقب

$\frac{۱۳۹۵}{۱۴۰۵} + \frac{۱۸۱}{۱۸۲}$

۱۹۳۶ء

(۲۴)

مشی سعید احمد مارہروی گئے ۔ ۔ لے کر چرانغ ڈھونڈیے ایسا باہ  
خون خدا کے دل میں گھر ان کا تھا قادری ۔ پھر کمیون خدا کے پاس نہ ہو قدر و منزالت

فصلی و بھری، عیسوی و بکرمی یہ سال

ہاں شیوه کرم ہوا، سامان آخرت

فصلی	$\frac{۱۳۵۲}{۱۳۶۵} + \frac{۱۲}{۱۳۶۵}$	↓	↓
بھری	$\frac{۱۳۶۵}{۱۹۳۶}$	+	۵۸۱
عیسوی	$\frac{۱۹۳۶}{۱۹۳۶}$	+	۵۶
بکرمی			۴۰۰۴

۱۹۳۶ء میں مولانا سیماں اکبر آبادی نے کلام اپاک کا منتلوم ترجمہ کیا تو فکر تاریخ  
ہوئی۔ مجبوں اور دکستوں کو خطوط لکھے تقریباً سوتاریخیں ان کے پاس جمع ہو گئیں، مگر  
ان میں سے انہیں صرف مولانا قادری کی مندرجہ ذیل تاریخ پسند آئی۔

خود مولانا قادری نے بھی لکھا ہے کہ: "سیماں صاحب مرحوم مصروع تاریخ کی بحید  
تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے پاس تقریباً سوتاریخیں آئی ہوں گی لیکن کوئی ایک  
بھی ایسی خوبی کی نہیں۔" "مقدس و حسی منظوم مترجم" (۱۱ء ۱۹۳۶)

ڈاکٹر عبدالیب شاد افی نے اپنے مجموعہ کلام "نشاط رفتہ" کی اشاعت کے موقع  
پر مولانا قادری سے تاریخ کی فرمائش کی۔ مولانا نے اس موقع پر بھی مندرجہ ذیل تواریخ  
نکالیں: "تواریخ طباعت دیوان کلام بدیع"

۱۹۳۶ء

(۱) حامد بن قادری، مولانا "جامع التواریخ" مملوکہ خالد بن قادری، ڈاکٹر۔ پروفیسر شعبہ اردو۔ لندن یونیورسٹی۔

ختمِ ذکرِ عندلیب شادانی ایم لے، پی اپچ ڈی (۲)

۶ ۱۹۳۶

چن سے میجانہ سخن کے صلاتے عام آرہی ہے یہیں  
مل سخن، ساغر صبوری ہے آج، اور عندلیب ساقی

سرور اس کا کم نہ ہو گا، خزان نہ ایسیگی اس چن میں  
ہے اس کی تاریخ کیا خلگفتہ "نشاطِ رفتہ بہار باقی" (۲)

۱۳۹۶

ہو گیا شائع کلام عندلیب آشکارا ہو گیا درد نہایا  
اس میں احساسات میں اور واردات حکمت شعری ہے اور سحر بیان  
 قادری صادق ہے یہ تاریخ بھی "ماہ بے داغ و بہار بے حنزان"

۶ ۱۹۳۶

(۱) تاریخ قیام پاکستان

(۲) کنٹر خیر امہ

ہوا قائم جو پاکستان آحسنہ۔ بھیری دن نئے بندوستان کے والٹہ  
سمجھتے ہیں اسے وہ مرزدہ امن! جو اسلام اور مسلم سے میں آگہہ  
یہ دنیا کو ہے آزادی کا پیغام شب تاریک میں ہے مشعل راہ  
سکون و عافیت کا مسلم دار مساوات و اخوت کا مسلم دار  
سیاست کا زمانے کو نو نہ ریاست کی مثالی بے مثالی  
ناوں قادری قرآن سے تاریخ؟ بتاؤں اس کی اک وجہ موجودہ؛  
مسلمانوں کا پاکستان حق تا  
کر تھا ارشاد "کنٹر خیر امہ"

(۱) ایضاً - ص (۲) ایضاً - ص

پاکستان معرض وجود میں آنے اور قائدِ اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے وقت قادری صاحب ہندوستان میں بھی سینٹ جانس کالج لاگرہ میں پروفسور تھے مگر انہوں نے قیام پاکستان اور قائدِ اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی رحلت کی تاریخیں کہیں اور بڑی بے نیازی سے ہندوستان کے مشہور و معروف رسائل و برائی میں ذرا بھی عوائق و نتائج کی پرواکیہ بغیر شائع کر دیں۔ قیام پاکستان کی تاریخ ملاحظہ فرمائی۔ اب یا ان پاکستان کی بھی ملاحظہ کیجئے؛ حمد و حمد جہاں و باñی پاکستان قائدِ اعظم جناح

۱۹۲۸ء

بھم میں نہیں وہ آجِ مشیت خدا کی ہے ؟ تاریخ ہے جناح پر رحمت خدا کی ہے  
۱۹۲۸ء

(۲)

فرشتب کہنے لگے عرش پر یہ آہ کے ساتھ ؛ جہاں میں دیں کی خدمت ترے حوالے کی تو جبریل سراپا اٹھا کے بول اُٹھے ؛ جناح خلد کی نعمت ترے حوالے کی  
۱۹۲۸ء + ۲

(۳)

لئے قائدِ اعظم وزعیمِ احسل ہو روح پر تیری رحمت غزوہ جل  
تاریخ وفات قادری نے یہ لکھی ؛ ہے گوشہ قبر ترا یا شیش محل

۱۹۲۸ء

۱۹۲۸ء میں لکھنؤ یونیورسٹی سے ڈاکٹر عبادت بہ بیوی کو ان کے مقابلے "اردو تنقید کا ارتقاء" پرہ پی اپیچ ڈی کی ڈگری ملی۔ اس موقع پر ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی صاحب نے فرمائش کر کے قادری صاحب سے تاریخ نکلوالی جو حسب زیل ہے: تو ایسخ ڈاکٹری عبادت بہ بیوی، بفرماںش خواجہ احمد فاروقی

کیوں عبادت نہ ہوتے پی اپیچ ڈی ؟ تھا جو تنقید میں یہ طویل !  
تم بھی خوش ہو کے سال ڈاکٹری ہے لکھ دو خواجہ "فضیلت اولی" !  
۱۹۲۸ء

عبدات کی تنقید ہے بے مثال  
بنا یا ہے بدر اس کو جو تحابی  
یہ تاریخِ اعزازہ پل اپنے ڈی  
لکھو طرہ علم و فضل و کمال

۱۳۹۶ھ

۱۹۳۸ء کو قادری صاحب کے برادرِ عتمزاد، ذاکر مولوی محمد طاہر فاروقی پنجاب  
یونیورسٹی لاہور میں اور ان کے بھتیجے داماد مولوی زاہد حسن فرمیدی سندھ کا سچ  
کراچی میں پروفیسر مقرر ہوتے اس موقع پر دونوں کے لئے ایک ہی تاریخ کہی:

پروفیسر ہوتے ہیں کا بھوں میں طاہر و زاہد  
ملی یہ نوکری اچھی، ہوتی گو دیر تو بے حد

کبھی تاریخِ جب خط آئے لاہور و کراچی سے  
کہ: "ہے اچھا ثبوت اس کا کہ دیر آید رست آیہ"

۱۹۳۸

حافظ شاہ جمال اشتر قدس سرہ العزیزؑ کے حالات و کرامات فارسی زبان میں لکھے  
تھے۔ مولانا حامد حسن قادری نے حضرت شہزادہ میاں صاحب سجادہ نشین درگاہ شاہ  
درگاہی کے فرمانے پر اس کا ترجمہ اردو میں کیا اور بہت سی عجیب و غریب تاریخیں  
نکالیں چند درج ذیل ہیں۔ اس کا تفصیلی ذکر مولانا کے تراجم کے سے میں آئے گا  
اس کتاب کا سرد درج ملاحظہ ہو:-

### تواریخ کتاب مجمع الکرامات

دیباچہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْعَظُومِ عَلَىٰ

۱۳۶۹ھ

تذکرہ با برکت

۱۹۵۰ء

نسخہ البرکات

۱۳۶۹ھ

فیض جاری  
۱۱۰۳

جمع الکرامات  
۸۳۶

$$۱۹۵۰ = ۸۳۶ + ۱۱۰۳$$

تو ایک در میان و ب اختتام کتاب: دیباچہ ختم شد  
۱۳۴۹ھ

اللَّهُمَرَبِّنَا أَوْزَعْنَا أَنْ نَتَبَعَهُ صَادِقًا، أَمِينًا

۱۳۴۹

”حال کرامات اولیاء تمام گشت“  
۱۹۵۰

بِلُطفِ رَبِّنَا أَوْزَعْنَا أَنْ نَتَبَعَهُ صَادِقًا، أَمِينًا  
۱۹۵۰

بر درود و سلام ختم کتاب رسد  
۱۹۵۰

دوسرے برور ق اس سے زیادہ عجیب ترتیب کے ساتھ ہے یہ بھی ملاحظہ ہو:

فصلی	ہجری	جمع الکرامات	نایاب	از	حق پناہ یزدان آگاہ	زامہر	پاک دل	علیسوی	بکری
۸۳۶	۸۳۶							۸۳۶	۸۳۶
۶۲	۶۲							-	-
۸	۸							-	-
۲۶۵	۲۶۵							-	-
۱۶	۱۶							۱۶	۱۶
۵۶	-							-	-

بجھری	عیسوی		بجھری	فصل
۶	۶	و	۶	-
۱۴	۱۴	بادجھر	۱۴	۱۴
۶	۶	و	۶	-
۶۴	۶۴	ادیب ادب مآب	۶۴	۶۴
۸۲	۸۲	امام	۸۲	۸۲
۶	۶	و	۶	۶
۲۱۳	۲۱۳	اُردو	-	-
۳۱	۳۱	ہدیثیہ ادب	-	-
۸	۸	انہ	-	-
۳۱۵	۳۱۵	قادری	۳۱۵	۳۱۵
۲۰۶	۱۹۵۰		۱۳۶۹	۱۳۵۸
بجھری	عیسوی		بجھری	فصل

سردق کے بعد بھی مولانا نے متعدد تاریخیں فصلی، بجھری، عیسوی اور سببتوں میں بڑی محنت و جان فنا سے نکالی ہیں جن کی امثال حسب ذیل ہیں:-

"تایف گنجینہ" کرامات اولیاء، و "تذکرہ اولیائے حق رام پوری"

کتب بے بہائی اہل دل

۵۲۳

## مجمع الکرامات

۸۳۶

۱۳۶۹ھ

بآحوال اقطاب حق حافظ جمال اللہ و شاہ درگاہی

۱۹۵۰ع

## رَحْمَهُمُ الشَّرِيكُونَ وَتَدَسَّ أَسْرَارُهُمْ

۱۳۶۹ھ

ذنگیں منے عرفانِ حقیقت یہ ہے۔ مقصودِ گلِ نخل شریعت یہ ہے

۱۹۵۰ع

۱۳۶۹ھ

اک بھرپوری ہے کرامت یہ ہے

فصل ۱۳۵۴

نایاب در فیض طریقیت یہ ہے

۲۰۰۴ بکرمی

فصلی بھی ہے "گلشن طریقیت کی بہار"

۱۳۵۴ ف

بھرپوری میں ہے "بتان حقیقت کی بہار"

۱۳۶۹ھ

سبتِ فیضان شیخ وحدت کی بہار

۲۰۰۴ بکرمی

ہے عیسوی اک صفاتِ کثرت کی بہار

۱۹۵۰ع

بیان حال کرامات بھی کرامت ہے

یہ خوب ہے اثر خامہ امام الدین

کپوکہ "واہ یہ سرچشمہ طریقیت ہے"

یہ سال بھرپوری و فصلی ہیں قادری سمجھا

۱۳۶۹ھ + ۱۳۵۴ھ = ۱۳۷۰ھ

"ذات حق" سال فنا در ذات حق

بود مرگ دزیتش آیات حق

۱۲۰۹ھ

تواریخ دھال حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی

"معین فیض گنج جو د و عط"

۱۲۲۶ھ

" تعالیٰ اللہ محبوب الہی شاہ درگاہی"

۱۲۲۶ھ

مشہور شاعر و ادیب داکٹر دین محمد تاثیر سے مولانا کے دو تائیں مرا سمجھ تھے ان کی وفات سے تاثیر ہو گر مولانا نے مندرجہ ذیل تاریخ کہی تھی :-

بچہ جاتی ہے بن بن کر الہی ! یہ کس سانچے میں ڈھالی بزم عالم  
اُجڑنا ہے بہر صورت مقدر اگر کچھ دن جمالی بزم عالم  
حقیقت رفت با تاثیر و ماندہ است مجازی و خیالی بزم عالم  
تھی بزم سخن ز انوار نادر ہم از احلاق عالی بزم عالم  
جمیں تاریخ مرگش قت آ دری گفت  
کہ : " از تاثیر حمالی بزم عالم" (۱)

۱۹۵۰ء

اکبرالہ آبادی کی وفات کے تقریباً تیس سال کے بعد ایک صاحب نے "بان العصر" کی کتاب "بان العصر" ہی کے نام سے شائع کرائی اس میں شعراء کرام کے منظوم خواجہ عقیدت کے علاوہ اکبر کے فکر و فن پر روشنی بھی ڈالی گئی تھی۔ قادری صاحب سے بھی تاریخ کی فرمائش کی گئی۔ آپ نے مندرجہ ذیل قطعہ تاریخ وفات لکھ کر بھیجا جس کو بان العصر میں سب سے پہلے درج کیا گیا ہے (۲)

### تاریخ اکبر یادگار حضرت اکبرالہ آبادی

۱۹۲۱ء

اب آہ کہاں وہ شوخیاں اکبر کی  
وہ طبع بہار جاوداں اکابر کی  
تیاری از روئے نسلہ سنجی یہ ہوئی  
جنت میں ہیں شوخ طبیعت اکبر کی  
۱۹۲۱ء - ۱۹۱۹ء

(۱) حامد حسن قادری، مولانا، "آئندہ تاریخ" (مخطوط)، ملکوکہ داکٹر خالد حسن قادری پر مولانا قادری (السن) ص ۳۵  
(۲) حامد حسن قادری، مولانا، "جامع التواریخ" (مخطوط)، ملکوکہ داکٹر خالد حسن قادری، پر مولانا قادری (السن) ص ۳۹

علامہ سیاپ کبر آبادی سے مولانا قادری کی ادبی حشیکین اکثر رہتی تھیں مگر بہ دونوں حضرات اس قدر وسیع القلب اور وسیع النظر تھے کہ ایک دوسرے کے کامیابی کا نہایت ادب و احترام کرتے تھے۔ علامہ سیاپ کے کلام پر مولانا نے بڑی بے لائگ تنقیدیں کیں اور جملہ معائب و معافین علی کھول کر بیان کیے مگر کیا مجال کہ کبھی علامہ ان کے شاکی ہوئے ہوں یا ان کے خلوص و صحت میں کچھ کمی آئی ہو۔ وہ اختلاف صرف شعر و سخن کی ہی حد تک تھا، نظریات بھی ایک دوسرے کے بہت کچھ ملتے جلتے تھے اور نہایت ہی غلصانہ مراسم تھے۔ علامہ سیاپ کے استقال پر ان کے صاحبزادے منظر صدیقی نے مولیٰ نے تاریخ اور خصوصیت سے لوح مزار کی تاریخ بھی فرمائش کی اس موقع پر مولانا کی کوشش و کادرش واقعی قابل دید و لائق ستائش ہے اس طرح کسی ادیب و شاعر کو خراج عقیدت و ہی پیش کر سکتا ہے جو واقعی اس کی دل و جان سے قدر کرتا ہو وہ تاریخی قطعہ یہ ہے:

دے گیا دارع جدائی آہستہ	وہ معظّم وہ مکرّم سیاپ
فخر علم و ادب استاذ زبان	فن کے اسرار کا عصر م سیاپ
وہ مصنف وہ سخنور، وہ مدیرہ	بانی "شاعر" و "پرچم" سیاپ
صاحب وحی کے اب قرب میں ہے	چھوڑ کر دھی مستحبم سیاپ
"ز ر حاث ب ع ر ا حظ م سیاپ (۱)	قادری لکھدو یہ تاریخ وفات

۱۹۵۱

امام غزرا مولانا فضل الحسن حضرت مولانا نے ۱۳ مئی ۱۹۵۱ء کو لکھنؤ میں وفات پائی۔ مولانا کی وفات سے متاثر ہو کر انہوں نے مندرجہ ذیل تواریخ کہیں، جو ماہنامہ "آجکل" دہلی میں جولائی ۱۹۵۱ء کو شائع ہوئیں:—

(۱) یہی قطعہ علامہ سیاپ کے فرزند منظر صدیقی نے لوح مزار پر لکھوانے کے لئے منتخب کیا تھا اور یہی مزار پر کندہ بھی کیا گیا۔ (مقارہ نگار)

## تاریخ وفات مولانا حسروہانی

اک شاعر مکتہ سنج و نقاد و ادیب

بو اور ج شرف تیفیج محترم کے قریب

۱۹۵۱ء

حضرت شیدائی ملک، ہر دل کو جیب

یاری بھل را ب خلد حضرت کو نصیب

۱۹۵۱ء

موت حقیقت زیست کہانی  
دھوپ اور چھاؤں آنی جانی  
آندر زیر زمیں ہے پانی  
اس کی ہستی جادیدانی  
فنی بنی نوع انسانی  
جوشن میں آگ، اخلاق میں پانی  
بُش نہم ان پر حسر بیانی  
ان کا تعزیز دل دہ لاثانی  
نشہ فرزاںی بادہ چکانی  
ششم رینی گل افشاری  
اپنی کہانی ان کی نہ بانی  
اپنے دل کی بات ہی جانی  
پسیری ان کی رشکر جوانی  
کر گزرے جو دل میں ٹھانی!  
رعہ نہ مانا، بات نہ مانی  
دن سے بڑھ کر شب نورانی  
ان پر ہو فصل بیزداںی  
رہ جائے تیری یہ بثانی

اللہ باقی ، باقی فانی  
جیسی دولت ولیسی ہستی  
نقش بر آب اس کو بھی سمجھو  
لیکن جس کی یاد ہے باقی  
ایسے ہی تھے مولانا حضرت  
عزم میں سپھر، عجز میں مست  
شاعر آئیے، نقاد آئیے  
اس کے آگے نام اللہ کا  
لطخ، نڑ، تاثیر اور جادو  
وتح پچ نرمی شیرینی  
بات یہی ہے سب نے سُن لی  
بات میں وہ لذت نہی کہ سب نے  
ملک کے شیدا قوم کے خلوم  
بے نوت ایسے بے باک ایسے  
باطل کے آگے نہ جھکا سر  
ایسے صفا آئیں روشن دل  
 قادری ان کی مرح ہے مشکل  
پورے شعر میں نکلے تاریخ

## پچھے بیڈر۔ ناقد شاعر، ۱۹۵۳ء

+ ۱۰۳۳

## مولانا حضرت مولانی ۹۰۸ (۱) ۱۹۵۱ + ۹۰۸

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب (سابق صدر جمورویہ ہند) جس زمانے میں مسلم نیویورکی علی گڑھ کے والکس چانسلر عقیقے عربی سے بڑا شغفت رکھتے تھے۔ ۱۹۵۳ء میں جب یونیورسٹی کے شعبہ نباتات کی ایک غمارت کا نگہ نبیاد رکھنے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے مولانا قادری کو آگرہ لکھا کہ آپ عربی میں کوئی ایسی تاریخ نکالیں جس میں نباتات کا کچھ حوالہ ہو یا ان کا نام ہو۔ قادری صاحب نے اس موقع پر دو تاریخیں سکھائیں جس میں آسان عربی والی منتخب کر لی گئی۔ تاریخیں یہ یقینیں ہیں :-

۱۱

## هُوَ الْخَالِقُ الْبَارِيُّ قَالُواً الْحَجَبُ وَالنَّوَى

ص ۱۳۷۲

## اسس بیدر اسلامی ذاکر ذاکر حسین

۱۹۵۲ء

۱۹۵۲ع میں بی خواجہ احمد فاروقی صاحب کو دونوں فضیلیتیں ملیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پی اپنے ذی ہوئے۔ دوسرے یہ کہ دہلی یونیورسٹی میں ریڈر کے منصب پر فائز ہوئے قادری صاحب نے دونوں کی تاریخیں "آثار التواریخ" میں یوں تحریر کی ہیں :-

(۱) حاج حسن قادری، مولانا، "تاریخ دفات مولانا حضرت مولانی" "ہجھل" مایہ سارہ دہلی ۱۹۵۱ء ص ۲۱

(۲) حاج حسن قادری، مولانا، "آثار التواریخ" محوالہ بالا، ص ۱۳۶

## تاریخ ڈاکٹری

(۱)

ہزار شکر کپی اپنے ڈی ہوئے خواجہ بڑا صدر ہے بڑی نعمتِ خدا کے احمد  
یہ فی البدیریہ کبھی قادری نے بھی تاریخ کرہا ڈاکٹر ہوئے کیا خوب خواجہ احمد

۱۹۵۳ء

(۲)

## تاریخ ریڈری

نکلا نام اور کام نکلا آئی کیا خوب ریڈری ہاتھ  
تاریخ بھی لو یہ خواجہ احمد حسرما و ثواب دونوں ہیں ساتھ

۱۹۵۳ء

تاریخ گوئی کی ایک صنعت جو بہت مشکل ہے صنعت دائرہ کہلاتی ہے۔ یہ ایک  
الیسی عجیب صنعت ہے جس سے بے شمار تاریخیں نکلتی ہیں۔ عام طور پر یہ دائرہ  
آٹھ خانوں پر مشتمل ہوتا ہے مگر ذہین و طبائع تاریخ بگاروں نے زیادہ خانوں کے  
دارے بھی بنائے ہیں۔ مولانا قادری نے علامہ سیاپ بابر آبادی کی وفات پر سن  
عیسوی اور سن بنجری کے لحاظ سے صنعت دائرہ میں چودہ، چودہ خانوں  
کے دائروں میں تاریخیں کبھی ہیں جو ان کی جدت و جودت طبع کا منظہر ہیں۔ ان  
دوں دائروں سے متعدد تاریخیں نکلتی ہیں۔ مولانہ نے اس کا نام "مجمع تواریخ"  
رکھا ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔

# مجمع تواریخ


۱۳۶۰ھ

## انتقال پیر ملا بیگانہ آفاق علامہ سید جاپ کبر آبادی

۱۹

۶

۵۱



### قاعدہ استخراج تواریخ:

دائرہ کے ۱۲ خانوں میں سے جس خانے سے چاہیں شروع کریں اور جس قدر چاہیں شمارہ کریں (بجز ۲۰، ۲۱، ۲۲ کے اور بجز ۱۳ اور اس کے اضعاف کے اور بجز ۱۵ کے) یعنی ۱۲ سے ۲۱ تک اور سول سے سینکڑوں ہزاروں تک شمارہ کر سکتے ہیں صرف ان اعداد کو چھوٹنا ہو گا جو ۲۱ پر پورے تقسیم ہو جائیں اور صرف ۱۵ کو چھوڑ راجائیگا اس کے اضعاف کو نہیں چھوڑ راجائیگا جس خانے پر شمارہ تمام ہو اس خانے کا لفظ و اعداد

لکھ لیں اب جو عدد شمار کے لئے مقرر کیا ہے وہ اگر طاقت ہو تو خانہ انتہا کو خانہ ایتدا ر قرار دے کر اسی طرح شمار کرنے رہیں یہاں تک کہ سب سے پہلے خانہ ایتدا پر انتہا ہو جائے۔ اس کے بعد شمار نہ کریں۔ اب ان سب اعداد کو جمع کر لیں بھیشہ ان کا مجموعہ ۱۹۵۱ء ہو گا اور اگر وہ عدد جو شمار کے لئے مقرر کیا ہے جفت ہو تو شمار اول جس خانے پر ختم ہوا اس کے بعد کسے خانے سے دوسرا شمار شروع کریں اور اسی طرح شمار کرنے رہیں۔ یہاں تک کہ ایتدا کے اصلی کے خانے سے ایک خانہ قبل پر انتہا ہو جائے۔ اس کے بعد شمار نہ کریں ان سب اعداد کا مجموعہ بھی دہی ۱۹۵۱ء ہو گا۔ البتہ ہر تعداد کے شمار میں صرف سات مرتبہ شمار کرنا پڑے گا۔ (۱۱)

### ۱۔ مثال:

۱۔ تک شمار کریں اور خانہ نمبر ۱ سے شروع کریں تو آگے کی طرف گئنے سے:  
۱۔ کاشمار خانہ نمبر ۱ پر ختم ہو گا اس کے الفاظ و اعداد ہیں۔  
۲۰۰ علامہ سید اب اکبر آبادی

۲۶۰ ۲۔ دوبارہ خانہ نمبر ۱ سے تک شمار کر کے لکھیں مصنف  
۳۔ تیری بار مصنف والے خانے سے ۱ تک  
۱۳۱ ۴۔ چوتھی بار عالم والے خانے سے شمار  
گن کر لکھیں۔

۲۳۶ ۵۔ پانچویں بار اسی طرح شمار کر کے  
۱۰۷ ادیبِ ملک  
لکھیں۔

۶۔ چھٹی بار اسی طرح ادیبِ ملک والے  
۵۶۱ شاعر  
خانے سے گن کر لکھیں۔

(۱۱) حامد حسن قادری، سولانا، "آثار التواریخ"؛ محور بالا، ص ۳۳۔

۷۔ ساتویں بارہ کا شمارخانہ نمبر ۱۱

پر ختم ہو گا جس سے شروع کیا تا وحید زمان

۱۳۶  
۶ ۱۹۵۱

### ۳۔ مثال:

جفت عدد ۱۲ تک اور پہلے نمبر کے خانے سے شروع کریں تو پہلا شمارہ ۱۲  
تک خانہ نمبر ۱۱ پر تماش ہو گا:

۱۔ پہلے شمار کے الفاظ و اعداد پاک باطن

۲۔ دوسرا شمارخانہ ۱۲ کو چھپوڑ کر

۳۔ عالی مناقب ۱۲ سے شروع کریں۔

۴۔ تیرا شمار عالی مناقب والے خانے

۵۔ کامل کامل کے بعد کے خانے سے شروع ہو گا۔

۶۔ چوتھا شمار اسی طرح کامل کے بعد

۷۔ سے ۱۲ تک۔

۸۔ پانچواں شمار بے بد کے بعد سے

۹۔ چھٹا شمار اسی طرح

۱۰۔ سازواں شمار ۱۲ تک پہلے خانہ

آغاز سے ایک خانہ قبل پر ختم ہو گا۔ (۱) جنت مقام


۶۳۲  
۶ ۱۹۵۱

فن تاریخ گئی کی مختلف صنعتوں میں مولانا قادری کی تاریخیں دیکھ کر اس فن میں  
ان کی مہابت تامہ اور قدرت و کمال فن کا اندازہ سمجھی ہو سکتا ہے۔ ذیل میں ہم علامہ  
یحاب ہی کے نئے نکالی گئی ان کی ایک اور تاریخ جوانوں نے صنعت دائرہ  
ہی میں سن، بھرنی کے اعتبار سے نکالی ہے اور اس سے بھی بہت سی تاریخیں نکلتی  
ہیں پیش کرتے ہیں:

(۱) حامد حسن قادری، مولانا، "آثار التواریخ"؟ محوالہ بالا، ص ۳۳۔

# گنبدیہ نہر و میان

۱۳۵۰.۰۵



## قاعدہ استخراج تواریخ :-

یہ ہے کہ نیچے کے تنخے پر جو چودہ چودہ خانے بنے ہیں ان میں سے جس خانے سے چاہیں شروع کر دیں اور جس عدد تک چاہیں شمار کریں (بجز ایک دو تین چودہ اور اس کے اضعاف کے) اور جس خانے پر شمار تمام ہو اس کے عدے لیں۔ ر بالائی تنخے کو لگھا کر اور اس خانے پر لا کر نصف کے عد دریافت ہو سکتے ہیں، اب جو عدد شمار کے نئے مقرر کیا ہے وہ اگر طاقت ہو تو خانہ انتہا کو خانہ ابتداء قرار دے کر ہر بار اسی طرح شمار کرتے رہیں یہاں تک کہ سب سے پہلے خانہ ابتداء پر انتہا ہو جائے۔ اب ان سب اعداد کو جمع کر لیں، ممکنہ ان کا مجموعہ ۱۳۵۵ ہو گا اور اگر وہ عدد جو شمار کے نئے مقرر کیا گیا ہے، جنت ہو تو شمار اول کے خانہ انتہا کے بعد کے خانے سے شمار کریں اور ہر مرتبہ اسی طرح شمار کرتے رہیں یہاں تک کہ ابتداء سے اصل کے خانے سے ایک خانہ قبل پر انتہائے شمار ہو جائے۔ ان سب اعداد کے جمع کرنے سے بھی دبی سن حاصل ہو گا۔ واضح ہے

کہ ہر حالت میں صرف سات مرتبہ شمار کرنا پڑے گا۔ چودہ کے پہاڑے کو چھوڑ کر ہم عدد سے سینکڑوں ہزاروں تک جتنے چاہیں شمار کریں۔

مولانا قادری نے اپنے اسلاف و اساتذہ کرام کے نقش قدم پر گامزن رہتے ہوئے دنیا کے علم و ادب میں فن تاریخ گوئی کو جامہ رکھا۔ ان کے فرصت کے بیشتر اوقات تاریخ گوئی میں صرف ہوتے تھے۔ اپنی کوشش و کاوش سے انہوں نے اس فن میں نئی نئی جدیں بھی پیدا کیں اور اس قدر ہمارت پیدا کی کہ نظر و نشر دونوں پر حادی ہو گئے۔ اکثر غزوں، قصیدوں، رباعیوں اور قطعوں وغیرہ میں بھی کوئی نہ کوئی سهر عہ ایسا رکھ دیا کرتے تھے جو مادہ تاریخ سے پہہ ہوتا تھا۔ اکثر احباب کو خطوط لکھنے وقت ایسے برجستہ قطعے اور رباعیاں بھی لکھنے جاتے تھے جن سے مادہ ہائے تاریخ نکلتے تھے۔ اسی طرح ملاقات میں لفظ کو کسے دوستان بہت سے فقرے اور بصرے مادہ ہائے تاریخ سے مزین ہوتے تھے جس کی أمثال مندرجہ بالا صفحات میں پیش کی جا چکی ہیں۔ یہ توبیہ ہے کہ وہ متکلم مع التواریخ تھے۔

دُورِ حاضر میں بہت کم شعراء دھر توجہ دے رہے ہیں اور اسلاف کی روایات کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ورنہ رفتہ رفتہ یہ فن اٹھتا جا رہا ہے۔ تازہ واردان بساط سخن نہایت سہل پند و سہل انگار ہیں جب کہ فن خون جگر سے نمودار ہے۔ تاریخ گوئی ادبی روایت کی ایک منتقل کردی ہے۔ اگر اسے ناقدری کے ہاتھوں نے توڑ دیا تو جہاں ہم اپنے تابناک ماضی، اسلاف کے دراثتے اور قومی و ادبی سرمائی سے خردم ہو جائیں گے وہاں ہم حال کی نئی اقدار اور مستقبل کی تابناکیوں کو بھی نہ اپنا سکیں گے۔

تاریخ گوئی ایک ادبی امانت ہی نہیں بلکہ یہ ہماری انفرادی و اجتماعی اور سیاسی و معاشرتی زندگی کے بیشتر پہلوؤں کا آئینہ بھی ہے جس میں ہم اپنے متعلقین و مجین، محسین و مخلصین، فائدہ بن و مفکرین اور اکابرین و عوامیوں کے اقوال و افعال اور یادوں و کارگز اریوں کی دلکش تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں اس لئے اس فن کا قائم رہنا ضروری ہے۔

**Marfat.com**

## باب مشتم

# مولانا قادری کی مکتوب نگاری

## مباحث مکاتب، علمی تدبیرت

جن اصناف ادب نے گذشتہ چالیس، پچاس سال کے عرصے میں تھا صی مقبولیت حاصل کی ہے ان میں ایک صنف «مکاتیبی ادب» بھی ہے۔ یہ ایک ایسی صنف اور ایک ایسا فن ہے جس سے ہر مکتبہ، فکر کا آدمی اپنی فہم و فراست کے مطابق خط اٹھاتا اور لطف انداز ہوتا ہے۔

خطوٹ میں انسانی زندگی کے ہر پل پر تنقید، دنیا کے پر ادب پر تبصرہ اور تمام مام موجودات پر آزادی سے بحث کی جاسکتی ہے۔ اس طرح ایک اچھے مکتوب نگار کے خطوٹ میں ہر شخص کو اپنی دل چسپی کا سامان مل جاتا ہے۔ وہ اپنے زور قلم کے ذریعہ اپنی خاص اور نجی باتوں میں بھی عمومیت و تنوع اور زندگانی و دل چسپی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی بھی چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتیں مکتوب رالیہ یا فارسی کیسے ٹڑی اہم اور لطف و تسلیم کا باعث ہوتی ہیں۔

انسان میں نمود دنماش اور ستائش و نیایش کا جذبہ سخون گاتا ہے مگر انسان کی ایک اور خصوصی خواہش یہ بھی ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں اور خامبوں کو پر ڈھنا

میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح یہ خود پو شیدگی بھی ایک فن اور آرٹ ہے جس پر فنکار کو بڑی محنت کرن پڑتی ہے۔ لیکن جو شخص اس فن میں ہمارت رکھتا ہے وہ بات کو ایسی سادگی و برجستگی سے کہہ دیتا ہے کہ پڑھنے والا اس کی ساری گلے جستگی پر خور کرتا رہ جاتا ہے لیکن اس کے لیے جذبات و داردا ت قلبی پر قابو پانے ضروری ہے یہی سبب ہے کہ اس میدان میں صرف وہی لوگ کامیاب ہو سکے جو اپنی قلبی کیفیات و ذہنی تاثرات پر قدرت و قابو رکھتے ہوئے ان کو الفاظ کا جامہ پہن سکے ۔

## مکتوب نگاری کی اہمیت و افادت

مکتوب سے کاتب کی سیرت اور اس کے رُحْجَانَات و خیالات کا جائزہ لیا جاسکتا ہے اور اس دور کی، ادبی، تاریخی، سیاسی و سماجی زندگی کا اندازہ بھی بنخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ مکاتب کے ذریعہ کاتب کے صحیح جذبات و تاثرات ہی نہیں معلوم ہوتے بلکہ ان سے زندگی کے اس مدد و جزر سے بھی آگاہی حاصل کی جاسکتی ہے جس کی عکاسی کوئی تصنیف و تالیف نہیں کر سکتی۔

مولانا حائلی اگر «حیاتِ جاوید» اور «یادگارِ غالب» نہ بھی لکھتے تو بھی رستید اور غالب کے انکار و خیالات اور مزاج و افتاد طبع کا اندازہ ان کے آن خطوط سے بہ آسانی لگایا جاسکتا تھا جو انھوں نے قلم برداشته اور اضطراری طور پر لکھے۔

مکتوب کے ذریعہ ہم مکتوب نگار کو اس کی زندگی کے اصلی روپ میں دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر مولوی عبد الحق صاحب نے اس بات کو مقدمہ «خطوطِ شبیقی میں یوں واضح کیا ہے:-

”خانجی خطوط میں اور خاص کر ان خطوط میں جو اپنے عزیز اور مخلص

دوستوں کو لکھے جاتے ہیں، ایک خاص دل جسپی ہوتی ہے جو دوسری  
تصانیف میں نہیں ہوتی۔ ان کی سب سے بڑی خوبی نے ریاضی پر تکلفت  
کا پردہ بالکل اٹھا جاتا ہے اور مصلحت کی دراندازی کا کھٹکا نہیں رہتا۔  
گویا انسان اپنے سے خود باتیں کر رہا ہے۔ جہاں اندیشہ لاہم نہیں ہوتا  
یہ دلی جذبات اور خیالات کا زوزنا پھر اور اسرارِ حیات کا صحیفہ  
ہے ا۔ پھر کون ہے جو اس خاموش آواز کے سنتے کا مشتاق نہ  
ہو گا۔ یہ ہماری فطرت میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم روز نما مجبوں، آپ  
بیتیوں اور خطوں کو بڑے ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

خطوط کی مقبولیت کا ایک خاص سبب ان کی سادگی و جسمانگی بھی ہے جس کے  
آگے ہزار تکلفات و تضاعفات یعنی ہیں۔ اس قول کی تصدیق ڈاکٹر مولوی عبدالحق  
کے الفاظ سے بھی یوں ہوتی ہے:

”ان میں انسان بچپن کی سی سادگی سے، بلا تصنیح اُن خیالات کو بیان کرتا  
ہے جو اس کے دل و دماغ میں گزرتے ہیں جنہیں نہ انسان کی صنعت  
سخ کر سکتی ہے اور نہ تشبیہات و استعارات کا بوجھ در باسکتا ہے  
گویا وہ کاغذ کے صفحے پر اپنادل درمائع کھول کر رکھ دیتا ہے جس میں ہر  
حرکت، ہر خیال اور ہر تمنا جیسی جاگتی اور گھٹتی بڑھتی منتظر آتی ہے۔<sup>(۲)</sup>

کسی ادیب یا شاعر کے خطوط اس سلیے بھی اہم ہوتے ہیں کہ ان کی مدد سے اس کی

(۱) عبدالحق، بابائے اردو ڈاکٹر مولوی، ”خطوط شبیل“، (مقدمہ)، بحوالہ  
شمس الرحمن (مرتب)، ”اردو خطوط“، فہلی: آزاد پریس، ۱۹۳۴ء۔ ص ۸:

(۲) عبدالحق، ڈاکٹر مولوی، ”خطوط شبیل“، (مقدمہ)، بحوالہ الشمس الرحمن  
(مرتب)، ”اردو خطوط“، محولہ بالا، ص ۹:

ذات کا صحیح حکم نظر آ جاتا ہے، ساتھ ہی اپنے کلام اور تصانیف کے متعلق بھی اس کا اپنا خیال واضح ہو جاتا ہے۔ ان سے اس کی زندگی کے مختلف پسلوں پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ وہ بہت سی باتیں بہت سے لوگوں سے چھپا کر صرف چند خصوصی احباب پر ظاہر کرتا ہے مگر مکاٹیب کی اشاعت پر یہ عام راز ہائے پنهانی اُظہر من اشیٰ ہو جاتے ہیں۔ خط لکھتے وقت اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ خطوط کبھی چھپیں گے اور احباب سے اس کی یہی تکلفی عام ہو کر ایک روز اس کے خلاف ایک بڑا اشتہار بن جائے گی۔

اسی یہی کہا جاتا ہے کہ خطوط کے ذریعہ سیرت کی اہم خصوصیات سامنے آ جاتی ہیں۔ کسی مکتوب تکرار کے قول و فعل، کردار و عمل، ذہنی ارتقا اور زندگی و ماحول کا صحیح علم خطوط ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔

جدید دور کے جدید تقاضوں نے تقد و نظر کے بھی نئے اصول وضع کیے ہیں۔ اب صنعت کی زندگی اور ماحول کا صحیح جائزہ یہ بغیر اس کی تصانیف پر تنقید و تبصرہ کرنا کوئی خاص وقت نہیں رکھتا۔ اور یہ تنقید کے مجاہے تقریظ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ تنقید کی ابتداء خطوط کے ذریعہ بھی ہوئی ہے۔ انگریزی کے تنقیدی ادب کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس میں بہترین تنقیدی ادب خطوط ہی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ چالیں لیمب، یکش، شیلی، باڑن اور ولیم سرپریز لٹ کی ثہرت ان کے مضامین ہی کے سبب نہیں بلکہ ان کے خطوط بھی انگریزی ادب کا مایہ ناز سرمایہ ہیں۔

اُردو ادب کی اس صنعت میں اپنی فراہت و قطانت کے بعد غالب ایک خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔ خطوط میں اگر فطری طنز و مزاج، خوش طبعی و خوش مزاجی بدلہ سنی و بدیہی گوئی، بے ساختگی و برجستگی نہ ہو تو وہ خطوط بے جان ہوتے ہیں اور ان میں عام لوگوں کیے کوئی نظر نہیں ہوتا۔ یہ عام باتیں غالب کے خطوط میں جو جگہ نظر آتی ہیں، غالب کے خطوط میں شگفتہ مزاجی بھی ہے اور بذریعہ سنی بھی بفضلی

طرز و مزاج بھی ہے اور بے ساختگی و برجستگی بھی۔ الفاظ کی تراش، خراش بھی ہے اور معنی آفرینی بھی۔ وہ غم و آلام کے عالم میں بھی زندگی کو زندہ دلی سے بس رکرتے کے قابل تھے اور ہر مشکل کو آسان بنانے کی فکر میں رہتے تھے۔ اپنی رندی و درستی اور اسراف بے جا اور بغیر حمولی اخراجات کے سبب وہ بعض اوقات خود سے بھی بے زار رہتے تھے مگر احبابِ کوائیں کے رنج و االم میں جو خطوط بھیجتے ان میں بھی بڑے مخلصانہ و ہمدردانہ مشورے ہوتے اور ان کے ایک ایک لفظ سے شوخی و بدلہ سنجی پیکتی ہوتی۔ شراب و شاسوی کے بعد غالب کو اگر کسی شغل سے دل چسپی تھی تو وہ صرف خطوط نویسی تھی۔ وہ احباب کے ایک ایک خط کو بار بار پڑھتے اور خود بھی ان کو بڑے ذوق شوق سے خطوط ریکھا کرتے تھے۔

## مکتوبِ تکاری کا آغاز و ارتقاء

جب سے انسان نے اپنی ضرورت کے اظہار کا طریقہ اختیار کیا اور لکھنا پڑھنا پیکھا اسی وقت سے خط کے ذریعہ پیغام رسانی شروع ہوئی۔ ابتدائیں خط بھی صرف ضرورت کے اظہار کے لئے لکھے جاتے تھے جب سے انسان تہذیب و تمدن کی طرف را غصب ہوا مکتوبِ تکاری کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے۔ انسان تہذیب کے عروج و ارتقا میں مذہب اور حکومت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ خطوط نویسی کی ابتداء بھی حکومت اور مذہب کے پیشواؤں کی رہیں ملتی ہے۔ اب تک کی تحقیق بتاتی ہے کہ اب تک خطوط کے جو مجموعے ملے ہیں وہ مذہب اور حکومت کے ہی رہیں ملتی ہیں۔ ان میں یا تو وہ خطوط ہیں جو بادشاہوں نے اپنے ماتحتوں اور حکام کو لکھے یا پھر وہ خطوط ہیں جو مذہبی پیشواؤں نے اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت وغیرہ کے سلسلے میں اپنے ارادت مندوں کو لکھے۔ ان میں مکتوباتِ امام ریاضی اور رقعاتِ علم گیری خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گی افغان خطوط نویسی کو بھی فروع ملا۔ لوگوں کو خط جمع کرنے کا خیال ہوا تو ذاتی و خانگی خطوط بھی شائع ہونے لگے۔ آج دنیا کی بیشتر ترقی یا انتزاعیں میں خطوط کے ایسے مجموعے ملتے ہیں جو نہ صرف مصنعت کی انشا۔ اور اصل قابلیت کا منظہر ہیں بلکہ ان سے ن کے اخلاق و کردار اور ماحدل کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

مکتوبِ نگاری کی ابتداء کے سلسلے میں ڈاکٹر خورشید الاسلام قسم طراز ہیں :-  
 «مکتوبِ نگاری کی ابتداء سلطنتِ روما کے سلسلے میں ہوتی۔ ممکن ہے  
 قدیمہ تہذیب کے دوسرے مرکزوں میں بھی اس سلسلے کے پچھے فروع پایا ہو لیکن  
 یہ بات ثابت نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یونان میں یہ شغل نہ عوام میں  
 محبوب ہوا اور نہ خواص میں۔ شاید اس لیے کہ ان کی شہری ریاستیں  
 سیاسی اور جغرافیائی، حالات کی بنابر سیاروں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔  
 ہر ریاست ایک دنیا تھی شعبوں میں، دریا شن کے میدانوں میں،  
 دوستوں کی محفلوں میں لوگ ایک دوسرے سے مل سکتے تھے۔ دل کے  
 غبار اور سر کے خمار کے لیے راہیں تھیں۔ اپنے یادیں کے علاوہ دوسرے کا  
 وجود لکھنے کے برابر تہادہاں کے بننے والوں سے نہیں اتنی ہی دلچسپی  
 تھی یا ہو سکتی تھی جبکہ عین فرستوں سے ہے یا ہو سکتی ہے۔ فرستوں سے  
 دوستی کے امکانات کم ہیں اور بالفرضِ محال یہ تعلق پیدا ہو بھی جائے تو  
 کیا معلوم کہ وہ ہماری بات سمجھنے کی زحمت گوارا بھی کریں گے یا نہیں

(1) :

یونان چونکہ اس زمانے میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی اور خود کفیل تھی، زندگی کی تمام

(1) = خورشید الاسلام، ڈاکٹر، «خطوط نگاری» (مقالہ) «دنگار»، کراچی (پاکستان)

= ۱۹۷۴ء (سانا سر - اصناف ادب نمبر)، جس ۳۶۱:

آسائیں وہاں موجود تھیں اسی لیے وہاں یہ صنف فروع نہ پاسکی۔ البتہ روم کامعاشرہ دیکھ تھا جو حکومت کا باقاعدہ نظام تھا۔ لاطینی زبان بولی جاتی تھی۔ اس زبان میں ہریں اور سسرود کے مکاتیب میں زدم کی علی زندگی اور معاشرے کی جملک خاصی نمایاں ہے۔ انگریزی میں خطوط نگاری کا آغاز پندرہویں صدی سے ہوا۔ اس دور کے تمام مکاتیب واقعات کی کھتوں ہیں۔ سولہویں صدی کے انگریزی خطوط پندرہ نصائح اور دعوظ و موعظت کے دفتر نظر آتے ہیں اور خطوط کی سی کوئی بات ان میں نہیں ملتی۔ سترہویں صدی میں کچھ اطالوی خطوط کے ترجمے ہوئے۔ انگلستان میں جبیں پاؤں نے بھی خطوط تکھے مگر ان کا انداز بیان اور عالمانہ ہے۔ البتہ اس دور میں ایک شخص جان بیز نگ بھی ہے اس کے بعد میٹن، بیکن، ولیم کوپر، گولڈ استھن کیش، ولیم ہنریٹ، شیلی، گرسے، یا ہرن اور لارڈ چیسٹر فیلڈ اور چارلس لیمب ہیں۔ ان لوگوں کے خطوط میں انسان دوستی کے چند باتی ہدایت تک نمایاں ہیں۔ ان تمام بالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکتب نگاری کا باقاعدہ آغاز روم میں سروتے کیا۔ پھر انگلستان نے اس طرف توجہ دری۔ وہاں خطوط نگاری کا آغاز اطالوی زبان کے خطوط کے ترجموں سے ہوا۔ ان حضرات کے علاوہ ایک خاتون "میری آٹھے ماٹلگ" نے بھی اپنی بیٹی کے نام نیا ایت ریچپ و نسیحت آئین خطوط تکھے ہیں۔ فرانسیسی میں والٹیر وغیرہ کے خطوط بھی نشر کے عمدہ نمونے ہیں۔ ان خطوط نگاروں میں ان کے خطوط زیادہ دلکش و موثر ہیں۔ جن کا اوڑھنا پچھونا ہی علم دارب تھا یا جو علمی زندگی سے کسی حد تک آشنا و باخبر تھے۔

پڑنے کے مکتب نگاری ایک آسان صنفت ادب ہے اس لیے ہر زبان میں یہ ادب لئے ہے ہمارا مقصد اس مقام یہ صرف اردو خطوط نویسی کے آغاز و ارتقا پر بحث کرنا ہے مگر اردو چونکہ فارسی سے متاثر ہے اور فارسی پر عربی کا اثر ہے اس لیے عربی و فارسی میں فن مکتب نگاری کے ابتدائی و ارتقا مدارج کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ اسلام کے عودج کے زمانے میں اس فن نے بہت ترقی کی۔ حضور بنی کرم صلی اللہ

علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے زمانہ نبوت ہی میں خطوط کی ترسیل و ترتیب کا کام شروع ہو گیا تھا۔ غیر مسلم ممالک کے فرمازرواؤں کو دعوت اسلام کے سلسلے میں جو خطوط بھیج جاتے انھیں انسام پردازی میں جمارات رکھنے والے صحابہ کرام ترتیب دیتے اور وہی ان کی حفاظت بھی کرتے۔ حضرت سُرِّ رَضِی اللہُ عَنْہُ نے اس کام کی اہمیت اور طبعتی ہوئی ضرورت کو محسوس فرماتے ہوئے ایک مستقل حکومت انشا فائم کیا۔ خلافت امیتہ اور خلافت عبادیہ دونوں نے اس محکمے میں توجیح کی اور ساتھ ساتھ فین خطوط نویسی کو دہ ترقی دی جو اس سے پہلے اسے کبھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ حکومت کی طرف سے خط لکھنا ایک مستقل اور اہم فن کی شکل اختیار کر گیا جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ برسوں مشت کرتے اور جمارات یہم پہنچاتے تھے۔ مکتوب نگاری کے فن کو عام کرنے کے لیے بلند پایہ انشا پردازوں کے خطوط کے مجموعے شامل کیے گئے۔ مکتوب نگاری کے فن پر مستقل تصانیف ہیا کی گئیں۔ علی طور پر خطوط کی تعریف کی جانے لگی ان کی قسمیں مقرر ہوئیں۔ مثلاً تہنیتی خطوط، تغزیتی خطوط، کاروباری خطوط، قنیہی خطوط، ناصحانہ خطوط وغیرہ اور ہر قسم کے خطوط کے لیے ایک خاص طرز و اسلوب مقرر کیا گیا۔ اس طرح بہت سے بلند پایہ عربی انشا پردازوں و مکتوب نگاروں کے مکاتیب آج بھی عربی ادب کے خزانہ میں محفوظ ہیں۔

جب بغداد پرہواں آیا۔ خلافت عبادیہ کا دور دورہ ختم ہوا۔ تاتاریوں کی حکومت ہوئی اور پھر ایشیا۔ میں مغلوں کا پھر پراہر اسے لگاتوا اس زمانے میں عربی کی بجائے فارسی سرکاری و دفتری زبان بن گئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ فارسی خطوط نگاری کو ایران و فارس سے کہیں زیادہ ہندوستان میں عروج ہوا۔ مکاتیب کے وہ مجموعے جو فارسی ادب میں بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتے جلتے ہیں وہ ایران کے بجائے ہندوستان میں تخلیق کیے گئے ان میں حکومت کے رقعات کے علاوہ صرفیا۔ وُعْفاً علماً و فضلاء اور دوسرے دانشوروں کے بہت سے بھی خطوط بھی شامل ہیں۔ دوسرے لوگوں کے رقعات میں بھی حکومت کے رقعات کی چھاپ ہے اس کا

ایک بڑا سبب یہ ہے کہ مکتبوں اور مدرسوں میں حکومت کے ہی رفعتات پڑھائے جاتے تھے اس وجہ سے ذہن میں وہی طرزِ داصلوب رچ بس گیا۔

فارسی زبان سرکاری زبان ہونے کی وجہ سے تہذیب و ثقافت پر چھائی رہی۔

حامم طور پر خط و کتابت فارسی ہی میں ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی میں خطوط و رفعتات کے بہت سے مجموعے موجود ہیں۔ اردو خطوط نگاری میں بھی ابتداؤ اسی فارسی طرزِ داصلوب کی تقلید و پیرودی کی گئی۔

فارسی خطوط کے سلسلے میں جیسا کہ پہلے معرف کیا گیا کہ ان کی نشوونا حکومت کی آنکھ میں ہوئی تھی جو حکومت کی طرف سے جو خطوط لکھے جاتے تھے ان میں بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ سب سے پہلی بات جس کاشا ہی انشا پردازوں کو خصوصیت سے خیال رکھنا پڑتا تھا یہ تھی کہ خط میں اول نا آخر رکھ رکھا و باقی رہے کوئی حرف الیسانہ ہو جس سے حکومت کی آن بان اور شان و شوکت پر کوئی حرف آئے جو حکومت کی کوئی بھی مکروہی و خامی مکتوب ایسے پڑھا ہر نہ ہونے پائے جس سے اس کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ حکومت کی نظر میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مزید برآں انشا پردازوں نے بھی اپنے علمی دادبی جو پڑھا ہر کرنے اور اشہب قلم کی جوانیاں دکھانے کے لیے مکتوب نگاری ہی کو جوان گاہ بنایا۔ مقولہ مُستحب عبارت و فقروں اور تشبیوں و استعاروں کی عصر مارکے سب مکتوب نگاری میں ٹوپیں و پچیدگی اور تکلف و تصنیع در آیا۔ اور وہ سادگی و برجستگی نہ رہی جو اسی صفت کے لیے لازمی ہے۔

شاہی مکتوبات میں الفاظ و آداب کو بھی بڑی اہمیت حاصل تھی اور وہ بھی بہت طول طویل لکھے جاتے تھے۔ بھی خطوط میں بھی ہر رشته دار اور ہر حیثیت کے ملنے والے کے لیے مجدد احمد القاب مقرر تھے۔ انشا پردازوں میں بھی اپنی جدت طبع کے جو ہر دکھائے بغیر نہ رہتے تھے۔ مکتوبات کے ان مجموعوں میں «مکتوبات امام ربانی»، «غیر معمولی علمی و ادبی اور دینی و معاشرتی اہمیت کے آئینہ دار ہیں» رفعتات

عامگیری، سے بھی بہت سی سیاسی و معاشرتی باتوں کا حلم ہوتا ہے۔ دیگر مکتوّبات میں «پنج رقعت، رقعت ابوالفضل»، «انشادِ دہورام»، اور «بہارِ عجم»، دیگرہ شیر فہرست ہیں۔ رقعت و مکتوّبات کے یہ مجموعے سو حصے تک مکتبوں اور مدرسوں میں فہرست ہیں۔ رقعت و مکتوّبات کے نام جمیع سو حصے تک مکتبوں اور مدرسوں میں جاری رہی اُس طلبہ کے نصاب میں شامل رہے اور جب تک خط و کتابت فارسی میں جاری رہی اُس میں ان کا رنگ صاف جھلکتا رہا اور جب اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز ہوا۔ تب بھی ان کا اثر اس میں نامایاں رہا۔

اردو میں مکتوب نگاری کی ابتداء غالب سے ہوتی ہے۔ انھوں نے ہری اردو خطوط نویسی کی دینا کو بدل۔ غالب کے زمانے میں خط و کتابت سہوٹا فارسی میں ہوتی تھی۔ اردو میں اس فن کا فارسی کی پیروی کے بغیر پروان چڑھانا نہیں تو شکل ضرور تھا۔ اردو کے شعراء و ادباء نے جس طرح درسی اصناف سخن اور افہنات ادب سے استفادہ کیا تھا خطوط نگاری میں بھی اس سے نیض حاصل کیا۔ مگر فرانسی کی تقلید کا اثر اردو خطوط نگاری پر یہ ہوا کہ اس میں بھی وہی شکل پسندی اور عبارت آرائی در آئی۔ جزو فارسی کا اطرافہ امتیاز تھی۔ اردو خطوط نویسی کے ابتدائی دور میں وہی صنائع بدائع کی کثرت مُتفق و مُسْتَحِج عبارت کی بہتات اور شبیهات کی بھرمار نظر آتی ہے جس کے بیشتر نہونے در انسانیتے خرد افراد، «رقعت، عنایت علی، اور دانشانے مُسرود»، میں نظر آتے ہیں۔

غالب اگرچہ اردو خطوط نویسی کی نئی طرز کے مُوحِّد و بانی ہیں لیکن ان کے دوست اور ہم عصر بھی اکثر اسی قسم کے خطوط لکھا کرتے تھے جن کے القاب و آداب نہایت پُر تکلف و پُر تصنیع ہوتے تھے۔ مولوی غلام امام شہید اور خواجہ غلام غوث بیخیز، دیگرہ کے خطوط میں بھی یہی طرز و اسلوب نظر آتا ہے۔ اس دور میں اگرچہ یہ طرز پسندیدہ و مُستحسن تھا۔ مگر وہ لوگ زندگی کو بہت درود سے دیکھتے تھے اور اس کے علمی پیلوؤں کو تظراً نداز کر جاتے تھے۔ غالباً کے دوستوں اور احباب میں بھی یہ روش عام تھی۔

چنانچہ خلام امام شہید اور خواجہ غلام غوث بے تجربہ غالب کے قریبی دوستوں میں تھے ان کے خطوط میں یہی طرز و اسلوب نظر آتا ہے۔ نمونے کے طور پر ہم ذیل میں مولوی خلام امام شہید اور خواجہ غلام غوث بے تجربہ کے خطوط پیش کرتے ہیں تاکہ غالب سے پہلے اور خطوط نویسی کا جو طرز و اسلوب تھا وہ سمجھا جاسکے ہے۔

مولوی خلام امام شہید اپنے ایک دوست کے بیٹے کو والد کی وفات اور اس کی شادی کے موقع پر لکھتے ہیں ہے۔

”مجموعۃ انسار شیرین زبانی، دیباچہ کتاب سُخن معانی زاد حشمت“  
حلم التشریح مراتب اشتیاق و آرزومندی سے تعزیت کے مضمون سے آنسو بھی بہاتا ہے اور کچھ خوشی میں آگر مبارک باد کا مضمون بھی زبان پر لاتا ہے۔

”زمانہ میں خوشی و ختم دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور دنیا میں دھوپ پھاؤں کی طرح شادی کے ہاتھ میں ماتم کا ہاتھ ہے۔ تقدیر نے بیش کو اگر لباس سفید خوشی کا پہننا یا تو شام کے واسطے جامہ سیاہ مانی بنایا۔ حاصل یہ کہ آپ کے والد ماجد نے عین عید کے دن انتقال فرمایا۔ گویا اسی گردش لیل و نہار نے خزان وہیار کا تماشا دکھایا۔ اور اس نغمتے جتنا رُلا یا تھا۔ آپ کی شادی نے اتنا ہی ہنسایا۔ اس افسوس میں آسمان جو ماتمی لباس پہنے تھرا یا تو شفق کی سُرخی نے وہیں خوشی کارنگ مجھی دکھایا۔ رنج میں درہ تھر جو پہلے مُمنہ پر مارا تو پھر خوشی میں وہی دونوں ہاتھ کھا کر یہ دعا مانگی کہ خدا اس مرحوم کو جنت نصیب کرے اور آپ سلامت رہیں اور یہ شادی مبارک ہو۔  
بندہ بھی ادائی رسم فاتحہ خوانی و شرکت محفل شادمانی کے

و اس طے ضرور حاضر ہو گا۔<sup>(۱)</sup> والسلام

مولوی صاحب نے اس خط میں تعریف و تہذیت کا مضمون لکھا ہے اس مضمون کو انسانی جذبات سے قریب رہ کر بات چیز کے طرز میں بھی لکھا جاسکتا تھا لیکن وہ اپنے زمانے کے خاص انداز میں لکھنے کے پابند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عبارت کی زنجیتی و قافیہ پیمائش کو ہاتھ سے نہ جانتے دیا اور اس طرح انسان جذبات پر تکلفات کے پردے پڑے رہے۔ ایک خاص بات یہ کہ خوشی و غم کے ساتھ ساتھ پائے جانے کا ذکر کر کے مضمون تعریف کی اہمیت کو گھٹانا دیا۔ اور شادی و مرگ کو برابر کا حصہ دیا حالانکہ خط لکھنے کا خاص سبب صرف تعریف پر تھی نہ کہ شادی پر۔

اب خواجہ غلام غوث بے خبر کا خط مل اخطہ ہو جو انھوں نے مولوی خلام امام شہید کے دیوان کا دیباچہ لکھنے کے بعد ان کو لکھنا ہے:-

” قبلہ میسر می شو خی دیکھیے ایوسفت گو آئینہ دکھاتا ہوں، خورشید کو روشنی کی حکایت سناتا ہوں، گل نزار میں پھول یے جاتا ہوں۔ ختن میں مشک تھفہ مجھتا ہوں یعنی حضرت کا دیوان مرتب کر کے آپ کے حضور میں پیش کرتا ہوں..... میرے یے اس کا دیباچہ لکھنے کا ارادہ کرنا ایسی بات تھی جیسے ایک فقیر شاہی خزانوں کے اہتمام کا قصد کرے، ایک شیشہ گرہ بہرا تراشئے کی آرزو میں مرسے..... صحرا پونکہ غلبہ شوق میں تمیز باقی نہیں رہتی۔ یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ دیباچہ لکھدیا۔ وہ اس کے قابل کا ہے کوئے آپ کے دیوان پر میرا دیباچہ ایسا ہے جیسے موقع کی لڑائی میں سنگریے کا آؤیزہ لگا ہو۔ زربفت کی قبایل چینیٹ کا حاشیہ لکھا ہو..... ”

(۱) ہشمت الرحمن (مرتب)، ”اردو خطوط نویسی“، دہلی: آزاد پریس، ۱۹۲۰ء ص ۲۵-۲۶

مگر اس نظر سے کہ ہر چیز اپنی فصل سے پہچانی جاتی ہے۔ بدھوُرت  
کے مقابلے میں جیں کے حُسن کو اور رونق ہوتی ہے..... خاطر مشکل  
پسند کر سے تو ہو سکتا ہے۔ بیشک دیکھنے والوں کو اس کی بُراُت سے  
اس کی خوبی زیادہ نظر آئے گی۔ میری خوش طالعی ہے اگر یہ قبول  
ہو۔ اس کے لیے ثابت ہے اگر دیوان میں داخل ہونے کی عزت  
حاصل ہو۔ (۱)

بیخبر کے اس خط کا انداز بھی گذشتہ خط کی مانند ہے۔ اس خط میں اتفاق و  
آداب کا نہ ہونا غالباً کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ بے خبر غالباً کے ہم عصر تھے مگر  
آن سے عمر میں چھوٹے تھے لیکن غالباً ان کا بے حد احترام کرتے تھے اور خطوط  
میں بے خبر کو ”قبلہ“، و ”مولانا“، مکھا کرتے تھے۔ ان کی سخن گوئی کے بھی ایسے  
مذاہج و مُعرف تھے کہ ان کو ایک خط میں لکھتے ہیں: س  
 «رام پور ہی میں تھا کہ اور صد اخبار میں حضرت کی غزل نظر افسر دن  
ہوئی، کیا کہنا ہے! ابداع اس کو کہتے ہیں، چدت طرز اس کا نام  
ہے، بودھنگ تازہ نوایاں ایران کے خیال میں نہ گزرا، وہ تم بروئے  
کار لائے، خدا تم کو سلامت رکھے» (۲)

غالب سے پہلے خطوط میں ایک عام بات یہ بھی تھی کہ بہت سی ادھر ادھر کی  
باتوں کو ملا جلا کر بیان کر دیا جاتا تھا۔ جس میں کوئی ترتیب نہ ہوتی تھی۔ بعض اوقات

(۱) : حامد حسن قادری، مولانا، ”داستانِ تاریخِ اردو“، کراچی: ایجنسیشن  
پرنس، ۱۹۷۶ء، ص ۲۵۰۔

(۲) : عودھنڈی، بحوالہ حامد حسن قادری، ”داستانِ تاریخِ اردو“، محلہ بالا  
ص ۲۷۳۔

نصف خط القاب و آدابِ خیرگوئی اور خیر طلبی کی باتوں میں ہی ختم ہو جاتا تھا اس کے بعد "دیگر احوال یہ ہے" کے بعد خط میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی تھیں جو آج کے اس دور میں زوق سلیمان پر گراں گذرتی ہیں۔ اس میں سے بعض باتیں غالب کے بعد بھی زندہ رہیں البتہ شکل پستہ ہی سے اختناب کیا جانے لگا۔ مثلًا نواجِ حسن نظامی اپنے ایک پر انے طرز کے خط میں رقم طراز ہیں:-

"بحمد رحمت برادر مکرم و معلم حضرت سید حسن علی شاہ زید محب مکم

بعد اداۓ آداب گزارش ہے کہ یہاں پر خیرت ہے اور خیر و عاقیت آں جناب کی درگاہ الہی سے نیک مطلوب ہوں۔ غرض یہ ہے کہ آپ کا خط نہیں آیا۔ نہایت فکر ہے....

المرقم ۸ ربیع الاول، ۱۳۱۲ھ، (۱)

تلار موزی نے اپنے مخصوص انداز میں قدیم طرز خطوط نگاری کا مضمون کیا یوں اڑایا ہے:-  
"امید کہ آن محترم مع الخیر ہوں گے۔ اور اس طرف بھی مردی کم ہو۔  
میں نے تو مخصوص ہمچوں سے دعا کرائی تب جاکر کہیں اس طرف مردی  
قدرتے کم ہوئی ہے۔ اور بھی کتنے دنوں سے تکھر رہا ہوں کہ اگر اس طرف  
خاص گھنی کی فصل شروع ہو گئی ہو تو چند سیر گھنی اپنے بھتیجے کے عقیقے کے  
لیے بیچ دیجئے، کیونکہ یہ تقریب غض خالص گھنی نہ ملنے کی وجہ سے رُکی ہوئی  
ہے۔ خورد و کلان کو درجہ بدرجہ سلام دُعا۔ اور ہاں بھی خوب یاد آئی  
یعنی برادر محترم محمد عالم صاحب سے بعد سلام و اشتیاق ملاقات کہہ دیجئے  
کہ آپ کو بچے بہت یاد کرتے ہیں۔ آخر اس خاص مشوقی کا کیا مطلب؟  
مندرجہ بالا امثال سے قدیم خطوط نویسی کی تمام خصوصیات بخوبی واضح ہو جاتی ہیں:

(۱) شمس الرحمن، "ارزو خطوط، مجموعہ بالا، ص ۳۰

غالب ایک نئے ذہن اور فنی فحیر کے میلن تھے انھوں نے «ادب برائے ادب» کے بجائے «ادب برائے زندگی»، والے مقولے کو اپنا یا۔ یہی سبب تھا کہ انھوں نے بے جا الفاظی اور تصنیع و تکلفت کو خیر پا دکھا۔ محسوب تکاری کی قدیم روشن سے وہ پہلے ہی دل برداشتہ تھے پہلے جب وہ فارسی میں خطوط لکھا کرتے تھے جب بھی اپنی جدت و جودت طبع کے جو ہر دکھائے بغیر رہ رہ سکے اور ان میں بھی ایک منفرد نیازگ داندار اپنائے کی کوشش کی۔ اردو خطوط کی طرز قدیم سے وہ خوش ن تھے جس کا ذکر انھوں نے میر جہدی مجروح دینگر کے خطوط میں جا بجا کیا ہے۔ تکھتے ہیں:-

«میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ ہزار کوس سے بُزبانِ قلم باہیں  
کیا کر دے، ہر میں وصال کے مرے لیا کرو۔<sup>(۱)</sup>

ان کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کیونکہ ان کے خطوط بالکل اس انداز کے ہیں جیسے دو آئی  
بالمشافہ بیٹھے ہوتے مصروف گفتگو ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کے خطوط نے دیلے  
ادب اور خصوصیت سے دنیا شے مکاتیب میں جوانقلاب پیدا کیا اس کے باعث  
قافیہ پنجائی اور پُر تصنیع نامہ تکاری کی روشنی بڑی حد تک موقوف ہو گئی اور اس  
طرح اردو زبان و ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا اور ان کے بعد جہت سے  
نامور و منفرد اریبوں کے خطوط کی اشاعت نے اس صنف ادب کو معبو عروج  
بنگا۔

غرض یہ کہ غالب کے خطوط سے ان کی شخصیت اور زندگی کو سمجھنے میں بڑی  
آسانی ہوتی ہے اور اس زمانے کی تاریخ مرتب کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ان میں  
آن کی خود داری بھی ہے اور خوشاید بھی، رندی و سرستی بھی ہے اور فلسفہ و تصورات  
بھی، شوتجی و نظرافت بھی ہے اور سنجیدگی و سارگی بھی۔ ان خطوط نے مرزا غالب کی

(۱) : «خطوط غالب»، بحوالہ الشمس الرحمن، اردو خطوط، ممولہ بالا، ص ۳۲ :

شخصیت کی اصلی تصویر پیش کر کے ان کی تمام خوبیوں اور خامیوں کو اس طرح واضح کر دیا ہے کہ اب ہمارے اور مزرا غائب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔

اب یہ حقیقت بخوبی واضح ہو گئی ہوگی کہ خطوط انسان کردار کے واضح خدو خال کی جیشیت رکھتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر لکھنے والے کے اصل جذبات و تاثرات ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کے تمام نشیب و فرماز اور مدد و بجزر سے بخوبی آگاہی ہو سکتی ہے جس کی عکاسی نہ اس کی نصیحتیں گر سکتی ہیں۔ اور نہ تایفیات، ڈاکٹر مولوی عبد الحق خطوط کی افادیت و اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”خط دلی خیالات و جذبات کا روزناچہ اور اسرارِ حیات کا صحیفہ ہے۔ اس میں وہ صدقہ اقت و خلوص ہے جو دوسرے کلام میں نظر نہیں آتا۔ خطوط سے انسان کی سیرت کا جیسا اندازہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔“<sup>(۱)</sup>

## مولانا قادری کی مکتوب نگاری

جہاں تک مولانا حامد حسن قادری کی خطوط نگاری کا تعلق ہے ان کے وہ تمام خطوط جو انھوں نے اپنے احباب و ائمۃ اور معاصرین و ملاندہ وغیرہ کو لکھے ہیں۔ مکتوب نگاری کی ان تمام خصوصیات کے حوالی ہیں۔ مولانا کی زندگی ہمارے لیے ایک کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہے جس میں نہ تکلف و تضليل ہے۔ نہ لگ پیٹ اور

<sup>(۱)</sup> عبد الحق، ڈاکٹر مولوی، ”خطوط شبیل“، (مقدمہ) بحوالہ شمس الرحمن،

”اردو خطوط“، محوالہ بالا، ص ۸

نہ نمائش و نیائیش۔ ان کے خطوط بھی دلچسپی و دلکشی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ مولانا قادری اگرچہ مرزا فاٹب کی طرح مراسلت کو مکالمت تو نہ بناسکے اور نہ ہی مولانا شبیل و مہتدی انفادی کی طرح طرز و اسلوب کی شوخیاں و رعنائیاں دکھا سکے اور نہ ہی مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح منطق و فلسفہ کے نکالت کی وضاحت پر مائل ہوئے مگر ان کے خطوط بہت سی ادبی موتونگا فیوں سے پُر ہیں۔ اور بہت سے ادبی مسائل کے حل ان میں موجود ہیں۔ ساتھ ہی یہ خطوط ان کے خلوص دمخت، اندازہ، فکر و نظر اور میانت و سنجیدگی کے بھی آنکھیہ دار ہیں۔

مولانا نے چونکہ خالص مشرقی تہذیب و تمدن میں پرورش پائی ہے اس لئے ان کے خطوط میں حفظِ مراتب جا بجا نظر آتا ہے۔ خردوں کے ساتھ بھی ان کی روشن نہایت مشقانہ و ہمدردانہ ہے۔ وہ ان پر طعن و تشیع کے تیر نہیں برداشتے بلکہ نہایت میانت و سنجیدگی اور دل سوزی و ہمدردی سے ہربات دل نشین کرتے ہیں۔ ان کے جو خطوط معاصرین کے نام ہیں ان میں ان کی اپنی دلچسپیوں اور متأنی زندگی کا ذکر، مسائل ادب پر اظہارِ خیال، علمی و ادبی مباحث پر گفتگو، دوسروں کی غلطت کا اعتراف اور اپنی حاجتی و ایکسادی کا اقرار ہے۔

بہر کیف ان خطوط سے ان کی وسیع النظری، علمی و ادبی فضیلت، تحقیق و تدقیق ثاقبُ النظری، فطرت اور دلیش، فنی شعور اور تنقیدی صلاحیتوں کا پتا چلتا ہے۔ جن کی ہمہ گیر شخصیت و علمیت کے نقوشی اور بھی گھرے ہو جاتے ہیں۔

مولانا فطرت اور دلیش صیقت، صوفی مش اور فنا عنت پسند تھے۔ ان کا دستِ خوان بھی وسیع تھا۔ حاجتِ مندوں کی حاجت برداری اور غرباً کی اعانت کرتے رہتے تھے۔ گھر بھی مہمانوں سے عموماً بھرا رہتا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے خطوط میں اپنی معاشی دشواریوں کا کبھی سمجھوں کر بھی تذکرہ نہیں کیا۔

مولانا قادری نے غیر تو غیر اپنی اولاد تک پر اپنی تنگ دستی کو ظاہر نہ ہونے

دیا جس کی ایک مثال یہ ہے:-

ایک دفعہ ان کے بنجھلے صاحب زادے ماجد حسن فریدی نے جو حلی گردھی لے نہ رکھ  
میں زیر تعلیم تھے مولانا کوئی شیر و ان بیوانے کے لیے خط لکھا۔ ان ڈفون مولانا کا گمرا  
بھی مذہبی تقریب کے سلسلے میں ہمہ ان خانہ عالم بنا پروا تھا۔ اخراجات کثیر تھے مگر مولانا  
نے صاحب زادے صاحب کو فوراً جواب میں لکھا:-

”تمہاری فرمائش موصول ہوئی، اسی ماہ تو نہیں انشاد اللہ آستہ ماہ حافظ  
علام الدین کے یہاں سے شیر و ان سلوک بمحرومی جائے گی“ (۱)

مولانا قادری کی مکتوب نگاری کے سلسلے میں ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی رقم طراز ہیں۔  
” قادری صاحب کی طرح ان کی مکتوب نگاری بھی ان کی شخصیت کا آئینہ  
ہے۔ عصر حاضر کے بہت کم لوگ ہیں جن کے خطوں میں معمول محوں کو جاولی  
بنادیتے کا سلیقہ، بالتوں کا لطف اور روز مرہ کی چاشنی ہو جس شخص  
نے ان کو نہیں دیکھا وہ ان کے خطوں کو دیکھ لے۔ ان کی زندہ شخصیت یا  
فردیت اگر کسی جگہ صاف نظر آتی ہے تو خطوں میں۔ ان کے بے تحفظ  
رُقعوں میں حُسن کا دہ ناز و انداز نہیں ہے کہ وہ خلوت میں بھی نقاب ڈال  
کر آتے اور نہ عشق کی دہ احتیاط ہے کہ بازاڑ میں کبھی رسولانہ ہوتا  
ان کا انداز تحریر ایک عددہ قسم کا شیشہ ہے جس کے ذریعہ ہر چیز اپنے اصلی روپ  
میں نظر آ سکتی ہے۔ تھیج اور آب ورنگ مطلقاً نہیں ہے وہ جو کچھ اثر مرتب کرتے  
ہیں وہ موضوع اور اسلوب کی ہم آمیزی ہے۔

ایک مرتبہ فلا برٹ نے موپاسان سے کہا تھا:

”بات کرنے کے لیے دراصل ایک ہی لفظ ہوتا ہے۔ صفت کو ظاہر کرنے  
کے لیے ایک ہی اسم صفت اور فعل کو ظاہر کرنے کے لیے بس ایک ہی

(۱) خطوط قادری: غیر مطبوعہ، مملوکہ ماجد حسن فریدی آشنی ایڈریٹنگ ٹائمز پرس مولانا

ماجد حسن قادری :

فعل " (۱) "

مولانا قادری کے بیان بھی یہی بات ہے۔ وہ ایک ماہر طبیب اور نباض حکیم کی طرح ایک ایک لفظ کی تبعض کو جانچتے ہیں اور اس کو ایسے مناسب موقع و محل سے استعمال کرتے ہیں کہ اس کی معنویت و اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ۱۲ اپریل، ۱۹۳۶ء کے ایک خط میں کاپیوں کی کثرت کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی کو لکھتے ہیں :-

" میں آج کل کثرت کار سرکار سے بہت پریشان ہوں اور سرکار ایک دو نہیں۔ چھ سات ہیں۔ سب کی بندگی کے لیے وقت کی پابندی ہے " (۲) ایک اور موقع پر ڈاکٹر فاروقی صاحب نے لکھا کہ ایک صاحب کے پوتا ہوا ہے آپ تاریخ کہدیج ہے۔ اس موقع پر اپنی تاریخ گوئی کے متعلق مولانا نے جیسا دریں چھ خط لکھا ہے۔ مل خط ہے :-

" انھوں نے تو کیا تاریخ کو کہا ہو گا۔ آپ ہی کو یہ لپکا پڑ گیا ہے۔ مگر وہ تو کہے مجھے خود اس کا خبطہ ہے۔ اکثر میرے لیے یہ محنت محبت Labour of love ہوتی ہے۔ محض تاریخ کہنے میں مترا آتا ہے۔ کتنی تاریخیں کہتا ہوں مگر کبھی کسی کو نہیں سناتا۔ لکھیں اور رکھ لیں۔ ٹھہلاتا جا رہا ہوں اور تاریخ کہہ رہا ہوں۔ امتحان کی تحریک کر رہا ہوں۔ بات بے بات۔ بدب بدب کہتا ہوں تو اب بات اور سبب پر کیوں نہ کہتا۔ مگر آج کل اصل میں فرصت باکمل نہ تھی۔ کام کے آخری دن ہیں کاپیاں پڑی ہوئیں

(۱) : احمد فاروقی، ڈاکٹر خواجہ، "مولانا احمد حسن قادری" (مقالہ) "نقوش" لاہور: جنوری ۱۹۵۵ء، ش ۲۸-۲۹، (شخصیات نمبر)، ص ۲۸۲

(۲) : ایضاً، ش ۲۸-۲۹، (شخصیات نمبر)، ص ۲۸۲

بین اور لطیفہ یہ کہ امتحان ابھی ختم بھی نہیں ہوئے کہ آئندہ سال کے پڑپے بنانے کو آئے گے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ فوراً آپ کے حکم کی تعییں نہ ہوئی تو پھر نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ سمجھتے میں یہ چند تاریخیں آج ہی تکمکر ختم کر دیں۔ اتوار کے بعد آج خط نہ جاسکا، کل جائے گا۔ ان کے اچھے بُرے ہونے کی ذمہ داری نہیں ماحضر بھٹھئے۔<sup>(۱)</sup>

مولانا قادری کی جن لوگوں سے خط و کتابت تھی وہ زیادہ تراہل قلم اور شاعر و ادیب تھے۔ جن میں پروفیسر شید احمد صدیقی آل احمد رور، عذلیہ شادانی، سید اکبر حسین الہ آبادی، حیرت شملوی، منظہر جبیل شوق، ڈاکٹر محمد طاہر فاروقی، عبد الماجد دریا بادی، وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ مولانا ان احباب کی تخلیقات و تحریرات پر کہیں را دیتے دکھائی دیتے ہیں تو کہیں یہ لگ تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح ان کے خطوط سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انھوں نے شعر و ادب کے عوام ارتقا اور اس کے سنوارے و نکھارنے میں بڑی محنت و لگن اور مستعدی و جانشنازی سے کام لیا ہے۔ ان کو ادبی تحقیق و تدقیق سے جو کچھ حاصل ہوتا وہ اس کو اپنے دوستوں اور احباب کو پہنچانے کے لیے کوشش رہتے تھے۔ بعض موقعوں پر وہ اپنے عمدہ تنقیدی مضامین کی اشاعت بھی اسی سبب سے روک دیتے کہ شاعر پا ادیب کو بار خاطر نہ ہو۔ ۸ مارچ ۱۹۵۷ء کے ایک خط میں حیرت شملوی کو لکھتے ہیں ب۔

”تاریخ و تنقید“، پر آپ نے خوب ریمارکس لکھے ہیں۔ آپ کو اس میں جبیل قدوال کا نام دیکھ کر یہ کیا خیال آیا۔ میں کبھی سے ہرفا اختلاف کی بناء پر اس کی عام خوبیوں پر پانی نہیں پھیر دیا کرتا۔ بلکہ ہمیشہ کہا۔ دل“ سے اعتراف کیا کرتا ہوں۔ دیکھتے میں نے ”تاریخ و تنقید“ کے اس دوسرے ایڈیشن سے وہ (شاعری میں پوری) والامقصون نکال دیا جس

(۱) احمد فاروقی، ڈاکٹر خواجہ۔ ”مولانا حامد سعیف قادری“، محوالہ بالا، ص ۲۸۲

میں جلیل صاحب کا تذکرہ تھا۔ اس لیے کہ اس میں ذاتیات سے بحث آگئی تھی۔ اور وہ وقتی بات تھی۔ میں نے اس مضمون کی دلچسپ بائیں سرقہ و توارد والے مضمون میں لکھ دیں۔ اسی طرح "تاریخ و تنقید" کے پہلے ایڈیشن میں بہت بڑا مضمون سیماں صاحب کے متعلق تھا۔ اس میں ان پر بڑی کڑی تنقید تھی۔ محروم مضمون ان کی فرمائش سے لکھا گیا تھا اور سیماں صاحب نے اس کو "شاعر" میں چھاپا یا بھی تھا۔ مگر اس پر نہایت چتر بڑھ۔ بہر حال میں نے وہ مضمون بھی خارج کر دیا۔<sup>(۱)</sup>

ایک اور خط ریکیعے اس میں مولانا عبدالمadjed دریابادی، نیاز فتح پوری، اور پروفیسر شیداحمد صدیقی کی تنقید پر تنقید کرتے ہوئے حیرت شملوی کو لکھے ہیں:-

"صہقِ جدید" جولائی سے باقاعدہ آرہا ہے۔ میں نے ذکری صاحب کا شعر اور اس کی رادی بخوبی تھی۔ اور دونوں پر رائے قائم کرنی تھی۔ میں آپ کے "حضرت"، دریابادی کی سخن فہمی اور تقاضی کا کچھ  
بہت قابل نہیں ہوں، اگرچہ وہ میرے تھروں کے بہت کچھ مذاح رہے ہیں۔ میری کتاب (نقد و نظر) پر اور میرے دوسرے مصائب پر ۱۹۳۲ء اور ۱۹۴۳ء میں اپنی رائے بھی لکھ پکے ہیں اور چھاپ بھی چکے ہیں۔ دریابادی صاحب بہتر فلسفی ہیں۔ بہتر ادیب ہیں۔ لیکن بہتر نقاد نہیں۔ تاہم ذکری لکھنوی کے شعر کو سراہنے میں مولوی عبدالماجد صاحب دریابادی نے کچھ بہت خلطی نہیں کی۔ داد میں سیال فہر ضرور، ہے۔ لیکن پسند کے قابل ہے۔"

(۱) "خطوط قادری بنام حیرت شملوی" (غیر مطبوعہ)، مملوکہ راشد حسن قادری۔

نیاز فتح پوری کا شعر کو جہل کہنا ان کی حادث میں داخل ہے جب کبھی وہ سنجیدگی اور ہمدردی کے ساتھ خور نہیں کیا کرتے جہل کہدیا کرتے ہیں اور قلطیاں نکال دیتے ہیں جو سراسر غلط ہوتی ہیں۔ جھجڑ، اسقیر، بیلب دیگرہ پر تبصرہ کرنے میں نیاز صاحب نے درجنوں بار شعروں کی معانی ہے<sup>(۱)</sup>

درشید احمد صدیقی سے البتہ تعجب ہے کہ انہوں نے مجلہت میں رائے قایم کر لی۔ خدا جانے آپ نے کیا مکھا کہ انہوں نے کہا کہ «مجھ پر بھی وہی تاثر ہے جو آپ پر» کیا آپ نے جہل بتایا تھا؟ یا احتراف کیا

تمہارا (۱)

مولانا کو ادیبوں اور شاعروں سے فتنی و نظریاتی اختلافات ضرور تھا۔ مگر وہ دل و جان سے ہر ایک کی قدر کرتے تھے یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ جن شعراً و ادبیاء سے ان کو اختلاف تھا ان کے شائع شدہ مضمایں وغیریات پر مشتمل کتب درسائیں ڈھونڈھڈھونڈھ کر اور فرمائش کر کے منٹگاتے، ان کی اہلی تقدید و تبصرہ کو راستے عده شعروں کو بار بار لوگوں کو سناتے اور خود بھی خوب خوب دار دیتے۔ اس کا اعتراض خود سیما ب صاحب بنے بھی کیا ہے۔ اور مولانا قادری نے بھی اس کا ثبوت سیما ب صاحب کی نیزے تحریر تاریخِ دفات نکال کر دیا ہے۔

مولانا شعر و سخن کے کس قدر دل دادہ اور فن و کمال کے اس قدر دان تھے کہ اگر فن و کمال کسی ادنی سے اُنی اور چھوٹے سے چھوٹے شخص میں بھی نظر آتا تھا تو اپنی وسیع القلبی اور وسیع النظری کے سبب داد دئیے بغیر نہ رہتے تھے۔ وہ کلامی کے ایک نو عہر و نو فیکر شاعر عارف سنبھل کے اشعار سے بہت متاثر تھے اور اکثر احادیث کو اس کے شعر سناتے اور کہ کرتے تھے کہ اللہ اس کو نظر پید سے بچائے کہ

(۱) "خطوط قادری بنام حیرت شعری" (غیر مطبوعہ)، مملوکہ راشد حسن قادری۔

اس کم عربی میں ایسے اعلیٰ شعر کہتا ہے۔ ان کا یہ خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ حین عالم شباب میں اُسے بڑی بیداری سے قتل کر دیا گیا۔ اس کی شعری صلاحیتوں کے سلے میں پروفیسر ڈاکٹر مغیث الدین فریدی پروفیسر دہلی یونیورسٹی کو یکم اپریل، ۱۹۵۵ء کے ایک خط میں لکھتے ہیں:-

”اس عرصے میں ایک نئے نوجوان شاعر کا پتا لا۔ کسی نے اس کے چند شعر سنائے ہوتے پسند آئے۔ بالکل رٹکا ہے۔ تو عمر، تو مشق، محروم خوب کہتا ہے۔ لوگوں کو فکر ہے کہ اپنی تربیتوں اور شعروں کو یہ خود بھی سمجھتا ہے یا نہیں اس یہ کبھی کبھی فی الیاد یہ کہلو اکرا منحان بھی لیا گیا اور وہ کامیاب ہوا۔ مشاعروں کے بعض بوڑھے و پُرانے شاعر اس سے جلنے لگے ہیں۔ اس کو شروع میں پڑھوا دینا چاہتے ہیں۔ مگر اب اُستادوں کے شروع میں اش کا نمبر آنے لگا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل شعروں کو دیکھئے اور دار دیکھئے۔ محمد علی شاہ صاحب میکش کو بھی سنائیے۔ بعض شعر بڑے پختہ کہے ہے حالانکہ تعلیم کچھ نہیں، نہ پڑھا ہے نہ پڑھتا ہے۔

جگہ صاحب کی مشہور غزل ہے۔ دفایار، ادا یاد، اس پر اُس نے غزل لکھی اور جگہ کو سنائی کہتا ہے: ۱۶

بہلانہ سکے ہم کو بہاروں کے مقابلہ نہ آنکھوں کو رہی جرم نظارہ کی سزا یاد  
جیرت ہے کہ اتنا سا بچہ یہ مضمون کیونکر پیدا کر سکا۔ دوسرا شعر دسرا غزل کا  
دوسرے زنگ کا ہے مگر کس قدر دل چسپ ہے ۱۷  
یہ بندشیں حجا بہ مجحت کی تلکے نہ اونچا بھی کسیجے کبھی نیچی نگاہ کو  
ایسے اشعار کوئی بچہ کہہ سکتا ہے؟ مگر بچے ہی نے کہا ہے اور اس مطلع کو  
دیکھئے ۱۸

آخر ہنسنا کس کا حق ہے نہ لالہ دھل کا سینہ شق ہے

مجھے بھی حیرت ہے کہ پلا مصروف اس نے کیسے کہہ دیا ہے (۱) مولانا اگرچہ بڑے متین و سنجیدہ اور روایت پرست شخص ہیں مگر جہاں کوئی نہیں اور اچھی بات نظر آتی ہے اس کو سراہے بغیر نہیں مانتے۔ آگے چلکر یہی تو عمر شاعر عارف سنبھل کے نام سے مشہور ہوا اور عین ٹام شباب میں رقابت کے سبب قتل کر دیا گیا۔

قادری صاحب ہماری قدیم تہذیب کا ایک نمونہ ہیں اور اپنے نظام فکر میں معاشری دا خلائق اقدار کا ایک خاص نظریہ و معیار رکھتے ہیں ہذا اگست ۱۹۵۳ء کے ایک خط میں ڈاکٹر نواب جہا احمد ناروی کو لکھتے ہیں:

«مدرس والے ڈاکٹر عبید الحق کا خطاب شاند افضل العلماء بھی ہے۔ مجھے بھی ایک مرتبہ ان کی زیارت کا موقع ملا ہے جسے وہ جامعہ اڑاد کے جلد میں آگرے تشریف لائے تھے، مجھے ایک ادا ان کی بہت پسند آئی۔ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ مولانا احمد حسن صاحب محدث کان پوری رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر صاحب کے والد مرحوم محمدث کان پوری کے شاگرد تھے۔ صرف اس تعلق سے ڈاکٹر صاحب آگرے سے کان پور گئے۔ مولانا متفقور کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور ان کے خاندان سے ملے یہ میں کہ آپ کو لطف آئے گا کہ حضرت محمدث کان پوری مغیث الدین فسریدی کے حقیقی ناما تھے اور لطفِ مزید کا باعث یہ لطیفہ ہو گا کہ حضرت مولانا احمد حسن صاحب میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ عالم محمدث علی پوری روحی فداہ کے بھی اشتدار تھے۔ حضرت صاحب نے کان پور آگرہ اور مولانا صاحب کی خدمت میں رہ کر حدیث شریف پڑھی تھی۔ لطیفہ یہ ہے کہ جب حضرت صاحب آگرہ تشریف لائے اور

(۱) "مکتوب قادری بنام پر فسیر ڈاکٹر مغیث الدین فریدی" (غیر مطبوع)، ملوكہ ماجدی فرید

مولانا عبدالحسن فریدی صاحب مرحوم نے مغیث اور ان کے بھائی کو حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت صاحب اپنے استاد کے نواساں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انتہائی ضعف کے سبب سے ایک آدمی کی مدد سے اٹھتے اور کھڑے ہوتے تھے۔ اور پہلے لڑکوں کو ٹھہرا لیا جب خود بیٹھے ۔<sup>(۱)</sup>

مولانا قادری حضرت قبلہ عالم الحاج حافظ پیر سید جماعت حلب شاہ صاحب محدث علی پوری سے نہ صرف بعثت تھے بلکہ ان کے محبوب و مترب خلفاء میں سے تھے راقم کے والد (حکیم سید قمر احمد) کو بھی اسی دربار سے خرقہ خلافت عطا ہوا تھا۔ یہ مولانا قادری کی اپنی بزرگی اور حسن اخلاق تھا کہ اہل سلسلہ دیار طریقت ہونے کے سبب بڑے لطف و کرم اور خلوص و محبت سے پیش آتے تھے۔ شاید اسی خلوص و محبت اور تعلق روحانی کا سبب تھا کہ دونوں بزرگوں نے ایک ہی سال یعنی ۱۹۴۶ء میں صرف چار ماہ کے تفاوت سے جان جان آفرین کے سپر دکی یعنی احقر کے والد حکیم سید قمر احمد صاحب نے یکم فروردی ۱۹۴۶ء کو رحلت کی تو مولانا کا انتقال ۶ جون، ۱۹۴۳ء کو ہوا۔

عمر کے آخری آیام میں بھی جبے عناصر میں اعتدال نہیں رہتا اور فوی میں اصملا پیدا ہو جاتا ہے۔ مولانا نے قلم کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اخلاق و اخلاص اور تعلقات و فضداری میں ذرہ برابر فرق نہ آنے دیا۔ عرصے سے خود صاحب فراش ہونے اور مسلسل علیل رہنے کے باوجود اس احقر کے والد کی وفات پر تعزیتی خط میں تحریرہ فرماتے ہیں:-

(۱) : احمد زاروقی، ڈاکٹر نزاوجہ "hammadan قادری"، (مقالات)، "نقوش شخصیات نمبر، محوالہ بالا ص ۲۸۱

”حکیم صاحب قبلہ کی وفاتِ حَرَتِ آیات بڑا سخت المیر ہے بے نظیر  
ہستی تھی۔ ہمارے سلسلے میں آگرہ کے قطب تھے۔ اللہ ہے تعالیٰ مغفرت کریے،  
جو اور رحمت میں بھجہ دے اور مراثبِ آخرت بلند فرمائے۔ (آمین)“  
آپ کو جیسا کچھ صد مدد ہو گا اس کا میرے دل پر بڑا اثر ہے۔ میں  
خود کئی ہفتے سے سخت علیل اور صاحبِ فراش ہوں جس کا اثر اس  
تحریر سے ظاہر ہے۔ قلم اور ہاتھ قابو میں نہیں۔<sup>(۱)</sup> (۲)

بہر کیف مولانا قادری کی شخصیت اور تھنا نیف کی طرح ان کے خطوط بھی اردو  
ادب میں ایک خاص اہمیت و افادت کے حامل ہیں جن سے ان کی اعلیٰ ظرفی و  
بلند کرداری اور خلوص و محبت کا پورا پورا ثبوت ملتا ہے این خطوط میں مولانا کی تفات  
سبزیگی بھی ہے، شفقت و محبت بھی، برجستگی و بے تکلفی بھی اور تحقیق و تنقید بھی۔  
ان کے خطوط سے ایسی بات کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے کہ وہ بے تکلفی و سادگی  
اور برجستگی و بے ساختگی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہیں۔ بعض جملے تو ایسے لکھے جلتے ہیں کہ بار بار  
پڑھنے کو اردو بخوبی زہن نہیں کرنے کو جویں چاہتا ہے۔ بھجہ بھجہ اردو و فارسی کے عمدہ جملوں  
کے علاوہ کلام پاک کی آیات کے بھی خواہ دیتے چلتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی لکھتے جاتے  
ہیں تاکہ مکتوب الیہ پر بات بخوبی واضح ہو جائے۔ گاہ گاہ داقعات کو بھی اس انداز  
سے پیش کرتے ہیں کہ ان میں داستان کا سالطف پیدا ہو جاتا ہے۔

وہ ایک بے ریا و با صفا اور مخلص و بے کوت انسان تھے۔ علمی و ادبی دُنیا میں  
انھوں نے خطوط کے ذریعہ بہت سے لوگوں کی ہمت افراٹی کی۔

خطوط کے ذریعہ بھی وہ اپنے ذوق کی تکمیل کا سامان فراہم کر لیا کرتے تھے۔  
اور اس شغل کو بھی وہ اپنے شغل تاریخ گوئی کی طرح ساخت، محبت یا  
--- (۱) ہی سے تعبیر کرتے تھے۔ اپنے مختصر سے خطوط میں بھی ٹھہرے ہوئے Labour of love

(۱) ”مکتوب قادری بنام مُردہ اکبر آبادی“، (غیر مطبوعہ)، مملوکہ مکتوب الیہ:

ادبی مصاہین سعو دیئے گی قدرت و کمال رکھتے تھے۔ وہ ایسے لوگوں سے جوان سے تنقیدی و تحقیقی باتیں دریافت کرتے تھے بہت خوش ہوتے اور ایسے خلطوط کے جوابات کو دیکھتے تامن خلطوط پر فوکیت دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے بہت سے ہم عصر ادیبوں اور شاعروں کے ذوق کو چلا بخشی۔ انہیں ان کی لغزشوں سے آگاہ کر کے ان کے محاسن کو اجاگر کیا۔ اگر کسی ذریعہ سے کوئی ادبی یا تحقیقی بات ان تک پہنچی یا کسی اچھے شاعر کے شعر ان کو سنائے گئے تو یہ ناممکن تھا کہ وہ اپنے احباب اور باذوق تلامذہ سے دور رہتے ہوئے بھی یہ باتیں اور یہ اشعار خلطوط کے ذریعے اپنی اولین فرصت میں ان تک نہ پہنچا سکیں۔ ایسا کرنے کے بعد انہیں جو علمانیت قلبی اور روحانی تسلیکیں ملتی تھیں اس کا اندازہ کوئی اہل ذوق ہی کر سکتا ہے۔ بہر کہیں ان کے خطوط کا دیکش اندازہ تحریر، ان کی خوش طبعی و بندہ سنجی، یعنی تکلفی و جستنگی، ان کی ادبی اہمیت و افادیت ان کو دنیکے مکاتیب میں ہمیشہ زندہ و پائندہ رکھے گی اور وہ ہر دور میں دلچسپی سے پڑھے جائیں گے۔

[Marfat.com](http://Marfat.com)

## باب نهم

# بچوں کے لیے مولانا کی تصنیف

دنیا کی تمام ممتدن اور ترقی یافتہ قومیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور نشوونما کی طرف خصوصی توجہ دیا کرتی ہیں، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ مقولہ رہتا ہے کہ ”آج کے بچے کل کے باپ ہیں۔“ یہی سبب ہے کہ جن اقوام میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف مناسب طور پر توجہ نہیں دی جاتی تو اس کا خمیازہ اس قوم و نسل کو صدیوں تک بھگلتا پڑتا ہے۔ لاائق و فالق والدین اپنے بچوں کے لئے علم و عمل کی دولت ہی بطور سرمایہ دورانہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جس کے سہارے پسمندگان زندگی کے ہر خلا کو پر کر لیتے اور ہر مسئلے کا حل تلاش کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بر عکس وہ لوگ جو اپنے بیٹھے اولاد کے لئے کثیر مال و دولت تو چھوڑ جاتے ہیں مگر ان کی تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ زمانے کی چالوں کو نہیں سمجھتے، وہ اخلاق و گردار اور تمدن و معاشرت کے اصولوں سے بے بہرہ رہتے ہیں اور معاشرہ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔

آج کا دور ترقی یافتہ دور ہے۔ امریکہ و برطانیہ، روس و جرمنی اور چین و چاپان دیگرہ میں بچوں کی نفیات اور ان کی ذہانت و لیاقت کے اعتبار سے بہت سی کتابیں ملتی ہیں۔ اور آئے دن تھی نئی کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں جن سے

ان کے علم و ادب اور تمدیب و شائستگی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ بتدریج ترقی کی طرف گامز نہیں اس لئے ہم کو بھی بچوں کے ادب پر خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

## بچوں کے ادب کی اقسام

بچوں کے ادب کو تین اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱۔ بچوں کے متعلق ادب۔ (۱) بچوں کے مطالعہ کا ادب۔ (۲) بچوں کے لئے لکھا ہوا ادب۔

اس وقت منخر الذکر لیعنی "بچوں کے لئے لکھے جانے والے ادب" کے متعلق پچھوٹ کھندا مقصود ہے۔ یہاں بچوں کے ادب ہے مراد وہ کتب بھی نہیں ہیں جو بلطفور نصاب ان کے کو درس میں شامل ہوتی ہیں بلکہ یہاں بچوں کے ادب سے صرف وہ ادب مراد ہے جو بچوں کے ذہنوں کو چلا بخشنے اور ان کی صلاحیتوں کو تکھات سے، ان کو اعلیٰ اخلاقی اور انسانی درس دے اور زندگی کی اعلیٰ اقدار سے روشنایاں کرائے۔ اگر کسی ادب میں کوئی واضح نصب العین اور اخلاقی بات نہیں ہے تو ایسا ادب بے رفع اور بے فیض ہے۔

بچوں کے ادب کی تخلیق کرتے وقت کسی ادیب اور مصنف کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کی نفیات اور ان کے گرد و پیش سے بخوبی دافعت ہو۔ ساتھ ہی اسے بچے کی عقل و شعور، ذہن و ادراک، قوت، حافظہ، پرواہ خیال اور دلچسپی و معلومات کی حدود کا بھی اندازہ ہو۔ اگر ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ادب تخلیق کیا جائے تو ایسا ادب بچوں کے لئے دلچسپی کا باعث ہونے کے علاوہ ان کو ذہنی بیماریوں اور کمزوریوں سے بھی نجات دلاتے گا۔

بچوں کی ذہنی نشوونما کے لئے انہیں بہت سی باتیں سکھائی و سمجھائی جاتی ہیں اور عملاء کے دکھائی جاتی ہیں۔ جب کہ بعض باتوں سے باز رہنے اور بچنے کی تلقین کی

جاتی ہے۔ ان کے بعض جنبدوں کو ابھارا جاتا ہے بعض کو دبانے کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ لہذا بچوں کے ادب میں وہ خصوصیت لازمی ہونی چاہیے کہ وہ اُنہی مغلومات، عالمہ میں اضافہ کر کے ذہنی نشوونما کر سکے اور اخلاقی درس دے۔

اردو ادب دنیا کے دوسرے ادبوں کے مقابلے میں ابھی کم سن ہے لیکن اس نے جلد ہی جوانی کی منزدلوں کو چھپو لیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا واسطہ جن شعراء و أدباء سے پڑا وہ دوسری زبانوں میں بھی ماہر تھے۔ یعنی عربی و فارسی میں بھی دستگاہ رکھتے تھے۔ جب ہمارے شاعر و ادیب اس زبان کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے بھی چند خیالی کہانیاں لکھیں گے مگر وہ بھی زیادہ تر دوسری زبانوں سے مانوذ تھیں۔ بچوں کے ادب کی طرف بُوں بھی توجہ نہ دی گئی کہ بلند پایہ ادیب چھوٹوں کے لئے چند نظموں اور کہانیوں کی سوچات چھوڑ کر بڑوں کے ادب کی طرف متوجہ ہو گئے۔

اردو میں بچوں کے ادب کی کمی کا ایک ایسا سبب یہ بھی ہے کہ اس کے پیشے پڑنے خور و فکر اور متناسن و سنجیدگی کی ضرورت ہے جس کی پابندی ہمارے بیشتر شاعروں اور ادیبوں کے لئے بھنا بھی کوئی کام ہے۔ اس خیال سے ہمارے شاعر اور ادیب بچوں کے ادب کو قابلِ اعتنائیں سمجھتے اور اس سے اکثر پہلو تھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور خیال جو ہمارے شاعروں اور ادیبوں میں پایا جاتا ہے یہ ہے کہ بچوں کے لئے تو پچھے بی لکھیں بڑوں سے اس کا کیا واسطہ ہے کتنا مضبوط خیز خیال ہے؟ گویا بچوں کا ادب، ادب ہی نہ ہوا کوئی ادنی اور جے کا کام ہوا۔

بچوں کے ادب کی تخلیق بڑا مقدس فرضیہ ہے اور یہ کام بڑے ادیب و شاعر ہی انجام دیا کرتے ہیں۔ کیوں کہ بچوں کے لئے کتابیں لکھنے والے کو بلندی فکر و نظر اور بلندی اخلاق و کردار کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اخلاق دار اور فکر و فن کی آمیزش ہی سے بچوں کے لئے اچھا ادب تخلیق کیا جاسکتا ہے۔ بچوں کے ادب کے اپنے تقدیمے و مقاصد ہوتے ہیں۔ اس کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ بچوں کا ادب تخلیق کرتے وقت

ان تمام خصوصیات کو بروئے کار لانا نہایت فردی اور اہم ہے۔ ان کے بغیر شیخہ خیز اور سبق آموز ادب تیار ہی نہیں ہو سکتا۔

بچوں کے ادب پر مزدیر کچھ لکھنے سے قبل یہ مناسب ہو گا کہ ہم اس امر کا ایک ختصر سا جائزہ لے لیں کہ عام طور پر اردو میں بچوں کا ادب کیس معيار اور کس قسم کا ہے جہاں تک بچوں کے ادب کی ابتداء کا تعلق ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے نظر "خلق باری" اور مرزاغالب کے " قادر نامہ" کی طرف جاتی ہے۔ اگرچہ غالب سے قبل ان کے استاد نظیر اکبر آبادی نے بھی "ریکچہ کا بحث پر" اور "پنس نامہ" وغیرہ نظمیں خصوصیت سے بچوں کے لئے لکھی تھیں اور ان سے اس زمانے کے بچے مخطوط بھی ہوتے تھے لیکن بہ نظر غائر دیکھا جائے تو اس کی طرف خصوصیت سے جن لوگوں نے توجہ دی ان میں مولانا محمد حسین آزاد، ذیٹی نذیر احمد، مولودی ذکاء اللہ، علامہ اقبال اور مولانا اسماعیل میر سعیی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اگرچہ ان بزرگوں نے ادب کے قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کتابیں لکھیں مگر بھر بھی تاریخی کہانیوں پر مشتمل مولانا محمد حسین آزاد کی "قصص السنہ" اور اخلاقی و اصلاحی باتوں پر مشتمل "نصیحت کا گرن مسول" اپنی دلچسپی و دلکشی اور زبان و بیان کے اعتبار سے بڑی اہمیت و افادتیت کی حامل ہیں۔ ان دونوں کا انداز بیان خصوصیت سے بچوں کی پسند و رغبت سے گبرا تعلق رکھتا ہے۔

اس ضمن میں مخدومولانا آزاد کا قول ہے:

"جب تک انسان بچہ نہ بن جائے تب تک بچوں کے مناسب حال کتاب نہیں لکھ سکتا۔ انہیں بار بار کاشتا اور بنتا، لکھتا اور مٹاتا، بُرڈھا بُو کر بحث پر بتا، چلتے پھرتے سوتے جا گئے بچوں ہی کے خیالات میں رہا کرنا جیسیوں ملکہ برسوں صرف ہوئے جب بچوں کے بھلوں نے تیار ہوئے" (۱)

(۱) محمود الرحمن، "بچوں کا ادب" کراچی: نیشنل بک فاؤنڈیشن، ص۔ ۸۱

مولانا محمد حسین آزاد کے اس قول سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بچوں کا ادب بچوں کی نفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا اور بھی بات ان کی کتب کی شہرت و مقبولیت کا سبب ہی۔ آزاد کی تصنیفات کے متعلق مولانا حامد حسن قادری "داستان تاریخ اردو" میں رقم طراز ہیں :

"سرنشتہ تعلیم پنجاب کی ملائمت کے زمانے میں کرنل ھال ایڈ کی فرمائش سے آزاد نے اردو روپیں، قواعد اردو اور قصص المہند مرتب کیں بارہ دن بیان میں اپنی ذرع کی بہترین کتابیں میں بچوں کی دریافت میں ان سے بہتر کتابیں موجود نہ تھیں۔ اور ان کے بعد مولوی اسماعیل میر بخش کے ہوا کسی سے ان سے بہتر نہیں سکیں خصوصاً قصص ہند کی فساحت و دل کشی اور لطفت و ثنا شیر کا آج تک جواب نہ ہو سکا" (۱)

ڈپٹی نذیر احمد کی بعض کتابوں کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ انہیں بھی بچوں کی لیاقت و صلاحیت اور جیلت و فطرت کا اندازہ کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، سو گی وہ بھی اپنی تصانیف کے سلسلے میں خود لکھتے ہیں :

"میں اپنے بچوں کے لئے ایسی کتابیں چاہتا تھا کہ وہ ان کو چاؤ سے پڑھیں۔ ڈھونڈا۔ تلاش کیا، کہیں پتا نہ لگا۔ ناچار میں نے ہر ایک کے مناسب حال کتابیں بنانی شروع کیں۔ بڑی لڑکی کے لئے "مراة العروس"؛ چھوٹی کے لئے "منتخب الحکایات"۔ بشیر کے لئے "چند پند" یہ نہیں کیا کہ کتابیں سالم لکھ لیں۔ تب پڑھانی شروع کیں۔ نہیں، بلکہ ہر ایک کتاب کے چار چار پاپچھے پانچ صفحے لکھ کر ہر ایک کے حوالے کر دیئے۔ مگر وہ بچوں کو ایسی بھایں کہ جیس کو پاؤ صفحے کے پڑھنے کی طاقت نہیں وہ آدھے صفحے کے لئے اور جس کو ایک صفحے کی استعداد نہیں۔ وہ ورق کے لئے

(۱) حامد حسن قادری، مولانا، "داستان تاریخ اردو"، کراچی : ایجوکشن پرنسپل ۱۹۷۶ء، (تمیر ایڈیشن) ص ۳۵۳-۳۵۴ -

ستھجیل تھا۔ جب دیکھو ایک نہ ایک مقاصی کہ میرا سین کم رہ گیا ہے  
میں اُسی وقت فلم برداشتہ لکھ دیا گرتا۔ یوں کتابوں کا پہلا گھان تیار ہوا۔<sup>(۱)</sup>  
اسعیل میر بھی صحیح معنی میں بچوں کے شاعر ہیں ان کی شاعری میں بلندی نہیں ہے  
فلسفہ نہیں ہے۔ ادبی چاشنی بھی نہیں ہے مگر ان کی نظموں میں بچوں کے لئے ایک خصوصی  
کشش ضرور ہے اور وہ کشش ہے "بچپن"۔ ان کی نظمیں پڑھ کر بڑھوں کو بھی  
بچپن کا گزرا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ ان کی نظموں میں سدا بہاری اور ہر دم تازگی کی سکیفیت  
ملتی ہے۔ بھی سبب ہے کہ آج بھی عمر کی ہر منزل میں ان کے اشعار یاد آ جاتے ہیں۔  
یہ اشعار نہ جذبات کی خدّت رکھتے ہیں اور نہ ہی اور دو ادب کی کسی قدیم یا جدید  
روایت کے علم بردار ہیں۔ اور نہ بھی کوئی خاص شاعرانہ فن کاری ہے ان کو دیکھ کر ہر کوئی کہ  
سکتا ہے کہ نہایت سیدھی سادی سی عام فہم بچوں کی سی باتیں ہیں۔ ان میں بچپن والوں کی  
موجود ہے۔ یہ اشعار سماں زبان پر خود بخود آ جاتے ہیں۔ جب کبھی تم ان کو تفسر جائیں بھی  
ذہن میں لاتے یاد ہوتے ہیں تو ہمیں بچپن کا دل کش دل بچپن زمانہ، مکتب کی بہاریں  
اور استادوں کا پڑھانا یاد آ جاتا ہے۔

مولوی محمد اسماعیل میر بھی کے بعد بچوں کے لئے لکھنے والوں میں ایک اور نامیان  
نام حامد اشٹہ افسر میر بھی کا ہے انہوں نے بھی بچوں کے لئے آسان و سادہ زبان میں نظمیں  
اور بہت سے علمی و مغلوماتی مضامین لکھے ہیں۔ درسی کتب بھی ترتیب دی ہیں۔ نظموں و  
مضامین کے علاوہ انہوں نے بچوں کے لئے بہت سی کتب بھی تصنیف کیں جن میں  
"مکاون کی کہانی" ، "آسمان کا ہم سایہ" ، "جانوروں کی عقلمندی" ، "چار چاند" ،  
"وہ سے کی چیل" ، وغیرہ ایسی کتب ہیں جو بچوں کے لئے نہایت مفید اور کارامہ ہیں۔  
آج کے ادیب اور شاعر کا نفیات میں ماہر ہونا ضروری ہے اگر ادیب یا شاعر نے اس طرف

(۱) حامد سعیز قادری، مولانا: ڈاستان تاریخ اردو، گراجی: ایجوکیشن پرنسپس، ۱۹۹۹ء

(تمیر ایڈیشن) ۰ ص۔ ۵۳۸۔ ۳۴۰۔

تجھ نہیں دی تو کبھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے عہد کے تقاضوں اور نفیاتی اندازوں سے بھی سخوبی باخبر ہو۔ بارغ و بہار طسم ہوش ریا، یا الفت یا قسم کی کہانیاں بچوں کو آج بھی پسند ہیں۔ مگر ان کا انداز بدلنا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ آج بھی اسی انداز میں لکھی گئیں تو مقبول نہ ہوں گی۔

آج کے بچے جتوں اور پرلوں کی کہانیوں کی بجائے سرائع رسانی اور ہم جوؤں کی کہانیاں تیادہ پسند کرتے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے سائنس کے دور میں آنکھ کھولی ہے اس لئے وہ جنوں اور پرلوں کی کہانیوں کو پسند نہ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے ادب کو روایتی ماحول، فرسودہ خیالات اور بے سرو پا اقسامی طرز سے گریز کرنا پڑتا ہے۔ لہذا بچوں کے ادب میں ان کے مزاج و نفسیات سے ہم آہنگ لاذمی ہے۔

مولانا قادری نے جس زمانے میں آنکھ کھولی اس زمانے میں عربی و فارسی کا رواج عام تھا۔ لوگ انگریزی تعلیم سے نفرت کرتے تھے۔ انگریزی تعلیم کو اخلاق و معاشرے کے لئے مضر تصور کیا جاتا تھا۔ ہندوؤں نے انگریزی تعلیم کی طرف توجہ دی اور اس کے سبب عہدے و مناصب حاصل کرنا شروع کر دیئے جبکہ مسلمانی اس طرف توجہ نہ دیئے کے سبب رہاثی پرستیاں میں گھرے رہے۔ آخر انہیں ان معاشی پرستیاں کو دور کرنے کا طریقہ یہی نظر آیا کہ جدید تعلیم کی طرف توجہ دی جائے۔ سرستیدھی اس راست سے سخوبی واقعیت ملے۔ تھا کہ انہوں نے بھی اپنی تحریک کے ذریعہ مسلمانوں کو جدید علوم سے آگاہ ہوتے اور جدید تعلیم کو حاصل کر کے آگے بڑھنے کی طرف توجہ دلانی۔

مولانا قادری نے جب تعلیمی و تدریسی کاموں کی طرف توجہ دی تو انہوں نے دیکھا کہ انگریزی میں بچوں کا ادب بڑا وسیع اور وقیع ہے اور ایک خاص بات انگریزی ادب میں انہیں بہی نظر آئی کہ انگریزی کے ہر اچھے شاعر و ادیب نے بچوں کے ادب کی طرف خصوصیت سے توجہ دی ہے۔ علاوہ ازیں مغربی ممالک میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہاں کے اخبارات و رسائل بھی بچوں کے ادب کو فروض دینے میں

محل سرگرم عمل رہتے ہیں۔

## مولانا قادری اور بچوں کی نفیات

مولانا فات دری ایک معلم ہونے کے سبب بچوں کی نفیات اور عادات و خصائص سے بھی بھوپال کا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں وہ آزاد و نذیر، حالی و اقبال اور مولوی محمد اسماعیل میر حنفی کی کوشش کو بھی بڑی و قوت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ اول اقل انہوں نے انگریزی کہانیوں اور نظموں کے ترجیح کی طرف توجہ کی ان کی ان نظموں میں نصائح و تکلیف کی بجائے سادگی و صفائی اور حقیقت نگاری نمایاں ہے۔

مولانا قادری نے اپنی عمر سے ہی بچوں کے لئے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے والد مولوی احمد حسن صاحب وکیل ان کی تعلیم کا خاص خیال رکھتے تھے اور ان کو اکثر اپنے دفتر میں بلا لیا کرتے تھے جہاں مولوی صاحب تو اکثر اپنے موکلوں کی طرف متوجہ ہو جاتے اور مولانا قادری بچوں کے لئے قصے کہانیاں لکھنا شروع کر دیتے اس طرح انہوں نے اس قدر مشق بہم پہنچا فی کہ بچوں کے لئے اپنے خاصے مضمایں اور قصتے کہانیاں لکھنے لگے۔

شروع شروع میں انہوں نے جو کتابیں لکھیں وہ اگرچہ مختصر تھیں مگر بچوں کے لئے بڑی دلچسپ اور سبق آموز تھیں۔ بچوں کے ادب کے علاوہ اسکو لوں اور کالم جمل کے نصاب کے لئے بھی انہوں نے کہی درسی کتب ترتیب دیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔

## بچوں کی فطرت کے مطابق مولانا کی تخلیقات

- ۱۔ بچوں کی ڈالی، ۲۔ گذری کالال، ۳۔ بہت کا پھل، ۴۔ تراز، ۵۔
- ۵۔ گشیدہ طالب علم، ۶۔ گلدستہ اخلاق، ۷۔ ابراہیم پنکن، ۸۔ حسینیں

۹۔ رفیق تہائی، ۱۰۔ سوتھے کا نوالہ، ۱۱۔ حسن سچپی، ۱۲۔ کاغذ کے چکونے،  
 ۱۳۔ جادو گرنی، ۱۴۔ پادر رسول، ۱۵۔ طلبی صندوق، ۱۶۔ نقلی شہزادہ،  
 ۱۷۔ طلبی برج، ۱۸۔ سچی کہانیاں، ۱۹۔ طلبی گڑیا، ۲۰۔ مرے داراللطفی،  
 ۲۱۔ بہادری کے قصتے۔

بچوں کے ادب کے فردعغ میں بچوں کے رسائل کا بھی بڑا کردار رہا ہے۔ مولانا  
 کی بھی اکثر نظمیں اور کہانیاں، پھول، گلہستہ پایام تعلیم، غنچہ اور سعید میں شائع ہوتی  
 رہیں۔ ان سب کا مقصد بچوں کے دلوں میں مطالعہ کا ذوق پیدا کر کے اخلاقی اقدار کو فروغ  
 دینا تھا۔ ”پھول“ ۱۳، اکتوبر ۱۹۰۹ء کو لاہور سے نذر الباقر کی ادارت میں جاری ہوا  
 اور ۱۹۵۷ء تک باقاعدگی سے ہر ہفتے شائع ہوتا رہا۔ اس کے بعد بچوں کے کئی اور  
 اخبار و رسائل مثلاً اخبار سعید، غنچہ اور پایام تعلیم وغیرہ شائع ہونا شروع ہوئے بلکہ  
 زبان و بیان اور گتابت و طباعت کے اعتبار سے جو معیار ”پھول“ نے قائم کر لیا تھا  
 دوسرے رسائل اس تک نہ پہنچ سکے اس سلسلے میں خواجہ غلام عباس لکھتے ہیں:

”پھول ایک اخبار یا رسالہ ہی نہیں تھا بلکہ وہ ایک ایسا

ادارہ تھا جو توہباؤں کے دلوں میں علیٰ لگانے لگاتا، اخلاق کو سنوارتا، اور

ان میں ادب کا ذوق پیدا کرتا تھا۔ ان کے ذہنوں کی تربیت کرتا اور انہیں

آسان و سلیس زبان میں لکھنا سکھاتا۔ اس رسالے سے ایڈبیروں کو بھی

تربیتی بھی۔“ (۱)

نذر الباقر کے بعد مولوی سید ممتاز علی اس کی ادارت کے فرائض انجام دیتے رہے  
 اور اپنی کوشش و کاوش سے اس کو خوب سے خوب تر بنانے کی جیتوں میں رہے۔ ان  
 کے اس مضمون سے جو انہوں نے پھول کے مصنفوں نگار حضرات کی توجہ کے لئے بکھارتا  
 اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ وہ بچوں کے لئے کس قسم کا ادب

(۱) غلام عباس، خواجہ، ”انتخاب پھول“، (دیباچہ)، ص ۱۱۔

چاہتے تھے اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں :

" پھول میں وہ مضمون نہیں چھاپے جاتے جن میں مشکل الفاظ یا مشکل خیالات ہوں یا بے جام بالغہ ہو۔ بہت سے مضمون نوں آسان لفظ تو لکھ دیتے ہیں مگر یہ خیال ذرا نہیں کرتے کہ جو باقی انہوں نے لکھی ہیں یا جو خیالات انہوں نے ظاہر کیے ہیں ویسے خیالات بچوں کے دماغ میں بھی کبھی آتے اور ویسے لفظ ان کی زبان سے کبھی بولے بھی جاتے ہیں، یا کوئی بچہ اپنی بول چال میں اتنا مبالغہ کبھی کرتا ہے؟" (۱)

بچوں کے ادب کی تخلیق کے سلسلے میں مولانا کاسب سے بڑا ادب اہم کارنامہ "اخبار سعید" ہے اس پر چھے سے متاثر ہو کر دوسرے بہل علم و اہل قلم حضرات نے بھی اس طرف توجہ دی اس سلسلے میں مولانا ر قم طراز ہیں :

" ۲۸ برس سے زیادہ ہوئے ہیں نے کان پور سے بچوں کا ایک پندرہ روزہ پر چھٹے "اخبار سعید" کے نام سے جاری کیا ہے اور مارچ ۱۹۱۸ء کو پہلا پرچہ نکلا اور تقریباً سات برس جاری رہ کر ۱۵ دسمبر ۱۹۲۳ء کے پرچے کے بعد بند ہو گیا ہے" (۲)

## مولانا کا پیغام اور بچوں پر اس کے اثرات

مولانا نے جس زمانے میں سعید جاری کیا اس وقت تمام سندھستان میں بچوں کے لئے صرف ایک رسالہ "بچوں" لاہور سے نکلتا تھا۔ اگرچہ بچوں سے قبل بھی کئی اور پرچے نکلے تھے مگر وہ جاری نہ رہ سکے اور جلد ہی بند ہو گئے۔ ان میں "بچوں کا اخبار" لاہور اور عزیزی پر لیں آگرہ سے شائع ہونے والے بچوں کے ایک ماہنامہ "عزیزی" کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ یہ رسائل بھی تھوڑے

(۱) ماہنامہ۔ بچوں۔ ادارہ۔ ن۔ م۔  
(۲) حافظ قادری۔ مولانا۔ "بچوں کی ڈالی" ہر چھٹے پر لیں، ۱۹۴۸ء اور دیباچہ)، ص ۱

عرصے زندہ رہنے کے بعد دم توڑ گئے لیکن یہ مولانا کے "سعید" کی برکت ملتی کہ "سعید" کا اجسراہ ہوتے ہی دو تین سال کے اندر کئی پرچے شائع ہونا شروع ہو گئے۔

"اخبار سعید" میں مولانا نے رسائل کی عامدگر سے ہٹ کر پہلے اداریہ بخشنے کے بجائے حمد باری تعالیٰ سے رسالت کا آغاز کیا۔ حمد کے فوراً ہی بعد اسی نظم کے آخر میں "اخبار سعید" کے اجسراہ کا مقصد بیان کیا اور بعد میں اداریہ لکھا جو مندرجہ ذیل ہے:-

"ہم نے یہ "سعید" صرف تمہاری تفریح اور دل بہلانے کے لئے نکالا ہے۔ تم اسکو مدرسی اور مدرسی میں پڑھتے ہو۔ جب مدرسے سے آتے ہو تو کچھ لکھا پی کر، کھیل کو دیں میں صروف ہو جاتے ہو۔ کھینچنے کے بعد مدرسے کا سبق یاد کرتے ہو، اس کے بعد جو وقت بچتا ہے۔ اس میں تم چاہتے ہو کہ ایسا کام کرو کہ جس میں دل لگے اور تفریح ہو۔ اس وقت تم ڈھونڈتے ہو کہ کون قصہ کہانی کی کتاب یاد لچپ اخبار میں تو اسے پڑھو..... ہم نے یہی دیکھ کر کہ بچوں کو دلچسپ اخبار اور اچھی کتابوں کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ "اخبار سعید" جاری کیا ہے جو جیسے میں دوبار پہلی اور پندرہویں تاریخ کو چھپا کرے گا۔ اس میں مزیدار کہاتیاں، عمدہ لطیفے، دلچسپ باتیں، اچھی اچھی نظمیں اور نئی نئی خبریں چھپیں گی۔" (۱)

ہفت روزہ "سعید" کے اجراء سے مولانا کا اصل مقصد یہی تھا کہ بچوں کی علمی و ادبی اور ذہنی ذرکری اصلاح ہو۔ وہ اس کے مضمایں و منظومات سے اخلاقی سبق حاصل کریں۔

(۱) حافظ قلدری، مولانا، "اخبار سعید" کاپور: ۱۵ ماہر ۱۹۱۸ء (اداریہ)، ص ۳۔

سعید کی پندرہ گی اور مقبولیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ علامہ اقبال جیا مفتر  
و دانشور بھی اس کو دیکھ کر بہت تاثر ہوا۔ علامہ اقبال بچوں کی تعلیم و تربیت کو صحیح  
خطوط پر استوار کرنے کے حامی تھے۔ انہوں نے خود بھی بہت سی نظیں بچوں کے لئے  
تحریر کیں لہذا مولانا کے "سعید" کو دیکھ کر ان کا متاثر ہونا لازمی تھا۔

علامہ نے اس پڑپتے کو دیکھ کر مولانا کی خدمات کو سراہتے ہوئے لکھا:

"خبر سعید" میں نے دیکھا، بچوں کے لئے نہایت مفید

ہے۔ زبان نہایت سلیمانی اور سادہ ہے اور مطالب بھی بچوں کی سمجھتے

بالاتر نہیں میں ہے" (۱)

اسی طرح سعید اکبر ابادی نے بھی اپنی رائے کا اظہار یوں کیا ہے:

"پڑپتے سعید بے شک بچوں کے لئے بہت اچھا ہے۔

بڑی خوبی یہ ہے کہ خطاط جملی میں نہایت روشن اور صاف چھپا ہے" (۲)

اس طرح مولانا قادری نے بچوں کی ذہنی نشوونما کر کے ان کو شعور دادرا کی  
کی ان منازل تک پہنچا دیا جہاں وہ خود بُرے اور بُھے کا فیصلہ کر سکیں۔ انہوں  
نے سعید کے ذریعے ایسا اعلیٰ اخلاقی و اصلاحی ادب پیش کیا کہ بچے معاشرہ  
کا ایک اعلیٰ فرد بن سکیں۔

## مولانا کی تعلیمی بیفت

مولانا چونکہ اول و آخر معلم تھے۔ ان کی زندگی کا بہترین مشغله یہ لکھنا، پڑھنا  
اور پڑھانا تھا۔ اس سے بچوں کے ادب اور دیگر ادبی تصانیف کے علاوہ انہوں

(۱) حامد حسن قادری، مولانا، "خبر سعید" کا ناپور : ہمارا ماتحت شمارہ ۱۹۱۵ء

(۲) مکتوب علامہ اقبال نام مولانا قادری)، ص ۱۳۰۔

(۳) ایضاً (مکتوب اکبر ابادی، نام مولانا قادری)، ص ۱۳۰۔

نے بہت سی درسی و تدریسی کتب بھی ترتیب دیں جو عرصہ دراز تک ہندوستان کے اسکولوں و کالجوں میں پڑھائی جاتی رہیں۔ ان میں سے چند درج ذیل میں :-

- ۱۔ ہلائ اردو (۲) جال اردو (۳) نیال اردو (۴) منظر اردو ،
- ۵۔ چنستان اردو (۵) دامن گچیں (۶) داستانِ رستم و سہرا ب.

Encyclopaedia of Britannica, Volume 15 William Benton. - ۸

- ۶۔ انتخابِ مراثی و آنیس و دبیر (۷) آندر کے و تصریحے (۸) نقشِ تازہ ،
- ۷۔ حرفِ نو۔ (۹) ادبی مقامے (۱۰) عیارِنظم ، (۱۱) بی۔ اے پرشین کورس (۱۲) تاریخ و تقید (۱۳) تاریخ مرثیہ گوئی (۱۴) مطالب بیرت و تصریحہ مصنفانِ عجم و بنہ ،
- (۱۵) ابڑا سیم لکن ، (۱۶) داستانِ تاریخ اردو - (۱۷) نقد و نظر۔

مولانا قادری نے درسی کتب کی ترتیب پر بھی خصوصیت سے توجہ دی۔ ان کی درسی کتب کی مقبولیت کا اندازہ اس لمر سے ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز تک یہ کتابیں پاک و ہند کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل رہیں۔ آج بھی مولانا کی کئی کتب پاک و ہند اور جہاں جہاں اور جس جس ملک میں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے وہاں کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہیں۔

بنیادی:

[Marfat.com](http://Marfat.com)

## مولانا قادری کی شرکتگاری

### مولانا قادری کی اولیات:

مولانا قادری نے اپنی جبوٹ کتاب "داستان تاریخ اردو" میں میرزندہ علی درد کا کورڈی کے حوالے سے اس بات کا انکشافت کیا ہے کہ دکن کی ان تصانیف سے بہت پہلے شمالی ہند میں سید اشرف جہانگیر سمنانی نے (جس کا مزار کچھوچھے شریعت، ضلع فیض آباد، لکھنؤ میں ہے) اردو میں ایک رسالہ اخلاق و تصوف پر ۱۳۰۸ھ میں تصانیف کیا تھا۔

اس سلسلے میں میرزندہ علی درد کا کورڈی رسالہ "نگار" بابت دسمبر ۱۹۲۵ء میں لکھتے ہیں :

"سید اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے سلسلے کے ایک بزرگ مولانا وجیہ الدین کے ارشادات کو اردو زبان میں جس کو اس زمانے میں زبان ہندی کہا کرتے تھے خود جمع کیا ہے۔ میں نے اپنے ایک بزرگ کے پاس خود اس کتاب کو دیکھا ہے۔ یہ قلمی کتاب ۷۰۷ صفحہ کی ہے۔ اس کے صفحہ ۱۱ کی ایک عبارت کا مکرہ ایسے ہے:

"اے طالب آسمان نہ میں سب خدا میں ہے۔"

مُوا سب خدا میں ہے جو تحقیقِ جان اگر تجوہ  
میں کچھ سمجھو کا ذرہ ہے تو صفات کے باہر بھیز

سب ذات ہی ذات۔" (۱)

(۱) حامد حسن قادری، مولانا، "داستان تاریخ اردو"، کراچی: ایجنسی کمپنی پریس، اردو اکیڈمی (ناشر)، ۱۹۶۶ء۔ ص ۴۳۰۔

اول اَوْل اس انکشاف اور اس دعے پر شکوہ و شہباد کا اظہار کیا گیا  
استاذی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب نے بھی جب ان سے ذاتی طور پر  
اس کے متعلق استفسار کیا تو وہ کوئی خاطرخواہ جواب نہ دے سکے لیکن اب مُؤرخین  
ادب نے تسلیم کر لیا ہے کہ سب سے پہلا نتیری رسالہ جل کا اب تک علم ہو سکا ہے  
وہ یہی ہے چنانچہ اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ اردو کی پہلی نتیری کتاب میداشرف جہانگیر  
سمانی کا رسالہ "دربارہ اخلاق و تصرف" ہے اور پہلی مطبوعہ کتاب حضرت خواجہ بندہ  
زاڑ گبیود راز کی کتاب "معراج العاشقین" ہے۔ اردو کی ابتدائی نتیری کتابوں میں<sup>۱</sup>  
"شرح مرغوب القلوب" مصنفہ حضرت شاہ میران جی (۱۲۹۷ھ/۱۸۷۰ء)، کلمۃ  
الحق" مصنفہ شاہ بُرہان الدین جانم (۱۵۸۲ھ/۱۶۲۵ء)، "شرح تمہید ہمدانی" مصنفہ  
شاہ امین الدین اعلیٰ بیجاپوری (۱۰۸۶ھ/۱۶۷۵ء)، "شرح تمہید ہمدانی" مصنفہ  
حضرت میران صاحب خدانا نما (۱۰۷۰ھ/۱۶۵۹ء)، "احکام القبلۃ" مولیٰ  
عبداللہ معاصر قطب شاہ (۱۰۳۶ھ/۱۶۲۴ء)، "سب رس" ملا وجہی (۱۰۸۳ھ)  
میں۔

### ابتدائی نتیری کتب پر عجمی نبرہ

## پہلا دور

ابتدائی نتیری کتابوں کا موضوع اخلاق، تصورات اور مذہب ہے۔ اس لئے یہ  
عام دلچسپی سے خالی ہیں لیکن علم اللسان کے طالب علم کے لئے اردو کی عہد بہ عہد تھی۔  
اور سانی تبدیلیوں کی ان سے واضح نشاندہی ہو جاتی ہے مولانا احسن مارہروی ان  
کتابوں اور اس عہد کی اردو کی سانی خصوصیات کے متعلق لکھتے ہیں :-  
"مرقومہ" بالا آدوار میں جتنے نو نئے پیش کیے گئے وہ سب  
دکنی اردو کے نو نئے کہے جاسکتے ہیں۔ ان کے زبانی تغیرات کا انتخاب

اور زیانی تبدیلوں کا شمارہ صرف شمالی ہند کے لئے بلکہ خود جنوں بی ہند کے واسطے مفید وقت نہیں کیونکہ مدت دراز سے یہ انداز بیان دکن میں بھی مفقود و متروک ہے تاہم ان نمونوں سے چند الفاظ اقتیاس کر کے یکجا لکھے گئے ہیں جن سے ہر دور اور عمد کے خصائص امتیازی معلوم ہو سکیں گے۔

یہ معلومات وقتی لحاظ سے شاید کار آمد نہ ہوں لیکن تاریخی نقطہ نگاہ سے یقیناً بصیرت افزد ہیں:-

مقررہ شمار کے لحاظ سے یہ دور تین صدیں تک پہنچنے ہوئے ہیں۔ مگر ان زمانوں کی زبانوں میں کوئی بین اور ما بہ الامتیاز فرق نظر نہیں آتا ہے۔ بجز اس کے کہ ایک دو کے مقابل میں دوسرے کے دور میں بعض الفاظ کی کمی بیشی ہو گئی ہے۔ تیرے کے دور کی کتاب ”سب رس“ کا انداز بیان اپنے متقدم نمونوں سے ضرر جدا نظر آتا ہے۔ اور اس کی مقصی اور صحیح عبارت پڑھ کر کہا جا سکتا ہے کہ شمالی ہند میں جب اردو نشر نویسی کی ابتداء ہوئی ہوگی تو اغلب اسی قسم کا تقليدی نمونہ سامنے رکھا گیا ہو گا۔ باہم بہرہ اس کی زبان بھی بہت قدیم ہے۔ سینکڑوں الفاظ اور بہت سے محاورے ایسے پائے جاتے ہیں جو اس وقت سمجھو میں نہیں آتے۔ محاورات وغیرہ کی اجنیت کے علاوہ زبان کی صرف وسحو میں بھی اس وقت کی زبان سے بہت فرق ہے جس کی چیز مثالیں حسب ذیل ہیں:

۱۔ اکثر عربی الفاظ کے املأ کو سادہ کر دیا ہے یعنی جس طرح سے یوں جلتے تھے۔ و بیسے ہی لکھ دیے ہیں۔ جیسے نفع کو (نفا) وضع کو (وضا) یا (وزا) واقعہ کو رواقاً منع کو (منا) وغیرہ۔

۲۔ مونث میں فعل کی جمع جیسے اصل ہوتاں یا تیان ہیں۔ دین و ایمان یعنی ایمان

ہیں۔

۳۔ اضافت کی جمع کی کے عوض (کیاں) اس کی، کور (اسکیاں) وغیرہ۔

۴۔ جتنی، ایسی جیسی کی جمع (جتنیاں، ایساں، جیسیاں) وغیرہ۔

۵۔ "کر" کا استعمال جیسے دانا ہنسا رہنا کر جانے گا۔ اگر یوں گا دشمن کر جانے گا۔

۶۔ "سی" مستقبل کے لئے جیسے خدا کو اس نظر سے دیکھیا ناجاہی (دیکھنا چاہیے) اور دو الفاظ کی تکرار سے جو معنی تام و کمال کے پیدا ہوتے ہیں جیسے گھر گھر در در، وغیرہ۔ قدیم دکنی اردو میں ان دو لفظوں کے درمیان حرف دے کا اضافہ کیا جاتا ہے مثلاً گھر سے گھر، در سے در، ٹھار سے ٹھار، رگے رگ وغیرہ۔

۷۔ مانگنا یا مانگنا معنی چاہنا، جیسے اگر منگتا ہے جل میں محبت بھرے تو شراب پی۔  
۸۔ الفاظ کی تذکرہ و تائیش کا امتیاز اور لحاظ اکثر نہیں کیا جاتا تھا۔ شراب، خبر، صورت، دنیا، جان وغیرہ کو جو بالاتفاق موئث میں۔ تذکرہ لکھا ہے۔  
۹۔ اکثر نظموں میں بھرپور ہندی (بھاشا) ہوا کرتی تھیں۔

۱۰۔ عروض و نظم کے اصول و تواحد کی مطلق پردازیں کی جاتی تھی۔ اکثر مصروع کو کھینچتیں کر سکتے پورا کر لیا جاتا تھا اور ضرورت شعری کے لئے لفظوں کی بیت بدلتی جاتی تھی۔ ساکن کو متحرک، متتحرک کو ساکن کر دینا اور امالہ ایسا باغ کا بے تکلف استعمال معمولی بات تھی۔ اسی قسم کی اور بھی خصوصیات ان زمانوں کی طرز بیان میں پائی جاتی میں جو غور کرنے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ اتنا کے علاوہ املاء میں بعضی اس زمانے کی تحریروں کے خلاف بعض صورتیں نظر آتی ہیں۔ کرتا کی جگہ کرتی، مانگتا کی عوض منگنا۔ کیری بجا کے کی، انگھیں منراد کے، کوایا بمقابلہ کہا یا کہا گیا وغیرہ<sup>(۱)</sup> (۱)

## دوسراؤر

شمالی ہند میں جو کتاب عام طور پر اب تک اضیحت و اولیت کا حق رکھتی

(۱) احسن مادرودی۔ مولانا، "تاریخ نشر اردو"، ص ۵۳۔ ۵۵

بے وہ فضل علی فضیل کی "دہ مجلس" یا "کربل کھفا" ہے۔ جو مُتلَّحین واعظ لاشفی کی فارسی کتاب کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی قدیم نتیری نہونہ ملتا ہے تو سودا کا دیباچہ ہے جو انہوں نے آغازِ کلمیات میں لکھا ہے۔ اسی ذیل میں خاندان شاہ ولی اللہ کے ترجمہ قرآن پاک آتے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین (۱۲۰۵/۱۷۹۰) نے کلامِ پاک کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ان کے بھائی شاہ عبدالقدار نے بھی (۱۲۰۵/۱۷۹۰) میں ترجمہ کیا جو شاہ رفیع الدین کے ترجمہ سے زیادہ سلیس اور بہتر ہے۔

ترجمہ ہلشے قرآن کے علاوہ کچھ داستانی ادب بھی پایا جاتا ہے لیکن قابل ذکر کتاب میر عطاء حسین کی "ڈاکٹر نہ مُرِّضع" ہے۔

## فورٹ ولیم کا لمحہ :-

اردو کے نتیری دور کا روشن زمانہ فورٹ ولیم کا لمحہ کے قیام کا زمانہ ہے۔ فورٹ ولیم کا لمحہ کے پرنسپل ڈاکٹر جان گل کریست اردو کے بڑے عالم و ماہر تھے وہ اس عہدے پر فائز ہونے سے کئی سال قبل سے اردو کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے کارج میں تصنیف و تالیف کا محکمہ قائم کیا اور اردو کے تمام اچھے نثر نگاروں کو جمع کر دیا۔ انہوں نے خود بھی کتابوں لکھیں اور دوسرے اہل قلم حضرات سے بھی کتابیں لکھوائیں۔ انہوں نے اردو کو عالم فہم بنانے کے لئے سلیس اردو میں کتابیں لکھوائیں۔ اس طرح ڈاکٹر جان گل کریست کی سرپرستی دوکشش سے اس زمانے میں ایسا اردو ادب پیدا ہو گیا جو آج تک اردو میں اپنی نوعیت کا بے نظیر و یادگارہ تعلیم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ میرزا متن دہلوی، میر شیر علی افسوس، میر بہادر علی حسینی، سید جبیر بحقیقی، خلیل علی خاں اشک، مرزا علی نطفت، شیخ حفیظ الدین، نہال چند لاہوری، منظہر علی دلا، مرزا کاظم علی جوان، بیتی نرائی جہاں دغیرہ نے ڈاکٹر جان گل کریست کی زیر پذیری مختلف موضوعات پر کتابیں تصنیف

لیں مثلاً "بانو دہار" (میر ائن)، "آرائشِ محفل"، "لوطا کہانی" (جید خیش جیدری)، "بانو اردو" (میر شیری علی افسوس)، "گلشن ہند" (میرزا علی لطفت)، تشریبے نظیر، اخلاق ہندی" (میر پہلو ر علی حسینی)، "ہفت گلشن" (منظہر علی والا)، "داستان امیر سمزہ" (خلیل علی خاں اٹک)، "چار گلشن" (ربیع نرائی جہاں)، "خدمہ افراد" (شیخ حفیظ الدین)، "اخوان الصفاء" (اکرام علی)

## فورٹ ولیم کالج کی خدمات

جن زمانے میں فورٹ ولیم کالج میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری تھا اسی زمانے میں کالج کے علاوہ ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی اہل زبان اور اصحاب علم فن ذاتی طور پر بھی اردو نظر کی کتابیں لکھنے میں مصروف تھے۔ جن میں دہلی، آگرہ اور لکھنؤ کے اصحاب علم و ادب پیش پیش تھے۔ جو اردو کے فروع دار تقاضائیے مسلسل کوششیں کر رہے تھے۔ لیکن وہ مصنفین جو کالج سے تعلق رکھتے۔ ان کو طباعت و اشاعت کی سولتیں متیر تھیں کیونکہ کالج میں دارالترجمہ کے ساتھ مطبع بھی قائم ہو گیا تھا۔ اور ۱۸۴۱ع سے کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن فورٹ ولیم کالج سے باہر طباعت و اشاعت کا سلسلہ دہلی میں ۱۸۳۷ء سے ہوا۔ اس سبب سے دہلی، آگرہ و لکھنؤ وغیرہ میں قیام کالج سے پہلے یا زمانہ کالج میں یا اس سے کچھ عرصے بعد تک جو کتابیں تصنیف و تالیف ہوئیں وہ مشورہ عام نہ ہو سکیں۔ مولانا قادری نے تحقیق کے بعد ایسے بیشتر مصنفین کی تصانیف کا ذکر "داستان تاریخ اردو" میں کیا ہے۔

اس طرح کالج کے قیام سے قبل لکھتے اردو دوسرے شہروں میں اردو تصانیف نظر کا سلسلہ تو جاری تھا مگر کوئی باقاعدہ اور منظم کوشش نہ تھی۔ باقاعدہ اور منظم طور پر اردو نظر کاری کا آغاز فورٹ ولیم کالج ہی نے کیا۔

فورٹ ولیم کالج کی خدمات پر تبصرہ کرنے والے مولانا حامد حسن قادری "داستان تاریخ اردو" میں رقم طرازہ میں :-

- ۱۔ کالج کے منتظمین نے سلیس نشر بگاری کا مقصد متعین کر کے کام شروع کیا۔ یہ گویا پہلا علمی اور ادبی ادارہ یا ندوہ تھا۔
- ۲۔ اردو ناٹپ کا پہلا مطبع اسی کالج کی طرف سے قائم کیا گیا اور بعض کتابیں خاص حنفی و خوبی کے ساتھ شائع کی گئیں۔
- ۳۔ کالج کی یہ خدمات کم و بیش بیش بر س جاری رہیں اس عرصے میں اٹھارہ مصنفین نے پچاس کتابیں اردو میں تصنیف و تالیف اور ترجمہ کیں۔ اس زمانے میں ۱۸۴۰ء سے ۱۸۶۰ء تک فورٹ دیم کالج سے باہر نامہ نہروستان میں اتنی کتابیں نظر اردو کی مشکل سے بکھر گئیں ہوں گی۔ اور جتنی بکھر گئیں ان میں سے اکثر کوآج تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔
- ۴۔ بیرون کالج کی کوئی تصنیف زبان و معاورے کی سلسلت اور اسلوب بیان کی دلکشی میں میر آمن، حیدری، اکرم ہلی وغیرہ کی کتابوں سے بہتر اور دامتباں امیر حمزہ و اخوان الصقلہ سے زیادہ ضمیم نہیں ہے۔
- ۵۔ کالج کی تالیفات میں مختلف ضروری، مفید اور دلچسپ موضوع کی کتابیں شامل ہیں۔ یعنی فانہ، تذکرہ، صرف و نسخو، تاریخ، اخلاق، فقہ اسلام، ترجمہ قرآن، مجید، ترجمہ انجیل مقدس۔
- ۶۔ سب سے بڑی خدمت اس کالج کی یہ ہے کہ سلیس نشر بگاری کی شاہراہ قائم کر دی۔ اگر یہ نکر جاری نہ ہوتا تو بھی ارباب حلم و ادب اس رستے پر آتے۔ لیکن دیر لگتی۔ ان کتابوں کا نونہ موجود ہونے پر بھی لوگوں نے اس طرف کم توجہ کی اور بہت آہستہ اس راہ پر آتے۔<sup>(۱)</sup>

## نشر اردو کا متوسط دور

فورٹ دیم کالج نے سلیس اردو میں نظری ادب کی بنیاد ڈال دی تھی۔ لیکن نظری

(۱) حاججن قادری، ہولانا، ڈسٹان تاریخ اردو، محوالہ بالا۔ ص ۱۶۱-۶۲

ادب کی تاریخ و ترقی میں اہل لکھنؤ کا بھی بڑا ہاہدار ہے۔ فقیر محمد خاں گویا دستوری  
 (۱۸۵۰-۱۸۶۶) نے "انوار شمسیل" کا ترجمہ "بُوتان بحث" کے نام سے ۱۲۵۱ھ میں  
 کیا جو نول کشور پریس سے شائع ہوا۔ (۲) مرزا حبیب علی بیگ نور در کی "فناہہ عجائب"  
 "مقفی اور سیجع نثر کا اچھا نمونہ ہے مفتی صدر الدین آنندہ، امام بخش صہبائی، ماسٹر  
 رام چند، آغا امانت لکھنؤی ذغیرہ نے مختلف موضوعات پر مختلف کتابیں تحریر کیں۔  
 لیکن اس دور کی حمد آفون شخصیت مرزا فالب ہیں۔ نثر میں ان کے خطوط سے ایک  
 نئے باب کا آغاز ہوا۔ اسی دور میں غالب کے رشتے کے بعثیجے خواجہ امان دہلوی نے  
 "بُوتانِ خیال" کا ترجمہ فارسی سے اردو میں کیا۔ پہلی جلد کا نام "خدائق الانصار" اور  
 دوسری کا "ریاضن الابصار" رکھا۔ اس کی پہلی جلد کا دیباچہ مرزا فالب ہی نے لکھا تھا۔  
 (۳) خواجہ امان نے اگرچہ تمہید میں متفقی عبارت لکھی ہے اور عربی و فارسی سے بھی  
 کام لیا ہے لیکن اصل داستان بہت سادہ و سلیس ہے۔ اس کے علاوہ مولوی غلام  
 امام شیری، خواجہ غلام غوث بنے جبرا اور بعض دکنی مصنفوں نے بھی فخری ادب میں  
 اضافہ کیا۔

## عہدہ سرتید

جدید اردو نثر کا اصل دور سرتید سے شروع ہوتا ہے۔ سرتید ایک بہرگیر  
 تحریک کے کراہی ہے۔ وہ ادب و معاشرت اور تعلیم و تمدن کے ہر شعبے پر چلا گئے  
 بعض شعبوں کو انہوں نے برداہ راست تاریکیا۔ اور بعض پر اپنے رفقائے کار کے ذریعہ  
 بڑے پائیدار اثرات مرتب کیے۔ سرتید کی خدمات اور طرز تحریر پر بہترین تعبیر

(۱) عکری۔ مرزا محمد (مترجم)، "تاریخ ادب اردو"، انڈ رام بایو سکینہ، لاہور:  
 منظور پرنگ پریس، س ن، ص ۶۶۳،

(۲) حافظ حسن قادری، مولانا، "داستان تاریخ اردو"، مجموعہ بالا، ص ۲۹۶۔

”داستان تاریخ اردو“ میں مولانا قادری نے یوں کیا ہے:

”سرشید کی تحریر میں زبان و محاورے کی لطافت، بیان کی سادگی و صفائی، استخارہ سے و تشپیہ اور دیگر صنائع کا اعتدال و بے ساختگی، بیان کا جوش طرز ادا کی روانی، استدلال کا زور، محکمات و منظر کشی، حسب موقع متناسق و ظرافت اس قدر کثرت، صحبت اور موندو نیت کے ساتھ ہے کہ ان سے پہلے کہیں نہ ملتی۔ ان کے ساتھیوں میں ان سے بہتر نہ ملتی۔ اور ان کے ہم زمانہ گوں میں اکثر اپنی کے اتباع کی بدولت ملتی۔ سرسید، سعید، سیاسی مل پریک نہیں بحکام اور دشوار اصولی مباحثت کو نہایت صفائی، سادگی بے نکلفی اور زور و قوت کے ساتھ بیان کر سکتے تھے ان کی برجستہ تقریروں اور قلم بردائشہ تحریروں میں بھی وہی انداز پیدا ہے جو خود فکر سے لکھی ہوئی کتابوں اور مضامین میں ہے۔ حسب موقع اسلوب بیان اختیار کرنا، شوخی و سخی و سمجھیدگی سے بر محل کام لینا، جذب و اثر پیدا کرنا ان کے لئے بالکل فطری و طبعی بات ملتی کی خاص گوشش وار اسے کو دخل نہ تھا۔ گویا ان کو خبر بھی نہ ہوتی ملتی اور صحیح انداز خود بخود پیدا ہو جاتا تھا۔ جن الفاظ و محاورات کے پولے کی ان کو عادت ملتی بے نکلف ان کو استعمال کر دیتے تھے۔ یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ اہل زبان یا اہل دہلی کیا اور کس طرح بولتے ہیں۔ دقیق علمی، فلسفیات، سائنسی فکر، شفیدی مضامین اس قدر سمجھا کر بیان کرتے تھے کہ اس فن میں گویا ان کو ولیت حاصل ملتی۔ بعض مضامین میں علائیے یورپ کی فکر و رائے پر تقدیر و تصریح کیا ہے۔ فضلاً کے عرب و محمد کی تحقیق پر تقدیری نظر کی ہے، اپنے ذمہ نے کے اہل قلم اور اپنے ذمہ ملغوں کے مباحثت کی تتفصیل کی ہے۔ خود سرسید کی تصانیف میں تاریخ و سیرت، نہیں و اخلاق، سیاست و حکمت وغیرہ موضوعات شامل ہیں۔ ہر جگہ سرسید کا جوش بیان اور زور قلم نمایاں ہیں۔ اور انہوں نے اور دوزبان میں ہر قسم کے مضامین ادا کرنے

کی قابلیت ثابت کر دی ہے جہاں ان کو اصابت رائے حاصل نہیں ہے  
وہاں بھی ان کا خلوص و دل سوندھی ناقابل انکار ہے۔  
مزاح و ظرافت سر سید کا فطری زنگ تھا لیکن یہ موقع و  
 محل پر صرف ہوتا تھا۔ خصوصاً پیر اسیویں خطوط میں یا مخالفوں کے  
 مباحثے میں اس زنگ کی شوخی نہایت لچکپ اور کارگر ہے۔ جذب اثر  
 پیدا کرنے کے موقع پر کوئی روحانی قوت ان کے اندر کام کرتی ہوئی معلوم  
 ہوتی تھی۔<sup>(۱)</sup>

یہ دور اردو نشر کی ترقی اور تحریک کا دور ہے۔ اس عہد میں زبان کی ترقی و ترویج  
 نہ صرف باتی اعتبار سے ہوئی بلکہ مضمونات کے اعتبار سے بھی بیش بہا خزینوں کا  
 اضافہ ہوا۔ وہ زبان جواب تک بیشتر اخلاق، مذہب، تصوف اور قصص و حکایات  
 کا ذریعہ اظہار رہی تھی اب فلسفہ و منطق، طبیعت و حکمت، علم الاعضا، و علم الابدان  
 مدنیت و شہرست، طبیعت و ارضیات اور دوسرے بیشتر جدید علوم و فنون کے اظہار  
 کا ذریعہ بن گئی اور اس طرح اس کے انداز بیان میں لچک لغات میں وسعت اور طرز ادا  
 میں واقفیت کا انداز پیدا ہوا۔

غالب کئے خطوط اور سر سید کی نظری کا دشون تے آئے والے ادیبوں کی راہ ہموار  
 کر دی تھی۔ اس دور کے مشاہیر ادب میں نواب محسن الملک، نواب ڈفار الملک اور  
 موہی چسرا نعیل وغیرہ ہیں۔ یہ اصحاب سر سید ہی کے حلقة اثر سے متعلق ہیں۔

## سر اردو کا چھٹا دور

نثر کا چھٹا دور جنگ آزادی کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اور اصل میں سر سید  
 اور ان کے رفقاء بھی اسی چھٹے دور کے نصف اول میں سمجھے جانے چاہیں لیکن چونکہ

(۱) حامد حسن قادری، مولانا "داستانِ تاریخِ اردو" محوالہ بالا، ص ۳۲۹-۳۱

ان اصحاب کا طرز تحریر مقصودی اور اقادی نویسیت کا تھا اور بقول مولانا قادری کے:  
 زبان و بیان کے لحاظ سے اور ایجاد و اسالیب کے اعتبار سے ان تمام مصنفوں میں بجز سرستید کے، کسی کا کوئی خاص مرتبہ نہیں ہے  
 طرز قدیم کا اثر سب میں ہے، کہیں قافیہ بندی کی حد تک، کہیں الفاظ کی  
 بے ترتیبی اور زبان و محاورے کی بے پرواہی کی صورت میں۔ ان میں سے کوئی  
 مصنف صاحب طرز نہیں کہا جاسکتا۔<sup>(۱)</sup>

اس سبب سے چھٹے دور کو محمد حسین آزاد سے شروع کرنا مناسب ہے۔ آزاد، ذکار اللہ  
 تذیر احمد، خواجہ الطافت حسین حائلی، شبیل تعالیٰ اور ان کے بعد آنے والے ادیبوں نے  
 اردو نشر کی عمارت کو ادیج تریا تک پہنچا دیا۔ علم کلام، تاریخ، نقد شعر و ادب، ناول  
 انشائیہ، غرض کوئی باب ایسا باقی ترہ رہا جس میں یہ زرگ اپنا نقشِ دوام ثابت نہ کر گئے  
 ہوں۔

غرض یہ کہ اس طرح اُندھہ شراپنے مخصوص و مضمون کے اعتبار، اپنی تخلیقی قوت  
 کے لحاظ اور اظہار مدعا کی گیرائی و گہراوی کے اعتبار سے دنیا کی بہترین زبانوں کے سامنے  
 ہو گئی۔ اسی دور کے پیشمندر میں ہمیں مولانا قادری کے نظری کارناموں اور ادبی مرتبے کا  
 جائزہ لینا ہے۔ اسی لئے ہمارے اس باب کے پیشمندر کے طور پر اردو کی ترقی و اشتاعت  
 کا یہ دور کافی ہے۔

مولانا قادری کی کادشوں کا سب سے بڑا کارنامہ اور تثبتِ دوام پانے والا نقش  
 ”داستانِ تاریخ اردو“ ہے۔ داستان پہلی بار ۱۹۳۱ع میں شائع ہوئی تھی آج اسے  
 شائع ہوئے کم و بیش سینتیس (۲۷) برس ہو چکے ہیں۔ اگرچہ اس عرصے میں ہندوستان  
 و پاکستان میں اردو ادب کی متعدد ”تاریخیں شائع ہو چکی ہیں لیکن مولانا کی ”داستان  
 تاریخ اردو“ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اب بھی منفرد ہے۔

(۱) حامد حسن قادری، مولانا، ”داستانِ تاریخ اردو“، محوالہ بالا، ص ۲۷۶-۲۷۷،

”داستان تاریخ اردو“ پر تفصیلی تبصرہ کرنے سے پیشتر یہ ضروری معلوم ہو گئے کہ اس دور کی جو اور تواریخ ادب مُرتوج و مقبول تھیں ان کا تفصیلی جائزہ لیا جائے اور ان کا مقابلہ بھی کیا جائے۔ یہ کام بہتر سے بہتر سید محمد محمود رضوی مخور اکبر آبادی نے اپنی کتاب ”صحیفہ اردو“ کے دیباچے میں کر دیا ہے۔ چونکہ ان کتابوں کا اس تفصیل سے جائزہ اب تک کہیں اور پیش نہیں کیا گیا۔ اور مخور اکبر آبادی صاحب کی یہ کتاب سہیں الحصول بھی نہیں اس لئے افادہ کی خاطر اس کے مقابلی مطالعے کے چند اقتباسات درج کیے گئے ہیں۔ مخور اکبر آبادی لکھتے ہیں:-

”اب یہ اردو زبان اور ادب کی آن چند تاریخوں کے متعلق کچھ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جو بیسویں صدی میں مرتب ہوئی ہیں اور جن کی زبان بھی بھی اردو ہے۔ یہ دو قسم کی ہیں:-“

- ۱۔ وہ جو ادب کا پرانا ددق رکھتے والوں نے، ”آب حیات“ کی طرح انیسویں صدی کے پس منظر میں لکھی ہیں۔
- ۲۔ وہ جو جدید مغربی تنقید کے نظریوں سے روشناس حضرات نے مغربی انداز پر مرتب کی ہیں۔

ان دونوں قسموں کے زاویہ نظر اور لمب و لچھہ میں بڑا فرق ہے۔ پہلی قسم میں ”محل رخنا“ (۱۹۲۰ع) مصنفہ مولوی عبدالحی اور ”شعرالہند“ (۱۹۳۹ع) مصنفہ مولوی عبد السلام رخنا اور ”تاریخ نظم و نثر اردو“ (۱۹۳۳ع) مرتبہ آغا محمد باقر صاحب اور ”فتح احمد دسری“ میں، ”تاریخ نظم و نثر اردو“ (۱۹۴۰ع) مرتبہ سید احمد رحیم صاحب، میرے پیش نظر ہیں۔ پھر ”تاریخ ادب“ (۱۹۴۰ع) مرتبہ سید احمد رحیم صاحب، میرے پیش نظر ہیں۔

میں پہلی قسم سے بحث کروں گا اور بعد کو دسری قسم کا جائزہ لوں گا۔ میں پہلی قسم سے بحث کروں گا اور بعد کو دسری قسم کا جائزہ لوں گا۔ میں تاریخی موارد مختصر ”محل رخنا“ اور ”شعرالہند“ دونوں مضموم کتابیں ہیں۔ ان میں تاریخی موارد کی ترتیب مقدار میں میرا آتا ہے مگر تنقیدی موارد بہت کم ہے۔ لیکن تاریخی موارد کی ترتیب مقدار میں میرا آتا ہے مگر تنقیدی موارد بہت کم ہے۔ میں کوئی بنیادی اصول پر نظر نہیں رکھا گیا۔ مفہوم عالت اور ادوار کی تقسیم بے ربط اور بے عمل ہے۔ شعر اکے ذہنی اور طبعی امتیازات نمایاں کرنے اور ایک استاذ کے حصہ

کو دوسروں سے فریز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ فطنست کے اجزاء کے تجزیے اور الفرادیت کے لوازم کی تحلیل کی طرف قدم نہیں بڑھایا گیا۔ سارے بیانات ہم ذنگ اور ساری تنقیدیں بہم آہنگ ہیں۔ دونوں تصانیفوں کی ضخامت، کلام کے نتوں کی مرہون منتنت ہے۔ ان کتابوں کو تاریخ و تنقید کی سچائی کے کلام کے نتوں کے گھستنے کیا زیادہ مناسب ہے۔ ان دونوں تصانیف کے سطحی و سرسری مطالعے سے حب ذبل باقی جلب توجہ کرتی ہیں:-

- ۱۔ دونوں ادبیوں کا انداز بیان، لب و لمحہ اور نقطہ نظر پکشان ہے۔
- ۲۔ دونوں کو صناعت اور فن کاری کے مظہبے میں وجاہت اور تصوف سے زیادہ شغفت ہے۔

۳۔ دونوں نے شعراء کے کلام کو داخلی عماں کی بنی پر نہیں بلکہ خارجی ممیزات کی مدد سے پرکھا ہے۔

۴۔ ”گل رعنَا“ میں، ”آبِ حیات“ کے اسلوب بیان کی تقائی کی کوشش کی گئی ہے مگر کہیں کام یابی نہیں ہوئی۔ نقل سرحرگہ بھنوٹی تقائی ہو کر رہ گئی ہے اور لیں۔

۵۔ ”گل رعنَا“ کے مصنف کو مژا جان جانا مظہر اور اُن کے شاگردوں سے خاص عقیدت ہے۔ اس نے اس گروہ کی صوفیاتہ عظمت اور وجاہت کی تبلیغ کی بڑی کوشش کی ہے۔ شعر کے کیف و اثر کی جگہ، شاعر کی روحاںی بزرگی اور کلام پر نقد کی جگہ، مریدوں کی بیعت کا ذکر کیا ہے۔

۶۔ تصوف اور بیعت کے افاؤں کے علاوہ ”گل رعنَا“ کے مصنف کا ذہن ”برابر“ اور ”بہتر“ کے مذموم دائرے سے باہر نہیں مکلتا وہ مقدم کو معیارہ قرار دے کر چلتا ہے اور متاخر کو اس کے برابر با اس سے بہتر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، تصوف کے جس سلسلے سے اس کو محیت اور عقیدت ہے، اس کو اور اس

کے مریدوں کو بڑھانا، چڑھاتا اور دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فلسفت، الفرادیت، نفس کے حرکات اور ذہن کے تدریجی ارتقاء پر نظر ڈالنے کی سعی نہیں کرتا۔ اس کے بیان کی یک ہر جگی دبائل جان ہو کر رہ جاتی ہے۔

۷۔ "شعرالہند" کی نام نہاد تنقیدیں روایتی، سطحی اور نامکمل میں۔ ان کو تنقید کی جگہ تحسین کرنا مناسب ہے۔ مفرز اور انداز بیان کی نوعیت و یک ہر جگی میں، یہ ان تقریبیوں سے ہرگز جدا نہیں جو انسیوی صدی کے دوسرے نصف میں نول کشور پریس کی ہر مطبوعہ کتاب کا جزو لائیف سمجھی جاتی تھیں۔

۸۔ دونوں تصانیف کے بیان میں وہ خصیتی، گٹھاؤ اور دلائیل میں وہ دلنشیزی، قوت اور استحکام نہیں جو ایک پُرمغز ادبی تصنیف اور تنقیدی صحیفے کے شایانِ شان ہو۔ جگہ جگہ عبارت دھیل دھیل اور سُست، بوجبل اور تقلیل، بے ربط اور نامموار ہے۔ "گلِ رعناء" میں خصوصیت کے ساتھ روابط اور ضمائر کی بڑی کمی ہے۔ بار بار فاعل کو بے ضرورت فقرے سے حذف کر دیا گیا ہے جو بے حد گران گزرتا ہے۔ ان خامیوں کے علاوہ "گلِ رعناء" میں عبارت کے ایسے نمونے ہے کہ نظر آتے ہیں جو ایک ادبی تصنیف میں معیوب سمجھے جانے چاہیں۔ بعض مقامات نمونے کے طور پر پیش میں:

"رفته رفتہ ملکی زبان میں جونہ خالص ہندی بلکہ عربی اور فارسی الفاظ کے امتزاج سے ایک نئی زبان ہو گئی حتی طبع آزمائی کرنے کا شوق عام ہو گیا اور بڑھتا گیا۔ بیان تک کہ فارسی بحدوں میں کہنے لگے۔" (ص ۲۲)

اس عبارت میں "طبع آزمائی" کے بعد "کرنے" حشو ہے۔ درسے یہ پتا نہیں چلت کہ "کہنے لگے" کا فاعل کون ہے۔

”قریب اش خان امید اسی زمانہ کے بڑے نامور شاعر ہیں اور اہل ہند کے ساتھ ان کے جلسوں کی گرم جوشیاں مشہور ہیں۔ (ص ۲۹) اس عبارت میں ”جلسوں کی گرم جوشیاں“ اس کتاب کی اختراط فالقة ہے۔ ”گرم جوشی: افساد کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جسے اور ”جلسوں“ کے لئے اس کا استعمال محاورے کے خلاف ہے۔

”اور بجاۓ اس کے کہ پہلے سے زبان میں زیادہ شیرینی اور گھلاوث پیدا ہوتی زیادہ تقلیل ہو گئی۔“ (ص ۴۲) یہاں صاف نظر آتا ہے کہ ”پہلے سے“ کو ”زبان میں“ کے بعد لایا جاتا تو ایسی بذما تعقید نہ پیدا ہوتی، جواب پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ”تقلیل ہو گئی“ کا فاعل بھی بے جا طور پر حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ بھارت اس طرح ہوتی تو اتنی بدنامہ رہتی اور ادبی تصنیف کے شایان شان بھی ہوتی۔

”مرزا قتلی اور قاضی محمد صادق اختر نے بھی لکھنؤ میں منتقل سکونت اختیار کر لی غرض کر لکھنؤ میں دل کی سبھا پوری کی پوری اٹھ کر آگئی“ (ص ۲۳۸ - ۲۹)

اس عبارت کا بھومنڈا پن قسم کھانے کے قابل ہے۔ فقرے میں ”دل کی سبھا“ کا ذکر ہے اس لئے یہی فاعل ہے اور قاعدے کی رو سے فقرے میں فاعل ہی پہلے آنا چاہیے اس لئے یہ عبارت اگر یوں ہوتی تو صحیح ہوتی:

”غرض کر دل کی سبھا پوری کی پوری اٹھ کر لکھنؤ میں آگئی۔“  
”لکھنؤ کا پرستان اٹھ کر ملایا بُرج آپنچا۔ بادشاہ نے دل بہلانے کو زندہ جانوروں کا خصوصی سانپوں کا ایسا ایک چڑیا خانہ بنایا کہ تا یہ دنیا میں اس کا کہیں جواب نہ ہو گا۔“ (ص ۳۸۱)

اس عبارت میں ”سانپوں کا چڑیا خانہ“ ایسا ادبی نادر ہے جو مولانا کے حصے کی جدت اور دادے مستغنى ہے۔ یہ ترکیب بیسویں صدی کی غالباً بہترین اختراق ہے۔

"شبِ لیلۃ القدر" اور "لبِ دریا کے کنارے" اردو کے مشہور مگر پرانے جملے ہیں پنجاب میں "لو ہے کا آئرن سیفت" گوالیار میں "مولیشیوں کی مردم شماری" اور بمبئی میں "کشتیوں کی گھوڑ دوڑ" اسی زمانے میں وضع ہوئے۔ مولانا کا کرم ہے کہ انہوں نے اس فہرست میں ایک اور ساتی اعجوبیے کا اضافہ کیا۔

ubarat کی خامیوں سے قطع نظر "خل رعن" میں بہت سی داخلی خوبیاں بھی موجود ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ضروری ہے۔ سب سے نایاب یہ ہے کہ اپنی مقدمت تاریخوں کے مقابلے میں، یہ کتاب، معتقد پر تاریخی مواد کی حامل ہے اور یہ مواد نہ صرف مقدار میں مقابلنا کثیر ہے بلکہ صحت و نسب میں بھی یہ مرتب بلند ہے۔ اس تصنیف کی مدد سے بہت سی غلط روایتیں، جنہوں نے بے حد شہرت و مقبولیت حاصل کر لی تھیں، باطل و کورہ جاتی ہیں مثلاً یہ کہ اس نے میر کو اس کے صحیح حالات و داقعات کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ اس کے دامن سے وہ سائے دھبے دھودیے ہیں جو "آب حیات" کے مصنف نے خواہ خواہ اس کے سر تقویٰ پ دیئے تھے۔ اس کتاب کے بعض تبصرے بھی بصیرت افرودز میں مثلاً مرثیے پر اس کا تصریح مفرزوں کے اعتبار سے اہم اور حدائق اصحابت کے لحاظ سے پُر و ندن ہے۔ صفحہ ۵۲۱ پر درج ہے:

"مرثیہ گوئی کی تاریخ میں اتنی بات صاف کہنی چاہیے کہ حضرت

اہل بیت اطہار رحموان اللہ علیہم اجمعین کی اصلی شان دکھانے میں مرثیہ گوئیوں نے بڑی کمی کی ہے۔ اکثر ذمار و ثبات کی جزوع و فزع و اضطراب تک پہنچا دیا ہے۔ بیبوں کی شان اس پر اے میں لکھی ہے، جس سے معلوم ہو کہ یہ نہت بزدل اور خوف زدہ دکھ کی ماری ہستی محو ڈالہ دُبکا ہے، حالانکہ وہ پاک بزرگ، ان کم زدہیوں سے بہر حال دور رکھے، مدعا عوام کو رلانا و تہڑا پانا تھا۔ اس نے مراٹی کا پایا بہت پست کر دیا ہے۔ تھا عوام کو ملانا و تہڑا پانا ہو مگر اخلاقی و مذہبی پہلو مفلوج ہو کر رہ گی، شہادت نامہ خواہ کتنا ہی موثر ہو گیا مگر وقائع نگاری کا خون ہو گیا۔

ان الفاظ میں مرثیے کی اخلاقی و نفیاقی قدر کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مذہب کو تنگ نظر سے دیکھنے والے افراد، کچھ ہی کہیں مگر حقیقت و واقعیت کو دیانت کے کائنات میں تو سنے والے، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اعتراض اپنی جگہ انہیں ہے۔ ان خارجی اساب و ذرائع سے جو مخفی رونے والا نہ کر سکتے میں بھم کیسے گئے ہیں نہ صرف کربلا کے حادثے کے بعض پہلوؤں کا تناظر غلط ہو جاتا ہے بلکہ خود حادثے کی اہمیت میں بھی فرق پڑتا ہے۔ بعض کردار اس جذب و اثر سے معرقی ہو جاتے ہیں جو ان کا فطری لازم ہے۔ یہ زاویہ نظر حقیقت اور تاریخ دونوں کے منافی ہے اور فہم میں غلط کیفیت پیدا کرتا ہے۔ جذب سروکامنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله و سلم کے کھر نے کی بہو، بیٹیاں جو فی نفسہ صبر و استقامت کا نمونہ ہیں۔ گریہ و بکا کی شدت اور نالہ و شیون کی کثرت کے باعث وقار سے محروم نظر آنے لگتی ہیں۔ ان کی ذات، اس ضبط و جلال سے خالی ہو کر رہ جاتی ہے جس کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کربلا کے مصائب و نوائب کے دوران میں ہوا۔ یہ مفردات نہ صرف اس بے پایا ایجاد کی اہمیت میں کی کردیتے ہیں جو ان ہستیوں نے کربلا کی امتحانگاہ میں یہ خندہ پیشاتی کیا بلکہ ان کا اعادہ، اس عظمت و شان سے بے آہنگ بھی ہو کر رہ جاتا ہے جو خود مرثیے میں، ان ذاتوں سے منوب کی گئی ہے۔ واقعیت کے بطلان کے علاوہ یہ آدھ کی بھی کھلی فلسفی ہے۔ ان حالات میں مجبوراً یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کربلا کی مرقع کشی کے وقت لکھنؤ کے دور احاطہ کی خاتون ہر وقت مرثیہ گوپوں کے پیش نظر رہی۔

”شعر المہندس کی عبiquidت اور انداز بیان کو ”گھل رعن“ یہ بدرجہا فوقيت ہے۔ اس میں بہر حال جبارت کے ايسے ناقص نونہ نہیں آتے جنہیں مثال کے طور پر مجبوراً پیش کرنا پڑتے۔“

”تاریخ نظم و نثر اردد“ اور ”ختصر تاریخ ادب“ دونوں مقابلتاً ”ختصر“ ہیں۔ یہ دونوں کتابیں سکینہ صاحب کی فاضلانہ تصییف سامنے رکھ کر مرتب کی گئی ہیں۔ ”تاریخ نظم و نثر“ کے مطالعے سے حسب ذیل یا تینیں مترشح ہوتی ہیں۔

۱۔ اس کا دیباچہ پڑھ کر پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ مصنف نے تاریخ ادب اندو کو موضوع کی حیثیت سے خلاصہ کر کے "تاریخ نظم و نثر اردو" کے اور ان پیشیں کیا ہے۔ اس اثر کے وجہ حسب ذیل ہیں :-

(الف) دیباچے کی ابتداء میں ذمہ متعی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جو خود موضوع اور سکینہ صاحب کی تصنیف دونوں پر بیک وقت صارق آتے ہیں۔

(ب) سکینہ صاحب کی کتاب کا نام "تاریخ ادب اردو" ہے اور آفت صاحب نے بدلت کر اپنی کتاب کا نام "تاریخ نظم و نثر اردو" رکھا ہے۔ ناموں کے اختلاف سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں مختلف ہیں۔ ایک کتاب کو دوسری سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔

(ج) کتاب کے سرونق یا دیباچے میں کھل کر کہیں یہ اعتراف نہیں کیا گیا کہ "تاریخ نظم و نثر اردو" ، "تاریخ ادب اردو" مصنفہ سکینہ کی انگریزی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔

(د) "تاریخ نظم و نثر اردو" کے دیباچے کے دوسرے صفحے پر "ہستی آفت لٹریچر" کے عنوان سے ایک پارہ لکھا گیا ہے، جس میں سکینہ صاحب اور ان کی تصنیف کی داد دی گئی ہے مگر یہاں جھی یہ اعتراف نہیں کیا گیا کہ "تاریخ نظم و نثر اردو" اُسی تصنیف کا نلا صہی یا ترجمہ ہے۔

۲۔ یہاں اس کتاب کے مؤلف یا مترجم کو کسی بات کے چھاپے کا لام دیا مقصود نہیں، صرف یہ بتانا ہے کہ یہ کتاب سکینہ صاحب کی تصنیف کی آواز باز گشت ہے۔ اور اس۔

۳۔ یہ کتاب خلاصہ کردہ کہہ پیش کی گئی ہے مگر ترجمہ معلوم ہوتی ہے۔ خلاصہ اور ترجمے میں بہر حال بڑا فرق ہے خلاصہ اپنی زبان میں ہوتا ہے اور ترجمہ

عمل کی ہو بھو تصوریہ مصنف کے الفاظ ترجمے کی زبان میں دہرا دیئے جاتے ہیں۔  
و کتاب میں اصل کا جنسہ پورا التزام باقی ہے اور ترجمے کے سارے لوازم موجود ہیں۔  
لاحظہ ہوں :

(الف) سکینہ صاحب کی کتاب میں انیں باب ہیں اور آغا صاحب نے بھی  
اپنے ابواب کی تعداد اسی عدد پر ختم کی ہے۔

(ب) سکینہ صاحب نے اپنے ابواب کے جو نام رکھے ہیں۔ بغیر کسی خلاف  
کے اسی ترتیب کے ساتھ آغا صاحب نے بھی دہی قائم رکھے ہیں مثال  
کے طور پر۔

(ادل) سکینہ صاحب کے دسویں باب کا نام "ایچی اور بھی رائٹرس" ہے۔  
آغا صاحب کے دسویں باب کا نام "مرشیہ اور مرشیہ گوہے" ہے۔

(دوم) گیارہویں باب کا نام سکینہ صاحب نے "اسٹریجیکس" —  
نظریہ اکبر آبادی اور نصیر دہوی رکھا ہے۔ "اسٹریجیکس"

(بے راہرو) کاترہ جھر بھم نہ کر سکے۔ ان کے اس باب کا نام  
"نظریہ اکبر آبادی اور نصیر دہوی" ہے۔

(سوم) سکینہ صاحب نے انیں میں سے چودہ باب نظم کے لئے  
محضوں کئے ہیں اور اتنے ہی آغا صاحب نے اس صفت  
ادب کے لئے وقت فرمائے ہیں۔ یقینیہ پانچ میں سکینہ صاحب  
نے شرکی ترقی کا ذکر کیا ہے اور جنسہ بھی آغا صاحب نے  
بھی پسند فرمایا ہے۔

(چہارم) سکینہ صاحب کا اٹھارہواں باب اردو ڈرامے سے بحث  
کرنے ہے اور آغا صاحب کا بھی یہ باب اسی نام سے،  
اسی موضوع سے متعلق ہے۔

(پنجم) ابواب کی تقسیم اور وجہ تسمیہ کے علاوہ۔ ابواب کے داخلی پاروں

نکے نام بھی سکینہ اور آغا صاحب کے بیان بیکار ہیں۔

۴۔ خلاصہ کرنے والوں کے لئے مصنف کی خاصیوں کا اتباع لازمی نہیں مگر مترجم کے لئے اذیس لازمی ہے۔ بتلا یہ کہ اگر مصنف سے کوئی شخصیت سہوا نظر انداز ہو جائے تو خلاصہ کرنے والے کے لئے اس کا اضافہ حرام نہیں ہے۔ اس کو مخدوٰفات کے اضافے کا ہر وقت حق حاصل ہے۔ لیکن جو مٹا ہیر مٹلا نواب مزا شوق، بیان دیز دانی، مفتر خیر آبادی، اور شوق قد دانی سکینہ صاحب سے سہوا نظر انداز ہوتے ہیں وہ آغا صاحب کو بھی یاد نہیں آئے۔ اس طرح انہوں نے خلاصہ کرنے والے کی جگہ مترجم کا اسوہ حداختیاً کیا ہے۔

۵۔ اس کتاب میں جو واقعات، رائیں اور تقدیمیں ہیں وہ رب کی سب سکینہ صاحب کی راستے سے تمام و کمال مطابقت رکھتی ہیں۔  
ذاکرِ اعجازِ حسین کی مشمول تصدیق (”محضر تاریخ ادب اردو“ کے متعلق مخوزہ اکابر آبادی سکھتے ہیں) :-

”محضر تاریخ ادب اردو“ کے مطابق سے حسب ذیل باتیں سانس نہ آتی ہیں:  
۱۔ محضر تاریخوں کے باپ میں اعجاز صاحب نے سکینہ صاحب کے قدم بقدم چلنے کی کوشش کی ہے اور ترتیب والتزام میں اس حد تک استفادہ کیا ہے جس کا جوانہ پر مشکل میرا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر -

(الف) جہاں سکینہ صاحب کو ولادت یا وفات کی تاریخ میر نہیں آئی وہاں اعجاز صاحب کے بیان بھی ناپید ہے۔

(ب) جہاں سکینہ صاحب نے ایک ہی بیان میں کبھی بھری اور کبھی میسوی تاریخ درج کی ہے وہاں اعجاز صاحب نے بھی بھی التزام قائم رکھا ہے۔

(ج) جہاں سکینہ صاحب نے بعض بھری پر اکتفا کی ہے وہاں اعجاز صاحب۔

نے بھی صرف اسی پر پتی تفاسیر فرمائی ہے۔

(د) اسی قسم کی خامیاں فرد گذاشتیں اور نامہ مواریاں کر سائل کی ولادت کی تاریخ نذر اور یا اس و بیگانگان کی ولادت کی تاریخ، بھری اور ملکتے جانے کی عیسوی پر کثرت موجود ہیں۔ ولادت کی تاریخ جو ملکتے کے سفر کی تاریخ سے اہم تو ہے۔ اگر عیسوی سے مطابق کر کے پیش کی جاتی تو مفید ہوتی۔ ان معائب اور سہل المکاریوں کو دیکھ کر حضرت ہوتی ہے۔

(س) جن شاعروں یا ادیبوں کا ذکر سکینہ صاحب کے یہاں ممکن نہ تھا۔ یعنی جو "تاریخ ادب اردو" کی اشاعت کے بعد معروف ہوئے، ان کی کوئی تاریخ اعجاز صاحب نے درج نہیں کی۔

۴۔ مودخ کو دست نظر اور بے تھبی کے علاوہ محمد حافظہ بھی درکار ہے جلقطے کی کمزوری اکثر بذکار نقل اصل پیدا کر دیتی ہے چنانچہ اس کتاب میں سعادت یار خاں زنگین جیسے جلیل القدر شاعر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن اس کو ترک بعہد نہیں کیا جاسکتا۔ ایک سہو ہے جو بہ سبیل آفاق آسانی سے ممکن ہے۔

۵۔ بہت سے نادر شعرا، جو سکینہ صاحب سے نظر انداز ہوئے میں مثلاً نواب حمزہ شوق، بیان، یزدانی، مرضیح خیر آبادی، شوق قدوالی، ان پر اعجاز صاحب نے بھی کوئی التفات نہیں کیا۔

۶۔ بیسویں صدی کی بھی بہت سی نادر شخصیتوں کو اعجاز صاحب نے فراموش کر دیا ہے۔ چنانچہ شعرا میں نادر کا کوری، شفق عمامہ پوری، آزاد انصاری، وحشت ملکتوی، مافی جالسی کے اسماء و تخلص اپنے عدم اندراج سے ممتاز نظر آتے ہیں۔

۷۔ مختصر افانہ لکھنے والوں میں نطیف الدین احمد اکبر آبادی کا شمار ملک کے ان چند پیش رو صناعوں میں ہے۔ جنہوں نے اس نوع کے ذوق تبلیغ کی نہ صرف بنیاد ڈالی بلکہ تربیت بھی کی۔ اس کتاب میں بہت سے ایسے افانہ بگاروں

کا ذکر موجود ہے جنہوں نے اس وقت جنم بھی نہ لیا تھا۔ حب ل۔ احمد کا نام ہندوستان کے بچے بچے کی زبان پر آچکا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے واقعی قاصر ہوں کہ لطیف الدین احمد اکبر آبادی کا نام کیوں کرا عجائز صاحب کے ذہن سے خو ہو سکا۔ یہ نام اگر محمد اترک کیا گیا ہے تو کمال بالائے کمال ہے۔

۴۔ بیان کا ملب و موجہ عامیانہ اور حبارت کا انداز غیر ادبی اور نہایت

غیر دلکش ہے۔ بندش کا دھبلا پن، الفاظ کی بے ترتیبی، انتخاب کا فقدان، تصورات کی غرت تحقیق کی کمی، نظر کا عدم بلونج چکر جگہ جگہ نمایاں ہے۔ الفاظ کی نشتیت میں مشرقی دیبات کی بولی، محاورے سے اور روزمرہ کا دخل جگہ جگہ اپنی غاری کرتا ہے۔ جگہ جگہ شتر گر بے کا عجیب موجود ہے۔

۵۔ مجموعی طور پر کتاب میں علمیت کا عنصر کم ہے اور سلطنت، نقائی

کی روایت پرستی زیادہ ہے۔

۶۔ پوری کتاب بڑی محفلت اور روا روی میں کمی گئی ہے۔ تکمیل کے بعد مسودے پر غالباً نظر ثانی بھی نہیں کی گئی۔ اس لئے طباعت کی بہت سی غلطیاں باقی رہ گئی ہیں۔ (۱)

اردو نثر کے عناصر اربعہ میں سرستید، آزاد، نذری، احمد اور شبیل کے نام اس حثیت سے منفرد ہیں کہ یہ صاحب طرز ادیب اور انسداد پرداز کہے جاسکتے ہیں۔ صاحب طرز کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ان کی تحریر بغیر ان کے نام کے دیکھی جائے تو مزاج ثناسان ادب و زبان معاپسیان لیں گے کہ یہ فلاں کی تحریر معلوم ہوتی ہے۔ سرستید ان سب میں ابتدا دوسرے تعلق رکھتے ہیں اس لئے ان کے ہان زبان میں ابتدا ای حالت کے اثرات صاف محسوس ہوتے ہیں۔ آزاد کی اپنی آنکہ بیشان ہے۔ تنقیلی انداز بیان آزاد کے ذہن و قلم پر پوری طرح پھایا رہتا ہے۔ خواہ وہ تنقید و تاریخ لکھ رہے ہوں یا بیان

(۱) نور اکبر آبادی، "صحیفہ اردو"، آگرہ: گیا پرشاد، ۱۹۳۳ء، ص ۵۸، ۱۱۰

وادب کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوں۔ اکبر کے دربار کے حالات ہوں یا ملکی دیباں ایسا ہتھ  
ذیندو بست کے معاملات خصوص کردہ فرم ہو بزم آزاد کا انداز بیان نہیں تغیر کے سوا  
بڑی تبدیلی قبول نہیں کرتا۔ شاعرانہ خیال آہائیں، استعارہ کا استعمال و زنگبینی بیان  
چنان شاعرانہ ما حول میں دل کشی کا موجب ہوتی ہے و یہی تاریخی و تنقیدی لپیں منظر میں  
شک و شبہ کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے اس لئے مولانا شبی کا یہ قول ان پر پوری طرح  
صادق آتا ہے۔

”جانتا ہوں کہ تاریخ کا مردمیدان نہیں لیکن ادھرا دھر کی گپ بھی  
مار دیتا ہے تو وحی معلوم ہونے لگتی ہے۔“

ڈپی نذریہ احمد نے اردو کی مختلف اصناف میں گزار قدر افنا فہ کیا ہے۔ بوڑوں کے  
لئے اب تک علیحدہ ریسرچ پرنسپل انسپکٹر نے اس کی تخلیق کی۔ نادل اردو میں خال خال  
تھے۔ اور زیادہ تر ان کا انداز قدیم داستانوں سے جدا نہ تھا۔ ڈپی صاحب نے جدید اردو  
نادل کی بنیاد ڈالی۔ ان کے ہاں زبان و بیان اور اثادر پردازی کا عجیب لطف پایا جاتا  
ہے۔ شوخی و ظرافت جیسی ان کی تحریروں میں ہے ان کے کسی دوسرے ہم عصر کے ہاں  
نہیں پائی جاتی۔ زبان اور بیان پر حاکما نہ فورت رکھتے ہیں۔ محاورات کے استعمال کا  
انہیں بے حد شوق ہے۔ اور اس میں بعض جگہ حدی احتلال سے بھی گذر جاتے ہیں۔ شبی  
نعمانی اس گروہ میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی عبارت دیکھ کر سرستیدہ بھی یہ کہنے  
پر مجبور ہو گئے کہ :-

”ابی صاف و شستہ اور بر جستہ عبارت ہے کہ دلی

والوں کو بھی اس پر رشک آتا ہو گا۔“

ان کی تحریریکے متعلق مولانا قادری کی رائے ہے :-

”علامہ شبی اپنے زمانے کے پہلے شخص میں جہنوں نے  
اسلوب تحریر کی اہمیت کو سمجھا۔ موقع و مقام اور موضوع و بیان کے مقابل  
اسلوب اختیار کرنے کے لیے صرف وجہ دل دل کی رسمائی شرط ہے۔“

قواعد صرف و نحو اور اصول معانی و بیان بھی بغیر ذوق سلیم اور ذہن متوازن  
کے کام نہیں دیتے۔ علامہ شبیل ایسا ہی مذاقِ صحیح اور طبع لطیف رکھتے  
رکھتے۔ ہر موقع و محل کے لئے اسی کے مناسب طرز تحریر یا اختیار کیا جائے ہے۔

لطیف و نازک استعارة و تشییہ سے بھی کام لیتے ہیں لیکن اس کے بغیر  
بھی الفاظ کے انتخابِ مُمکنات اور جملوں کی ساخت میں اس قدر حسنِ مناسب  
ملحوظ رکھتے ہیں کہ ان کی عبارت میں تہابیتِ دل کشی و دلادبڑی پیدا ہو جاتی  
ہے۔ اس کے ساتھ لطافتِ خیال، دقتِ نظر، وسعتِ تحقیق، قوتِ اتدال  
سے مصنون ہیں ندرت و چدّت اور تأشیر و فل فریبی پیدا کر دیتے ہیں جملت و  
اہمگیر کے موقع پر شانِ دار الفاظ اور موزون ترکیبیوں سے شان و شوکت  
دکھاتے ہیں۔ دلائل اور مثالوں کے انتخاب و ترتیب میں ان کا حسنِ نظر اور  
ذوقِ سلیمِ عایاں ہے۔ جس موقع پر دہ مرے مصنفتِ معمولی سامنے کی مثالوں  
پر قناعت کرتے ہیں۔ وہاں علامہ شبیل نادر و عجیبِ مثالیں تلاش کر کے لانے  
ہیں۔<sup>(۱)</sup>

## مولانا قادری بحیثیتِ انشاء پرداز

مولانا قادری کی نسبت و تالیف کا زمانہ بصفتِ صدی سے زیادہ عرصے پر  
محیط ہے۔ بالکل ابتدائی عمر کی تحریریں ان کی اویانہ صلاحیتوں کو پر کھنے کے لئے مواد  
فرائیم نہیں کر سکتیں لیکن ان ابتدائی تحریروں کی تاریخی اہمیت ہوئی ہے اور اسے  
ذہن درماغ اور زبان و بیان کی تدریجی ترقی کے مطابعے میں مدد ملتی ہے۔  
اشاء پردازی کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کا ذہن متوازن ہو، طبیعتِ معتدل

(۱) حسن قادری، مولانا، داستانِ تاریخی ادو، حوالہ بالا، ص ۵۳۰۔

ہو، مزاج افراط و تفریط سے بالاتر ہو اور اس کے ساتھ ہی زبان و بیان پر غیر معمولی قدریت ہو۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ اگر تخلیٰ کی بلند پروازی، خجالات کی وسعت نظر کی گرانی اور فکر کی گرانی حاصل نہیں تو انشا پر دوازی یا تو خالی الفاظ کا ایک جمود ہو کر رہ جاتی ہے یا بے اثر و بے کیف تحریر کا نمونہ ثابت ہوتی ہے۔ حققت دلخواہ کے لئے اوسی پر انشا پر دانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ مولانا قادری کی انشا پر دوازی کے نمونے ان کی عام تحریروں میں بھرے ہوئے ہیں۔ شاید ہی کوئی مضمون یا موضوع ایسا بوجگا جس کے متعلق لکھتے وقت ان کے ہاں انشا پر دوازی کا نمونہ نہ مل سکے۔ عوادضی پاریکیاں ہوں یا بدیع و بیان کے نقطے، تنقیدی موشگا فیاں ہوں یا تحقیقی موعکہ آہائیاں غرض ہر میدان میں ان کے قلم انشا پر دوازی نظر آ جاتی ہے۔ اور دمرثیہ الحادی کے متعلق لکھتے وقت پس منظر کے طور پر عرب کی شاعری کی کیفیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہے۔

”نوب کی شاعری بھی ہر ٹکڑے زبان کی شاعری کی طرح وہاں کے ملکی حالات طبیعی خصوصیات، ماحول و مناظر کا نتیجہ ہے۔ شاعری کی عام تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کی مختلف آوازیں، ہوا اور آندھی کی سرسرابہٹ اور اس سے پتوں اور شاخوں کی حرکت اور آواز، باش کے پانی کا مختلف چیزوں (زمین، درخت، دریا، پہاڑ وغیرہ) پر گرد کر مختلف آوازیں پیدا کرتا اور آندھی کے اثر سے ان آوازوں کی بلندی و پستی انسانی قافلوں اور مولشوں کے گلتوں کی آواز، برقاً، مختلف صنعتوں اور پیشوں کے اوزار اور ستمبیار فہمی مختلف مسلسل آوازیں، غرض ہر وہ قدرتی آواز جو انسان کی اپنی معمولی آواز سے مختلف سخنی انسان کو ابتدا سے آفرینش سے دچکپ اور جاذب توجہ معلوم ہوتی رہی ہے اور وہ اپنی آواز سے ان آوازوں کی نقل کرتا رہا ہے۔ یہی موسیقی کا آغاز ہے۔ اور موسیقی کی بے لفظ آواز کو الفاظ کے ذریعہ سے پیدا کرنا شاعری ہے۔ یہی سبب ہے

کہ شاعری انسان کی فطرت میں داخل ہے اور تمام عالم میں کوئی تباہی میں  
نہیں جس میں شاعری موجود نہ ہو۔

عرب کا ملک بہت سی قدر تی آوازوں سے جن کی محض فہرست  
ہم نے اوپر لکھی ہے خود میں ہے۔ دریا و آبشار، ندی و نالے، درخت اور  
پرند۔ عرب میں کثرت سے اور عام طور پر موجود نہیں میں لیکن انہوں کے  
قلقلے اور ان کی آواز، رفتار روزمرہ کا متابہ ہے۔ گرمی کے دفعوں میں عوام  
رات کو سفر ہوتا تھا۔ ساری ساری رات چلتے رہتے تھے۔ عرب کے بیگن  
اندھیری رات، تمام رات کا سفر کوئی دل کش منظر نہ تھا۔ دلچسپی کے سامان نہ  
تھے۔ انہوں کی آواز کے سوا اور کوئی آوانہ نہ تھی۔ فطرت نے شتر باؤں کو  
اسی آواز کی طرف متوجہ کر دیا۔ اس آواز میں ایک قسم کی موسیقی کا احساس ہوتے  
لگا اور اسی آواز پر عربوں نے اپنی لئے طافی شروع کر دی۔ اور اپنے جذبات  
اسی لئے میں ظاہر کرنے لگے، یہ موزوں و مقفلی قصر سے یا ابتدائی شاعری  
رجسٹر کہلانے لگے اور یہ شتر سواروں کے خاص نفعے ہدی۔ اب یہ کیفیت  
ہو گئی کہ اونٹ اپنے سواروں کے نئے سن کر مت دبے خود ہونے لگے  
جہاں شتر باؤں نے دیکھا کہ اونٹ کو منزل بھاری پڑتے لگی فوراً زیادہ موثر  
لہجے کے ساتھ ہدی پڑھنی شروع کر دی اور اونٹ پھرست و محو ہو گئے  
اس رجسٹر و ہدی کا موضع کیا تھا؟ ان میں کہن جذبات کا ظہار ہوتا تھا؟ (۱)

اسی طرح اسی کتاب میں آگے چل کر میرا نیت کے حال میں مرثیے کے متعلق  
بڑے خوب صورت انداز میں لکھتے ہیں :-

"مرثیہ وہ لعل ہے بہا تھا جو اپنی ابتداء دسویں صدی  
کے آخر) سے میر حسن (امغار ہو یہ صدی کے آخر) تک  
دو سو برس تقریباً کسپرسی کی حالت میں پڑا۔ اس عرصے میں جو کچھ تبلیغ

(۱) حامیں قادری بولنا، "مختصر تاریخ مرثیہ گوئی"، کراچی، پرکارٹ پریس (زاٹر) اور اکیڈمی  
سندھ، ۱۹۶۲ء، ص ۵۰۷۔

و ترقی بھوئی زبان کی ترقی کے زیر اثر ہوئی ورنہ اس پر فن کی حیثیت سے کبھی نہ توجہ نہیں کی۔ آخر میسر صفت نے اس کو صاف کیا، چکایا کہ اس کی قدر و قیمت نظر آنے لگی لیکن یہ خدمت میسر انسٹیشن کے لئے ددیعت بھی کہ انہوں نے مرشیے کو زبان اردو کے تاج کا سب سے بیش بہا و گرانقدر گوہ بنادیا۔ (۱)

مولانا کی یہ شانِ انشاء پردازی ہر جگہ سجال رہتی ہے۔ مطالب اشعار میں انشاء پردازی کا زیادہ موقع نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات انشاء پردازی سے تشریح اشعار میں خلط صحبت کا اندیشہ ہو سکتا ہے لیکن مولانا نے تشریح اشعار کے ساتھ جس موقع پر انشاء پردازی کا جلوہ دکھایا ہے وہاں نہ صرف یہ کہ تحریر میں ایک خاص دلکشی و تاثیر پیدا ہو گئی ہے بلکہ خود شعر کے مطلب اور وضاحت میں گوناگون اضافہ ہو گیا ہے۔ انتخابِ دیوانِ مومن سے چند مثالیں ملاحظہ ہوں : -

”کتنا شاعر مہر نے حیران کیا ہمیں!  
تکنے میں کب سے روزنِ دیوار کی طرف

یہ تجھیں اور اسلوبِ دونوں بہت خوب ہیں۔ روزنِ دیوار میں جلوہ یار یا جلوہ یار سے روزنِ دیوار کا روشن ہونا خود مومن نے اور دوسروں نے لکھا ہے لیکن اس شعر میں بڑا نادر خیال ہے اور بیان میں مومن کا خاص رنگ موجود ہے۔ یعنی حیرانی کا سبب بیان نہیں کرتے مفہوم یہ ہے کہ جلوہ یار آفتاب سے کم نہیں ہے جب کبھی ہمارا محبوب روزنِ دیوار کے پاس ہوتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاعر آفتاب روزن میں آگئی ہے۔ یہ کیفیتِ تجدیش کی ہے۔ آج روزنِ دیوار میں شاعر آفتاب بھی۔ ہماری نظر جو اس طرف امیٹی، معاً خیال ہوا کہ روزن کے پاس دوست کھڑا ہے۔ اس کے جلوے کی روشنی ہے

(۱) حامد حسن قادری، مولانا، ”محضر نامہ پنج مرثیہ گوئی“، کراچی: سپر آرٹ پریس،

ذناشر اردو اکیڈمی سندھ، ۶ ۱۹۹۴ء، ص ۰۵۰

حیران ہو کر تکنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اس میں ایک لطف اور ایک تاثیر ہے مخفی اس وجہ سے کہ یہ ایک جذبہ ہے اور اس مضمون و بیان میں نہ ت ہے۔ محبت کے جذب و تخلیل میں مزہ ہوتا ہے۔ فہیت کی بات اور نادر خیال خود ایک لذت اور ایک کشش رکھتے ہیں۔ کسی شعر یا شاعری کا اگر اور کوئی مقصد نہ ہو تو اس کا جذبہ اور تخلیل شریعت اور ادبیت خود ایک مقصد اور ایک قدر ہے۔ مضمون کی واقعیت اور اصیلیت بلاشبہ نہایت پُر اثر ہوتی ہے لیکن کبھی واقعہ کے قریب ہونا لطف و اثر پیدا کر دیتا ہے۔ اس شعر میں شاعر شاعر ہر روزے یار کا دھوکا بیان کرتا ہے یہ دھوکہ تو بے شک نہیں ہو سکتا لیکن شاعر ہر کو دیکھ کر جو عاشق کو روزے یار یاد آیا اور اس کا تصور بندھا اور حسن و جمال کی نشاط انگریزی نے دل و دماغ پر جو محنت کا اثر پیدا کیا وہ آفتاب کی تابانی سے نہایت مشابہ ہے۔ مومن کے اسی مضمون کو دائر نے دوسرے انداز میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں : ۵

بے پردہ اگر جلوہ نادہ نہیں گھر میں ۔ ۔ بھلی سی چمک جاتی ہے کیوں یعنی دمی  
روزن در میں تو بھلی نہیں چمکتی ستحی لیکن پڑھنے والے کے دل میں اب بھی بھلی سی  
چمک جاتی ہے میرے نزدیک غزل اور بیان حسن و عشق کا یہی مقصد و نشان اور ماصل  
ہے۔ واقعیت شرطِ لازم نہیں :- (۱)

مولانا کی انشاء پردازی میں بھی صداقت اور واقعیت کی شان بزفار برہتی ہے اور یہ کسی مورخ اور نقاد کے کمال کی دلیل ہے کہ تحریرِ شکفتہ و بے ساختہ ہونے کے ساتھ ساتھ سچائی سے خالی نہ ہو۔ مولانا کے یہاں حقیقتِ لگاری اور انشاء پردازی قدم پر قدم جلتی ہیں۔ ”داستانِ تاریخِ اندو“ سے چند اقتباسات ملاحظہ کیجئے :-

”آزاد بامکال“ خدا ساز ہستیوں میں لکھتے ان کا ذہن زبان و معاورہ الفاظ

(۱) حامد حسن نامہ، مولانا، ”انتخاب دیوانِ مومن“، علی گڑھ؛ انجمن ترقی اردو (بندھ)

و بندش کے انتخاب کے متعلق صحیح توازن و تناسب رکھنا تھا۔ اور ان کی طبیعت میں ندرت آفرین دجدت طرازی اعلیٰ درجے کی تھی۔ زبان و بیان کی شیرینی و نرمی میں کوئی ادیب ان کا شرکیں نہیں ہے اس لئے آزاد اپنے زمانے کے پہلے صاحب طرز ہیں۔ آزاد کے طرز کو شاعرانہ و عاشقانہ زبان میں بیان کیا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ آزاد تھا "طرح دار" ادیب ہیں۔ ان کی تحریر کا بانکپن، پچھے یہ ہے کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ گویا: عذر

"مزے یہ دل کے لئے ہیں۔ نہیں زبان کیلئے"

اسی جدت پذی کا یہ نتیجہ ہے کہ علامہ آزاد نے طرزِ عبارت کی ایجاد کے علاوہ مضامین و موضوعات کی ترتیب و تالیف میں وہ جدتیں پیدا کی میں جو ان سے پہلے موجود نہ تھیں اور یہ اولیات آزاد ہیں مشتمل۔

۱۔ شعر کے تذکرے آزاد سے پہلے بھی بہت لکھے گئے ہیں لیکن سب نہایت محصر تھے۔ اکثر میں حروفِ تہجی کی ترتیب تھی، کسی میں زمانے کی تقدیم و تاخیر کا لحاظ رکھا گیا تو محبل اور سسری طور پر، کسی میں حالات و کلام کے متعلق تحقیق و تفصیل نہ تھی۔ مقابلہ و موازنہ نہ تھا۔ زبان و محاور اور طرزِ کلام کا تجزیہ و ارتقاء نہ تھا۔

آزاد کو سب سے پہلے ان تمام اجزاء و لوازم کی تالیف کا خیال پیدا ہوا انسوں نے "آبِ حیات" میں یہ سب خامیاں رفع کر دیں اور ایسی کتاب لکھ دی کہ آج بھی کوئی تذکرہ نہیں "آبِ حیات" کے استفادے سے بے نیاز نہیں ہے۔ پھر اس میں اگر کچھ غلط بنیاں اور بے جا طرف داریاں بھی ہوں تو ان سے آزاد کے فضل تقدیم اور "آبِ حیات" کی اولیت میں فرق نہیں آتا۔

۲۔ زبان کی ساخت اور ارتقاء کے متعلق آزاد کی "سخنداں فارس" الہم کو تقدیر آبِ حیات" سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ آزاد کی زبان میں بیشوقِ تحقیق اور قوتِ ایجاد نے لوردو میں اپنی نوعیت کی پہلی تصانیف پیدا کر دی ہیں۔

رمز یہ اور تمثیلی مضمایں اور ان کے اسالیب بگارش کا اس قدر تنفر ہے۔ اور ایک کمال آزاد کے "نیزنگِ خیال" سے پہلے نظر نہیں آتا۔ آزاد نے اس پر ایسے مسائل مذہبی و علمی و ادبی کی تحقیق بھی کی ہے اور نقد و تبصرہ بھی۔ طعن و طنز بھی کیا ہے اور اخلاق بھی بکھائے ہیں۔

اگرچہ مولانا شبیلی کی تاریخ و سیرت کی تصانیف "الفاروق" وغیرہ کے سبب سے علامہ آزاد کی "در بار اکبری" کو اولیت کا درجہ حاصل نہیں ہے تاہم تاریخ میں ادبی شان پیدا کرتا اور افانہ و ناول سے زیادہ دلچسپ بنادیتا آزاد ہی کا پہلا کمال ہے۔ خصوصاً اکبر بادشاہ کے حالات خاص اہتمام سے بکھے ہیں۔ اگرچہ آزاد نے اکبر کی بے دینی اور علماء کی توبیں کو بہت سراہا ہے۔ اس لحاظ سے آزاد کا مرتبہ موجود کا بھی ہے۔ نقاد کا بھی، صاحب طرز کا بھی۔ آزاد سب سے پہلے انشاد پرداز ہیں۔ پھر مورخ، تذکرہ نویس، سیرت بگار ان کی تحقیق و تنقید سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی انشاد پردازی سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس لئے بقاءے دوام کے اخبار سے آزاد بھی ثابت انشاد پردازی کے زندہ جاوید ہیں۔ زبان و بیان کی دلکشی میں ان کی ہر کتاب سدا بہار گلزار ہے۔ مطالعہ و حوالہ کرنے ان کی ہر کتاب مقید و ضروری ہے۔ لیکن تحقیق و تنقید کی نظر میں ان کی ہر کتاب پڑاں سوچکی ہے۔ "آبِ حیات" کے نظریے بدل چکے ہیں۔ اور بہتر تبصرے لیکھے جا چکے ہیں۔ "سخن دان فارس" کے تجزیے اور تقریظیں اب قول فعیل نہیں ہیں۔ دربار اکبری تاریخ کے طالب علموں اور اتادوں کے پہلے بھی کچھ عجوہ نہ تھی اب تو بہت با اصول مفصل و مکمل تاریخیں موجود ہیں۔ بگارتان فارس ر تذکرہ شعرائے فارسی ا صرف آزاد کے شغف و عشق فارسی کا ایک چینٹا ہے۔ لیکن اتنا ہلکا پڑا ہے کہ خود آزاد کی تایفات میں بھی اس کا کوئی درجہ نہیں۔ قدیم تذکرات، "تذکرہ دولت شاہ سمر قندی"، "آتش کردہ آزر"؛ "سرد آزاد"؛ وغیرہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے چہ جائیکہ مولانا شبیل اور پروفیسر برادن کی تایفات سے مقابلہ ہو سکے۔ نیزنگ

خیال" آزاد کی دوسری کتابیں سے زیادہ دیر پا ہے۔ اس لئے کہ یہ نہ تاریخ ہے، نہ تذکرہ نہ سیرت، نہ فلسفہ زبان، بلکہ صرف انشاء ہی انشا ہے۔ اگرچہ یہ طرز رمز و تمثیل منتقل مقالہ بیکاری کی صورت میں راجح نہیں ہے۔ لیکن یہ شانِ مجاز اور مصرفِ استعارہ، شعرو ادب کا جزوی عنصر ہے اور اب بھی آفیٹے اور ناولِ مزاحیات و طنزیات، بلکہ تنقیدیں اور سیرے اور ادبیات و علمیات بھی "نیزگ خیال" کے ذمک تحریر کے نمونے نے صمنی اور جزئی طور پر اپنے اندر رکھتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

مولانا آزاد ہی کے حال سے ایک اور مختصر اقتباس ملا خطہ ہو:-

"یہ قصیل اس لئے لکھی گئی ہے کہ علامہ آزاد کی یہ حالت جذباً و بے خودی صرف مصائبِ الالم کا نتیجہ نہ ہتی بلکہ یہ ماڈہ ان کے آب و گل میں نجیرنا ہا اور بقول سید جالب کے "آپ کی بُود و باش زیادہ تر تخلیل کی دنیا میں سیستی ملتی" یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت و رحمت ہتھی کہ جب آخر کار ان کی یہ حالت ہونے والی ہتی تو پسلے ہی سے ان کے دل و دماغ میں الہیات و تصور کا شوق پیدا کر دیا تھا کہ اس حالم میں بھی بے کیف و بے فیض نہ رہیں۔ قاعدہ ہے کہ اس حالت سے پہلے جیسے خیالات دل و دماغ پر چھائے ہوتے ہیں وہی اس عالم میں جنم جاتے ہیں اور زبان سے بخکھتے ہیں۔ آزاد کو سند و دوں کے فلسفہ والیات سے خاص شغف تھا، چنانچہ ان کی اس عالم کی تصنیف "سپاک و نماک" میں بھی اس کا اثر ہے۔ اور یہ فلسفہ الہیات تو اول سے آخر تک اسی رنگ میں ہے۔<sup>(۲)</sup>

انشاء پردازی کا لازمہ بعض اوقات طول کلام بھی سمجھ لیا گیا ہے۔ بعض انشاء پردازی کی تحریروں میں طولِ لا طائل کی کثرت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سکراہ اور اعادہ بھی

(۱) حاجین قادری، مولانا" داستانِ تاریخِ اردو" دھولہ بالا، ص ۲۷-۳۴۔

(۲) ایضاً، ص ۵۱۵۔

اسی طوالت کے زمرے میں

پایا جاتا ہے۔ مولانا قادری کی تحریر کی بڑی خصوصیت، بیان کا مربوط و ممزوج، ہم آنگ  
و ہم رنگ اور جملوں کا بیک دیگر سے باہم پیوست ہونا ہے۔ وہ صرف اتنی ہی بات کہتے  
ہیں حتیٰ ضرورت ہوتی ہے لیکن اس منقرضی بات میں تمام جزویات کا کمال چاپک دستی  
سے احاطہ کر لیتے ہیں۔ ویسے بات کا اختصار سے کہنا قابل تحسین بات ہے۔ لیکن اگر  
اس میں ادبیاتہ انشاد پردازی کی شان بھی جلوہ گر ہو تو وہ انفرادی خصوصیت کمی چاہیے  
اسی منظر طرزِ تحریر لیکن ادبیاتہ شان اور انشاد، پردازانہ کمال کا اک منقرض سامنوتہ یہ ہے:-

"پرانی تعلیم کے زیرہ سایہ اور نئی روشنی کی صبح صادق میں جتنے

بہتر سے بہتر اسالیب بیان پیدا ہو سکتے تھے وہ سرتیڈ سے شبیلی و شریک  
پیدا ہو گئے۔ اس امر میں سرتیڈ کی جامعیت ہرہت انگریز ہے۔ اکیلے سرتیڈ کی تحریر  
میں عالمانہ و فلسفیاتہ، متین و مزاج، مقدم و گرم ہر طرح کا اسلوب موجود ہے  
شبیلی اپنے اسلوب کے توازن و تناسب، صحت و سخنچلگی میں سب معاصرین سے  
پُڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن سرتیڈ کے جوش کی ان میں کمی ہے۔ حالی ان دونوں کے  
درمیان میں ہیں۔ اگرچہ جوش ان میں بھی نہیں ہے۔ حالی نے سرتیڈ کی صحت و  
صنافی کو آگے بڑھایا لیکن حسن و موزوں دنیت میں شبیلی سے پچھپہ رہے۔  
ذریار احمد اور آزاد اپنے اپنے زنگوں کے موجود اور خاتم ہوئے۔ سرشار "سجاد حسین" پنجی طرزِ طرافت کے خداوند تھے۔

بیسویں صدی میں اقسام کے لحاظ سے پہلے سے زیادہ اسالیب

بیان ایجاد ہوتے اور تقریباً سب انگریزی زبان و علوم سے تاثر ہیں۔ عصر حاضر  
میں مغربی تعلیم سے اردو کو جو سب سے بڑا فیض پہنچا۔ اور زبان و ادب  
کی جو اصلی خدمت ہوئی وہ یہ ہے کہ فلسفہ و سائنس، تاریخ و سیرت، ادب  
انشد، تصور و تفہید، ناول و افسانہ وغیرہ مختلف موضوعات کے لئے انگ  
انگ نسب و موزوں اسالیب مخصوص ہو گئے۔ اب سے پہلے یہ بات

نہ تھی یا غال خال تھی، جتنا کہ ہم تفصیل کے ساتھ لکھے چکے ہیں۔ لیکن ان دو نگلوں (اندیسویں صدی کا آخری اور بیسویں صدی کا ابتدائی زمانہ) کے مصنفوں میں عجیب و غریب دلچسپ فرق یہ ہے کہ سرستیدہ اور ان کے رفقاء و معاصرین کو جو اسلوب پسند تھا وہ انہوں نے ابتدائی تحریر سے اختیار کر لیا اور آخر تک اس پر قائم رہے۔ آزاد، نذیر احمد، حامی و شبیلی کا انداز و طرز ان کی پہلی تصنیف میں موجود ہے، اس کی تکمیل و نچلتگی میں البتہ کچھ دیر لگی، لیکن اتنی ہی تختنی کسی اسلوب کے ہمارا ہونے اور سمجھنے میں لگتی ہے۔ برخلاف عصرِ حاضر کے کہ اس زمانے کے سب نہیں تو بہت سے مشہور اہل قلم اسلوبوں اور اندازوں کے پیچھے دوڑتے پھرے پھر کہیں مدت کے بعد کوئی ردش اختیار کر سکے ابوالکلام آزاد کی "علمائی شان دار نشر" الہلال" سے شروع ہو کر تفسیر قرآن مکر رہی، پھر ملکی پڑگئی۔ نیاز فتح پوری کی۔ "نشر میں شاعری اور" شیگوریت" کچھ عرصے جاری رہ کر ختم ہو گئی۔ اور "نشر میں نثر" لکھنے کے خواجہ حسن نظامی نے زبان میں چیخلوں کا مزہ پیدا کیا۔ چیکیاں لیں، گد گدیاں کیں۔ لیکن ان کی بھی خدمت ہوئی۔ ملا رموزی نے اردو کو گلابی رنگ دیا یعنی "گلابی اردو" کے نام سے ملایا نہ لفظی ترجیح کا طرز لکھا۔ لیکن یہ رنگ پختہ نہ تھا۔ دھل گیا۔ پھر مزا جیہ شوخ رنگ اختیار کیا۔ آخر دہ بھی بادامی ہو گیا۔ رشید احمد صدیقی نے طنزیات میں انفرادی رنگ نکالا۔ شوچی میں ادبیت پیدا کی۔ لفظوں کے معنی اور معنوں کے لفظ ایجاد کیے۔ لیکن یہ اسلوب تھکا دینے والا تھا۔ چنانچہ تھک کر بیٹھ رہے اس طرح کے تغیرات اور اُٹ پھیر اور اسالیب اور اہل قلم میں بھی ہوتے۔ یہ چند نام مثال کے طور پر لکھے گئے ہیں۔ ان میں یک رنگی قائم نہ رہنے کا سبب یہ تھا کہ یہ سب روشنیں اصل میں تحریر کیں "جو انبیا" تھیں، لکھنے والوں کے۔

شایستہ تک رہیں ۴۱)

۱۱۳۔ حامد حسن قادری، مولانا، "داتا نی تاریخ اردو"، محوالہ بالا۔ ص ۱۱۹۔

## مولانا قادری بحیثیت نقاد

ادب اپنے معاشرے سے سے نہ الگ ہوتا ہے نہ بنے نیاز ہو سکتا ہے۔ انسان کو ایک خاص ماحول میں رہنا ہوتا ہے اور اکثر یہ عمل اس کے اختیار و ارادے سے باہر ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بعض قومی طبائع اپنے محل کو متاثر کرتی ہیں اور اس طرح رد و قبول اور اثر پذیری و اثر اندازی کے باہمی عمل و رودھم سے فرد اور معاشرہ دونوں کی ترقی و تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ جس طرح زندگی ایک مستحرک نامیاتی اور ردن دوان قوت ہے۔ اسی طرح معاشرہ بھی تبدیلی کا شکار ہوتا رہتا ہے اور ادب اس معاشرے میں رہنے والے افزاد بھی تخلیق کرتے ہیں اس لئے یہ قوانینِ فطرت کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی عہد کا نام ترا ادب اس عہد کی تحریکات، رجحانات، میلانات اور اثرات سے مبرأ ہو۔ اس بیان میں تمام ترا ادب کے الفاظ قابل الحافظ ہیں۔ چونکہ انسان کی طبائع مختلف ہیں اس لئے اس کی قوت، متأہدہ اور قوتِ اثر پذیری بھی یکساں نہیں ہوتی۔ یہ عام تجربے کی بات ہے کہ نہ کسی ایک ادیب کی تمام تر تخلیقات اس کے عہد کی مکمل آئینہ دار ہوتی ہیں۔ اور نہ یہ ممکن ہے کہ کسی ادیب کی تمام تر تخلیقات اس عہد کے اثرات و مشکلات، مصائب و نوائب، رنج و براحت اور دیگر معاشی و معاشری مسائل سے یکسر غاری ہوں۔ افراط و تفریط کو چھوڑ کر کم و بیش ہر ادیب و شاعر کے ہاں ایسے عصری اثرات دھونڈے جا سکتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ بعض کے ہاں تلاش و جستجو کے بعد کم ملتے ہیں اور بعض کے ہاں بہت۔

یہی حال ادب اور تنقید کا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ادب تخلیق کرتا ہے وہ احس سے بے بہرہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا ادب کیا ہے اور بُرا کیا؟ یہ الگ بات ہے کہ جو دسری سماجی و اخلاقی اقدار اس کے عہد و معاشرے میں رائج ہوں ان کی پابندی کے حافظ سے اس کے ہاں اس قسم کی تحریر و تقریر نہ مل سکے جس کی آج توقع

کی جاتی ہے۔

اردو ایک خاص معاشرے کی پیداوار ہے اور اس کا ادب بھی اسی سے فیضیا۔  
ہے اس لئے لازمی ہے کہ تنقید بھی اس سے بے بہرہ نہ ہو۔ چنانچہ اردو میں تنقید  
کافی جس طرح اس عہد میں پایا جاتا ہے۔ ابتدائی دور میں اتنا نہ تھا لیکن شعر کی خانی  
فون کی خانپنچگلی زبان کی ثقاہت بیان کا نقش یا اس کے برخلاف اس کی خوبیاں ہمیشہ سے  
نہ صرف لکھنے والوں بلکہ پڑھنے والوں کے ذہن میں بھی موجود رہی ہیں۔

چنانچہ اس کے اولین نونہے ہم کو اردو شعرا کے تذکروں میں ملتے ہیں خواہ وہ سراسر  
تحسین ہو یا سراسر تنقیص۔ ذاتی رجحانات کی آئینہ دار ہو یا معاصرانہ چشمکوں کی پروردہ  
لیکن بہر طور اس عہد کے لحاظ سے اسے تنقید ہی کہنا پڑے گا۔

اردو کے ادبی حلقوں میں پروفیسر کلیم الدین احمد کا یہ فقرہ بہت مشور ہوا ہے  
کہ：“اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے۔ یہ اقلیدس کا خیالی نقطہ ہے یا معموق  
کی موجود مرکز؟” (۱)

تنقید کی ابتداء کے لئے تذکروں کا ذکر ناگزیر ہے۔ پروفیسر کلیم الدین احمد اپنی مولہ  
بالا کتاب ”اردو تنقید پر ایک نظر“ میں پرانے تذکروں کے سلسلے میں تحریر کرتے  
ہیں:-

”اردو میں تذکرے تو بہت ہیں۔ پرانے اور نئے بسح تو یہ ہے کہ ابھی تک اردو  
تنقید تذکرے کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھ سکی۔ پرانے تذکرہ نگار سیدھے سادے طریقے  
سے فیباً خوشی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ آج کل زور شور، ہنگامہ، طم طراق زیادہ  
لیکن اندر خلاہی خلاہی۔ ترتیب اور مناسبت کا لحاظ کچھ زیادہ ہے لیکن تنقید اب  
بھی نہیں ملتی۔

(۱) کلیم الدین احمد، پروفیسر، ”اردو تنقید پر ایک نظر، لاہور: عشرت پیشگ—  
نومبر ۱۹۶۵ء، ص ۱۰۔

تذکرہ دل میں شاعروں کا ذکر سمجھو ما باعتبار حروف تہجی ہوتا ہے مختلف رنگ اور مختلف پائے کے لوگ نزدیک، شانہ پہ شانہ الٹھا ہو جاتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ پر اگندگی ہے۔ ضروری باتیں جیسے اردو شاعری کی ابتداء اور ترقی کے مختلف مدارج کی جیل القدر شاعر کا اثر اپنے معاصرین یا شعرائے مابعد پر، شاعری اور شاعروں کے بدلتے ہوئے احوال یہ باتیں عنقا ہیں، تذکرہ مگار بس یہی چاہتا ہے کہ جتنے شاعروں سے اسے ذاتی واقفیت ہے ہے ان کے لحاظ کا محمل یا مفصل ذکر کر دے۔ ایسے تذکرہ میں بھی جانبداری سے کام لیا جاتا ہے۔

مولانا قادری کی حیثیت محقق اور نقاد دونوں کی ہے۔ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ذاتی "تاریخ اردو" کے طبع ہونے سے قبل یہی سمجھا جاتا تھا کہ نظم اردو کی طرح نشر اردو کی ابتداء بھی دکن سے ہوئی ہے اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب "معراج العاشقین" کو ہی پہلی کتاب بتایا جاتا تھا۔ پہلی بارہ مولانا نے خواجہ سید اشرف جہانگیر سمنافی (متوفی ۸۰۸ھ / ۱۴۰۵ء) کے رسالے کو جو اخلاق و تھوفت کے موصوع پر ہے اور ۸۰۷ھ بھری میں تحریر کیا گیا اردو کی پہلی کتاب قرار دیا۔ پہلے اس پر بعض اصحاب نے شک شہادت کا اظہار بھی کیا لیکن اب عام طور پر اس کو ہی اردو کی پہلی تصنیف سمجھا جاتا ہے "داستان تاریخ اردو" میں مولانا نے اس کے نو نے جگہ جگہ دیئے ہیں۔ "داستان تاریخ اردو" سے پہلے جو کتنا بیس لکھی گئیں ان میں عام طور پر اردو کے ابتدائی دور کا ذکر کرنے کے بعد انگریزوں کی آمد ان کے اثرات اور ان کے اقدامات پر بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد فوٹ دیم کا لمحہ کا ذکر ملتا ہے اور بہت تفصیل سے اس پر نکھاگیا ہے ہم بھی سابقہ اوراق میں "فوٹ دیم کا لمحہ" کی اہمیت اور اس کی خدمات کا ذکر کرچکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اردو نشر کو ترقی دیئے۔ اس کو آگے بڑھانے اور صاف سلیں بنانے میں "فوٹ دیم کا لمحہ" کا بڑا ہاتھ ہے۔ مگر "داستان تاریخ اردو" سے قبل یہ تاثر حامم تھا۔ کہ یہ عالم اقدامات اور کوششیں صرف کا لمحہ اور ارباب اقتداء کی جانب سے ہی ہوئیں۔ اردو کا لمحہ کے دور سے ہے کہ سرستید کے عہد تک ایک خلاں

معلوم ہوتا تھا جسے بعض اصحاب نے عہدِ تاریک کا نام بھی دیا ہے۔ وجہ یہ مخفی کہ کسی نے تحقیق کر کے ان مصنفین کے حالات بہم نہ پہنچائے جو "فروٹ ولیم کالج" سے غیر متعلق رہ کر از خود آزادانہ اردو کی خدمت کرتے رہے تھے۔

مولانا قادری نے پہلی بار داستان میں ایک پورا باب "مصنفین بیرون کالج" قائم کیا اور اس میں تفصیل سے ان مصنفین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس نام نہاد عہدِ تاریک میں بھی علم و ادب کے چراغ فروزان رکھے۔

تفصید میں مولانا قادری کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے جو سب سے جدا ہے، مولانا نے اپنے مذکور کو اپنے مصنفوں "القدابی شاعری" "رمطبو عہد" نگار لکھنؤ ۱۹۴۲ء میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہاں ایک مختصر ساقتباس پیش کیا جاتا ہے جس میں مولانا اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں :-

"میں اپنے مذہب، اخلاق و معاشرت، ادب اور شاعری سب میں نہایت "کثیر" واقع ہوا ہوں۔ میں اپنے مذہب کو "ابہامی" اپنی تہذیب کو " توفیقی" اور اپنے شعرو ادب کو "رواہتی" سمجھتا ہوں اور ان میں سے کسی کے متعلق اپنے نظریہ عمل کو بد لئے کے لئے تیار نہیں۔ میں زندگی کے ہر پہلو انقلاب کی بر تحریر کیں اور شعرو ادب کی بر تجدید کو اپنے اصول پر جانچتا پر کھتنا ہوں۔" (۱)

یہ مختصر گز جامع بیان مولانا کے نظریہ، اسلوب اور اصول کی بنیاد فراہم کر دیتا ہے۔ اس پارے میں الفاظ کا و اوین میں ہونا خاص معنی رکھتا ہے (یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ "میں اپنے ادب کو "رواہتی" سمجھتا ہوں" تو اس فقرے میں رواہتی کا لفظ و اوین میں تحریر کرتے ہیں اس لئے اس کی خاص اہمیت ہو جاتی ہے اور اس کے خاص معنی

(۱) حامد حسن قادری، مولانا، "القدابی شاعری" ماہنامہ نگار لکھنؤ، جزوی و فروری ۱۹۴۲ء، ص ۸۵

بھی ہیں۔ روایتی اس معنی میں کہ دوسرے لوگ اسے روایتی سمجھتے ہیں تو سمجھیں مگر اصل میں یہ روایتی نہیں۔ اس کی تصدیق اسی مضمون کے اگلے فقرے سے یوں ہو جاتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ”میں زندگی کی طرح شعروادب میں بھی انقلاب کو ناگزیر سمجھتا ہوں، لہذا اگر کوئی ادیب انقلاب کو نہ ندگی کے لئے ناگزیر سمجھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نہ قدم است پسند ہو سکتا ہے نہ روایتی ہی کہا جا سکتا ہے اور جو شخص شعروادب میں بھی انقلاب کا نہ صرف قائل ہو بلکہ اسے ناگزیر عمل بھی سمجھتا ہوئے تو کسی بھی طرح روایتی یا قدامت پر کہا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا نے روایتی کے لفظ کو وادیں میں لکھنا پسند کیا۔ دل چپ بات یہ ہے کہ اسی مضمون میں اس فقرے سے پیشتر ہی مولانا نے واشقہ الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ”میں بڑھلپے کی نسبت سے بہت بڑھ کر قدم است پسند بلکہ پرست“ ہوں۔ ”اس فقرے میں بھی مولانا نے پھر“ پرست ”کے لاحقے کو وادیں میں تحریر کیا ہے۔ ان بیانوں کی مطابقت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ مولانا کو مشرقی قدر تہذیب اور معاشرہ عزیز تھا۔ اور جو صالح معاصر ان اقدار میں شامل تھے۔ ان کی شکست و ریخت انہیں گوارا نہ تھی۔ اور محض تجدید پسندی کے نام پر معاشرے کی بیخ کرنی ان کے نزدیک فعل محسن نہ تھا۔ اسی لئے انہوں نے اپنے اس روایتے کو قدم است پسندی بلکہ پرستی سے تغیری کیا۔ حالانکہ جس کا نظر یہ یہ ہو کہ وہ معاشرے کا خاموش تماشائی نہیں ہو سکتا اور اگر ادیب و شاعر و نقاد ہے تو شعروادب کے میدان میں شکست خورده ماضی کی طرف مرٹ کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔

مولانا کی تنقید میں ہمیں ماضی اور مستقبل دونوں کے صالح اور صحیت مند معاصر پرست نظر آتے ہیں۔ انہیں اپنی فکر و نظر پر اعتماد ہے اپنے اصول و اساس تنقید پر بھروسہ ہے اس لیے ان کی رائے میں سچنگی و اعتماد، خیالات میں گیرائی دگہرائی، نظر میں وسعت و بلندی اور سب وہ بھے میں ہم آہنگی و صداقت ہے۔ مولانا قادری نے بعض ان مصنفوں پر بھی فلم اٹھایا ہے جن پر شبیلی لکھو چکے تھے لیکن علامہ شبیلی کے بعض حیرت ناک تصریحات کو انہوں نے صاف صاف بیان کیا ہے وہ سخت سے سخت

تنقید میں بھی انصاف پندی کے وامن کو ہاتھ سے نہیں جانتے دیتے "علامہ شبیل اور مرزادبیر" کے عنوان سے ایک اقیاس ملاحظہ ہو । -

"علامہ شبیل ہندوستان میں بہترین نقاد ہوئے ہیں ان سے زیادہ مذاق سلیم ہونا، ان سے بہتر استدلال کرنا مشکل ہے لیکن ان کی طبیعت میں ایک عجیب بات تھی جو نقاد و مورخ کی شان سے بعید ہے۔ یعنی ہیر و پرستی در جان پندی۔ اور اپنے ناپسندیدہ شخص کی ہزار پوشی و عجیب کو شی۔ انہوں نے اپنے "موازنہ" میں انیس کے متعلق جو راستے فائتم کی ہے۔ انیس کے جس قدر محابن دکھائے ہیں وہ حرف بہ حرف صحیح و درست ہیں لیکن دبیر کے معاملے میں ان سے ذرا سی لغزش ہو گئی۔ ان کا یہ تعجب بالکل سجا ہے کہ اس کا فیصلہ ہو سکا کہ ان دونوں حریفوں میں ترجیح کا تاریخ کس کے سر پر کھا جائے ۔" بلاشبہ انیس کی ترجیح کھلی ہوئی ہے۔ لوگوں نے ترجیح کے مفہوم پر نظر رکھی اور دبیر کے کلام پر اصول تنقید کے لحاظ سے منظر نہیں کی اس لئے فیصلہ ہو سکا۔ تاہم خود شبیل سے یہ پہلو نظر انداز ہو گیا کہ ترجیح کے لئے یہ ضروری نہیں کہ غیر مرجح شخص میں کوئی خوبی نہ ہو یا اس کی خوبیوں سے چشم پوشی کی جائے یا ان کو کم کر کے دکھایا جائے۔ اس معاملے میں مولانا نے عجیب و غریب پریشان خیالی کا اظہار کیا ہے۔ دبیر کے متعلق لکھتے ہیں کہ :- "قصاحت ان کے کلام کو چھو نہیں گئی۔ بلاغت نام کو نہیں کسی چیز یا کسی کیفیت یا کسی حالت کی تصویر کھینچنے سے وہ بالکل عاجز ہیں۔" اس کے بعد فرماتے ہیں ہماری یہ غرض نہیں ہے کہ ان کے کلام میں ہر سے سے یہ باتیں پائی ہی نہیں جاتیں لیکن گفتگو قلت و کثرت میں ہے۔ "جب گفتگو قلت و کثرت میں تھی تو یہی بات کہنی چاہیے تھی یہ انفال (چھو نہیں گئی، نام کو نہیں، بالکل عاجز ہیں) لکھنہری مناسب نہ تھے اس لئے کہ حلاف واقعہ ہیں۔ مولانا نے ان الفاظ سے جواہر مرزادبیر کے خلاف پیدا کرنا چاہا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ دبیر کے کلام میں قصاحت و بلاغت و تغییر و لطیف محاذات انیس کے مقابلے میں کم اور بہت کم ہی۔ پھر بھی ہے اور بہت ہے موازنہ کا حق یہ تھا کہ علامہ شبیل دبیر کے کلام کا بالاستیغاب مطالعہ کر کے

بجاۓ ایک دو واقعات یا چند اشعار کے وہ نام یا اکثر جھٹے پیش کرتے جہاں دبیر، اپنی سے بڑھ کر یا برا بر کام یا بہرے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتا تو پھر مولانا سے کوئی شکایت نہ ہوتی اور ان کی رائے ترجیح پر بھی درست ہی رہتی۔

یہ کام چودھری نظیر الحسن صاحب رئیس ہماں نے بڑی کامیابی کا ایجاد و اہتمام سے اپنی نہایت دلچسپ و مفید تصنیف "المیزان" میں کیا ہے۔ اگرچہ چودھری صاحب بھی دبیر کے متعلق اسی مطالعے میں پڑے ہوئے ہیں جیس میں مولانا آزاد و مولانا عبد الحسین وغیرہ ہیں۔ "المیزان" میں شبیلی کے اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے ہیں جو بعض جگہ صحیح ہیں اور بعض جگہ غلط۔ ہم صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ مزدا دبیر کی ثیپ ہے :

ارباب سخن پر جو سخن در ہے ہمارا  
القاب سخن سنج و سخن در ہے ہمارا

علامہ شبیل کا اعتراض ہے کہ "لقب کی بجاۓ القاب باندھا ہے۔" مصنف "المیزان" جواب دیتے ہیں کہ "القاب کو محاورے میں مثل واحد استعمال کرتے ہیں اور اس کے لئے فعل واحد لایا جاتا ہے۔" پھر مثال میں تعلق، دل گیر، مونس، نفیں کے چار شعر لکھے ہیں۔ مونس کا شعر یہ ہے :

خط میں القاب کیا سب طب نبی کو یہ رسم  
قبلہ کون و مکان پُشت و پناہ عالم

باقی تینوں اشعار میں بھی القاب اسی معنی میں استعمال ہو ابے۔ یہاں چودھری صاحب سے ذرا سی غلطی ہو گئی۔ مکتوب کا "القاب" واحد ہی بولا جاتا ہے۔ اس لئے ان اشعار میں صحیح ہے لیکن دبیر کے شعر میں خط لکھنے کا مصنون نہیں ہے کہ یہ معنی ہو سکیں کہ خط میں ہم کو سخن سنج و سخنور القاب لکھا جاتا ہے، بلکہ وہاں وہ سے معنی ہیں یعنی لقب اس نام کو کہتے ہیں جو کسی صفت کے سبب سے مشهور ہو جائے جیسے بابا شیخ فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب بیخ شکر یا خاقانی کا حسان مجسم۔ اور

اس مفہوم کے لئے القاب کو واحد لکھنا جائز نہیں۔

جس فصاحت کو علامہ شبیل نے لکھا ہے کہ دیتیر کے کلام کو چھو بھی نہیں گئی وہ کہیں کہیں ایسی اعلیٰ ہے کہ اگر ان بندوں کو تیرانتی کے کلام میں ملا دیا جائے تو پہچان مشکل ہے۔

مولانا قادری کی تشریفاتی کا معتدله حصہ شعر و شاعری کے فن زبان و بیان کے  
دقائق اور فن عروض کی باریکیوں سے متعلق ہے۔ عروض مشکل فن ہے اور اس پر عبور  
اس کے فہم سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ مولانا کو نہ صرف اس پر مکمل عبور تھا بلکہ اس کی باریکیوں  
اور پہچیدگیوں پر بھی نظر رکھتی۔ طبعاً جس قدر اس میں مشکلات ہوتی تھیں وہ اتنا ہی اسے  
پسند کرتے تھے۔ انہیں مشق و مزاولت اور مرطالعہ و ثرثہ تکھی سے اتنا اعتماد حاصل  
ہو گیا تھا کہ اس معلمے میں اگر کسی سے بھی سہو یا غلطی ہو جاتی تھی تو وہ بلا نائل و بربلا  
اس کا انظمار کر دیتے تھے۔ مگر اس میں صرف فنِ دادب کی تکھتہ پر دری کو دخل ہوتا تھا۔  
شاعر کی ذات سے کوئی بحث نہ تھی۔ اسی دور میں علامہ سیماں اکبر آبادی بھی فن عروض  
کے پڑے ماہر گزدے ہیں لیکن جہاں جہاں علامہ موصوف سے سہو ہوا ہے مولانا نے  
 واضح طور پر اس کی خان دہی کی لیکن دونوں کے باہمی تعلقات، اخوت و مودت میں  
کوئی فرق واقع نہ ہوا۔

عروضی غلطیاں کے عنوان سے مولانا نے خالب و سیماں اور جوشش کی عروضی تسامی  
کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلے آپ نے عروض کی اہمیت اور غایت و مقصد پر دل کش  
بحث کی ہے۔ آپ تکھتے ہیں:-

"شاعری کے لئے "عروض" بجز اور پہچانہ و ترازو ہے۔ اس فن کی جہارت باقاعدہ  
سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے اور اس کی نزاکتوں اور باریکیوں کا احاطہ مشق سے پیدا  
ہوتا ہے، لیکن حکیم سخن آفرین نے موزوں نی طبع اکثر انسانوں کو نظر تا عطا فرمادی ہے  
تحوڑے پڑھے بکھے۔ بلکہ جاہل آدمی بھی موزوں طبیعت رکھتے اور شعر کہہ سکتے ہیں  
لیکن ایسے لوگوں سے بعض بجور و اوڑان میں غلطی سرزد ہو جانے کا امکان رہتا ہے

اسی لئے اساتذہ قدیم نے فنِ عُرُوض کی تحریک و تعلیم و ناگزیر قرار دی تھی۔

اردو شاعری اور اس کے اوزان و نجوم فارسی شاعری سے مانخوا ہیں اور فارسی میں  
وہی سے لئے گئے ہیں۔ فارسی والوں نے عربی اندام میں اپنے مذاق کے مطابق ترمیم کر لی  
پھر اردو شاعری کو زیادہ تھریف نہ کرنا پڑا صرف چند اوزان عامم ذوق موزوں نیت و ترجم  
سے کچھ کم و بیش تھے۔ وہ فارسی شاعری میں جاری مستعمل رہے۔ لیکن اردو میں ترک  
کر دینے لگے۔ اس قطع و بُریدہ کے ساتھ اردو شاعری چار سو (۴۰۰) برس سے مسلم جاری  
اور روز افزون ترقی پذیر ہے۔ عامم اقسام نظم، اصناف اسلوب اور احوال عِتھیل اردو  
میں کامیابی کے ساتھ برتر ہے گئے ہیں۔ اس لئے یہ کام غلط ہے کہ :-

"اردو کہنے والوں کو پنگل کے اوزان نہیں کہنا چاہیے۔ جو

زبان ہندی کے اوزان طبعی ہیں..... ہندی زبان عربی کے اوزان میں  
ٹھوں کر شعر کہا کرتے ہیں۔ اور ہندی کے جو اوزان طبعی ہیں اسے چھوڑ  
دیتے ہیں۔ یہ دیساہی ہے جیسے کوئی انگریزی قصیدہ بھر طویل میں کہے  
کہ کوئی انگریز اسے موزوں نہ کہے گا.... اس کے بخلاف پنگل کے  
سب اوزان ہم کو بھی موزوں معلوم ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی بھی ہے کہ وہ  
سب اوزان ہمارے اوزان طبعی ہیں اور جن اوزان کو ہم نے اختیار کر  
لیا ہے، ان وزوں میں پہنچت ہم شعر کہتے ہیں اور ہماری شاعری میں  
اس سے بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے جس کی بھیں خبر نہیں؟" (۱)

اردو شاعری صرف ہندی کے الفاظ و محاورات سے مرکب نہیں ہے بلکہ اس میں  
عربی و فارسی کے الفاظ، اضافتیں اور ترکیبیں بھی شامل ہیں۔ یہ چیزیں پنگل (ہندی  
شاعری کا عروض) کے اوزان میں نہیں کہپ سکتیں۔ اردو شاعر عربی و فارسی کے  
الفاظ میں متحریاں اور گیت نہیں کہتے جن کے لئے پنگل کے اوزان ضروری ہوں

(۱) نظم طبالمبائی، "شرح دیوان غالب" بحوالہ "نقد و نظر" ص ۱۰۷ - ۱۰۹

ہندی زبان جس قدر اردو میں شامل ہے، نہایت آسانی کے ساتھ فارسی اور ان میں سماں مری ہے اور اس سے کبھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ غالب کا ایک مطلع ہے:-

تائش گر بے زارہ اس قدر جس بارغِ رضوان کا  
وہ اک گل دستہ سے ہم بخودوں کے طاقِ نیاں کا  
اس کے الفاظ کو پنگل کے اوزان میں نظم کریں تو ایک مضمونکر انگریز اجوبہ بن جائیگا  
یہ انگ مسئلہ رہا کہ اردو شاعری سے یہ الفاظ ہی نکال دیے جائیں۔  
پنگل کے اوزان ہم کو بھی مزدود معلوم ہوتے ہیں لیکن اس کا سبب یہ نہیں  
ہے کہ وہ ہمارے اوزان طبعی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے کام دد ہوں، گنتوں،  
کہا دتوں کی لئے اور ترم سے آشنا ہوتے ہیں۔ پچھن سے ان چیزوں کو گاتے  
پڑھتے اور سختے ہیں۔ طبیعت میں اس کامرا پیدا ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم خود ٹھہرائیں  
اور دھے نظم کرنا چاہیں تو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی فارسی اوزان میں کرنی  
پڑی ہوگی۔ ہم کو عربی اور انگریزی کے اوزان نہیں معلوم ہوتے، لیکن ان زبانوں کے  
عو遁 کو سمجھ لیتے ہیں یا پڑھتے پڑھتے ان سے مناسبت پیدا کر لیتے ہیں تو مزدود  
معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب عرب اور انگریز فارسی داردد کی شاعری اور  
ترم کے خواگزد آشنا ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی مزدود معلوم ہوتے ہیں اور لطفت آتا  
ہے۔ میں نے ایک عرب کو اردو غزل ہندوستانی ترم میں گلتے سنابے۔ پنگل کے  
اوزان کا "طبعی" ہونا ان لوگوں کے حق میں صحیح ہے جو اردو فارسی نہیں جانتے،  
اور ان کی شاعری سے لگاؤ نہیں رکھتے، صرف ہندی پڑھتے ہیں اور ہندی ہی میں  
شاعری کرتے ہیں۔ ان کو طبعاً ہندی کے عو遁 سے مناسبت ہوتی ہے، اور اکتا ایسا  
فارسی داردد سے ہو سکتی ہے۔

تاہم اس میں تک نہیں کہ طبیعت چونکہ ماحول و فضاء سے بنتی ہے اس لئے  
جو اوزان دیکھو ر احتیار کر لئے گئے ہیں اور طبیعت کو ان سے مناسبت پیدا ہو گئی

ہے، ان میں آسانی سے شعر کے جا سکتے ہیں ان میں سے جن اوزان میں لچک ہے  
حرکت و سکون کے تغیر سے ادھر سے ادھر جو جاتے ہیں یا زندگی کی بیشی سے بھی محدود  
رہتے ہیں یا ناماؤس وغیر متعلق ہیں ان میں شعر کرنے سے علطی کا احتمال رہتا ہے۔  
اور کبھی کبھی اُستادوں سے بھی فروگذاشت ہو گئی ہے۔ یہ غیر مشہور اور اجنبی اوزان  
ابتدۂ غیر طبعی ہیں لیکن سب اوزان کے لئے یہ قتوئی درست نہیں۔ بڑے بڑے کلام  
فتن اس راہ میں دھوکا کھا جاتے ہیں۔ علامہ سید جاپ صاحب ہی کی مثال ہے لیجئے۔  
سید جاپ صاحب نے خاص سعی دکا دش کے ساتھ صنعت مملوں رذو بھریں میں غزل  
بلکھی عقیقی پھر بھی غلطی سرزد ہو گئی لیکن میرے نزدیک یہ عقق سوء اتفاق تھا۔ ان کی  
مہارت فن میں پھر بھی کلام نہیں ہو سکتا۔

لیکن عجیب بات ہے کہ سید جاپ صاحب نے اپنے رسالہ میں جوش کے "نقش و  
نگار" کی تنقید شائع فرمائی تھی اس میں ایک یہ فقرہ بھی تھا۔  
"کیا نقش و نگار کی اشاعت کے بعد جوش ملیح آبادی شاعر  
انقلاب تو در کنار، فنی اعتبار سے صرف "شاعر" بھی کہلانے کے سختق  
میں۔"

جو شعر جیسے باکمال اور بہنے نظر شاعر کے لئے یہ فقرہ سید جاپ صاحب اور تنقید نگار  
دونوں کی ناشاعری اوزنا انصافی کا ثبوت ہے۔ سید جاپ صاحب کا اس سے ہم رکھتے  
دسمب آواز ہونا ظاہر ہی ہے۔ "فنی اعتبار" سے مراد گوفن عرض ہے تو اس میں سید جاپ  
صاحب بھی جوش صاحب کے شرکیب ہیں اور "نقش و نگار" کے تصریح نگار بھی، رسالہ  
"شاعر" کے اسی مضمون میں جوش کے پہ جوش نقاد نے عرضی فلطیاں بتانے میں  
بھی غلطیاں کی ہیں۔

متلاودہ جوش کے چوتھے بند کو درستانتے ہیں لیکن یا پھویں، آٹھویں  
نویں بندوں کے بعض مصرعوں پر اعتراف کیا ہے۔ حالانکہ ان کی حالت بھی چوتھے  
بند کی سی ہے۔ غلط ہوں تو سب ہوں درست کوئی نہیں۔ اور حقیقت بھی بھی ہے۔

کہ ان میں وہ اغلاط نہیں ہیں جو نوجوان نقاد نے تلاش کیئے ہیں اور سیحاب صاحب نے شائع فرمائ کر ان پر صاد فرمایا ہے۔

نقاد "شاعر" یہ پانچواں بند نقل کرتے ہیں : ۱۰

رُخار پہ موج رنگینی      پچھی چاندی، پیچی چینی  
آنکھوں میں نقش خود بینی      مکھڑے میں سحر کی شیرینی  
یہ کون اٹھا ہے مشرماٹا

اور فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا، تیسرا اور چوتھا مصريع اس طرح پڑھا جاتا ہے :

"رُخ سا پہ موج رنگینی"      "آنکھوں میں نقش خود بینی"

"مکھڑے پہ سح کی شیرینی"

نقاد بن کر یہ کم نظری و نا انصافی ستم ہے۔ ناظرین غور کریں کہ پہلے مصريع کی یہ صورت "رُخ سا پہ موج رنگینی" کیوں کر موزوں ہو سکتی ہے۔ اگر دپھ کو (پہ) پنا لیا جائے تو وزن میں آسکتا ہے، لیکن (پ) کو باقی رکھ کر اور (رُخار) کی در کو قائم رکھ کر جوش صاحب کا مصريع موزوں ہے اور نقاد صاحب کا اعتراض رواداری کے خلاف ہے۔ میں نے "رواداری" اس سے کہا کہ ان قابل اعتراض مصروف کو وزن کے اندر لانے کے لئے وزن میں ذرا تغیر کرنا پڑتا ہے اور وہ بالکل جائز ہے۔ یعنی اور پہ کے بند کا دوسرا مصريع جس پر نقاد کو اعتراض نہیں ہے، اس وزن میں ہے :

"فَعْلَن ، فَعْلَن ، فَعْلَن ، فَعْلَن" (چاروں میں عین ساکن) لیکن پہلے تیسرا سے اور چوتھے مصروف کا وزن یہ ہے :

"فَعْلَن ، فَعْلَن ، فَعْلَن ، فَعْلَن" (دوسرے رکن میں ع متحرک باقی میں ساکن)۔

یہ تغیر سہیثہ سب کا معمول رہا ہے۔ اس طرح پہلے مصريع میں روپہ میں

تیرے میں (میں نقو) اور چوچتے میں (میں سحر) فعلن کے وزن پر درست ہیں۔ اور اعتراف غلط۔

یہ صورت جو شکش کے اکثر بندوں میں ہے۔ اس لئے نقاد نے آٹھویں بند پر جو اعتراف کیا ہے، وہ بھی اسی بناء پر ناروا ہے۔ اسی طرح یہ نواں اور آخری بند نقل کیا ہے:

ہل چل میں دل کی بستی ہے طوفان جنوں میں ہستی ہے  
آنکھ میں شب کی مستی ہے اور مستی دل کو ڈستی ہے  
یہ کون انھا بے شرمانا

اور یہ اعتراف فرمایا ہے کہ "دوسرے مصرع میں جنوں کی بجٹے صرف "جن" آگز رہ جاتا ہے" یہاں بھی ان کو ذہبی دھوکا ہوا۔ دن جنوں کو فعلن کے وزن پر کیوں نہ پڑھا کہ موزوں نظر آتا۔

اس بند کے تیرے مصرع پر البتہ غاصل نقاد کا یہ اعتراف ہے کہ اس میں کمی رہ گئی۔ اس طرح پڑھنے سے صحیح ہوتا ہے: "آنکھوں میں شب کی مستی ہے"۔

جو شکش کی اس نظم میں یہ دوسری قسم کا سہو ہے۔ اس میں بھر نہیں بدالی۔ بلکہ مصرع ہی پیمانہ سے چھوٹا رہ گیا ہے بے شک غلطی ہے لیکن بڑی پڑکفہ ہے اور اس کا سبب بڑا دل چپ ہے یعنی یہ چھوٹا مصرع اگر اس بند کا ایک مصرع ہے تو بے شک دوسرے مصروعوں سے چھوٹا اور یہاں ناموزوں ہے لیکن اگر اس کو اس کے بعد کے مصرع سے بلا کر ایک بڑا مصرع فرم کر لیا جائے اور اس بند سے الگ کر کے پڑھا جائے:

"آنکھ میں شب کی مستی ہے اور مستی دل کو ڈستی ہے"  
تو بالکل صحیح اہم موزوں ہے۔ اس لئے کہ اس وزن کے اول یا آخر میں سے بقدر دو حرف کے کم کر سکتے ہیں اور اس کی پہ بھی موزوں سمجھا جانا ہے۔ اور

شاعروں نے اس التزام کے ساتھ غزلیں کہی ہیں مثلاً سید افتخار حسین صاحب کا  
یہ شعر دیکھئے :

پیچ پوچھو تو محشر کا میدان کچھ ایسا دور تھیں  
پیچ میں بس ہم سنتے ہیں اک شہر خوشاب بتا ہے

اس شعر کے دونوں حصے مصروف صاحب کے اس بڑے مصروف کے برابر ہیں  
یہی سبب ہے جو شر صاحب سے غلطی واقع ہو جانے کا۔ انہوں نے اپنے مصروف گنگا  
کر کے اور دو دو مصروف ایک سانس میں پڑھے۔ چونکہ ان کا تیرا اور چوتھا مصروف  
 بلا کر پڑھنے سے فی نفسہ موزوں بھقا۔ اس لئے ان کو ذرا سی کمی کا احساس نہ ہونا  
شاعر اور شاعری کا نقشان ہے۔<sup>(۱)</sup>

## مزاج و ظرافت کا عنصر

مزاج و ظرافت اگر تحریر میں مناسب و معقول اور معتدل و محتاط انداز  
سے شامل ہو تو لطف و اثر بڑھ جاتا ہے۔ مولانا کی طبیعت میں نہایت ثابتہ اور  
لطیف انداز کی ظرافت پائی جاتی ہے۔ یہی کیفیت منارب مقامات پر ان کی  
تحریروں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر نزرنگارہ کی تحریر موزوں و لطیف مزاج و  
ظرافت سے بکر خالی ہو تو نہایت خشک دبے کیف ہو جاتی ہے۔ مولانا ذکار اللہ  
کی تحریر میں اس کی آئینہ دار ہیں۔ بر محل مزاج اور با موقع ظرافت سے تحریر میں  
ٹکفتگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مزاج و ظرافت صرف تفریح کے لئے ہی نہیں ہوتے  
 بلکہ ان سے ادیب و انشاء پرداز مختلف کام لیتے ہیں۔ کہیں کسی نکتے کی وضاحت  
کبھی کسی مسئلے کی تصریح، کسی مقام پر صرف چند اشارے ہی جو تہہ در تہیہ لطیف  
طنز کی کیفیت رکھتے ہیں۔ طول طویل تحریروں سے زیادہ موثر ثابت ہوتے ہیں  
 اور یہی مولانا کا اصل فن ہے۔ غالباً کے احوال میں "داستان تاریخ امداد" میں

(۱) حامد حسن قادری، مولانا، نقدو نظر، علیبو نہ آگرہ اخبار پر یہیں ۱۹۷۴ء ص ۱۱۶-۱۰۵

رقم طراز میں :-

” غالب نے تصوف کا کثرت سے مطالعہ کیا تھا، اس کے مسائل ذہن نشین رہتے، اصطلاح میں بہر زبان تھیں۔ باتیں کرنے اور باتیں بنانے کا بہت شوق تھا۔ سخن آزادی اور سخن پروردی کی بڑی مشق تھی۔ جس کا اثر ان کی باتیں اور ان کی شاعری سے نمایاں ہے۔ فارسی دار دو کلام میں تصوف کے مسائل بہت لکھے ہیں۔ لیکن ان میں تصوف کی زبان تو ہے صوفی کامل نہیں۔ خواجہ میر درد اور غالب کے فتنفوانہ کلام کا مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ درد دل سے کہتے ہیں، اور غالب زبان سے۔ درد اس عالم میں پہنچے ہوئے ہیں اور غالب کو دہان کی ہوا بھی نہیں لگی۔ غالب ”حقیقتِ حق، تحدیت و وجود“ کے بڑے قائل ہیں اور فرماتے ہیں :-“

” زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہوں اور دل میں لا  
وجود الا اللہ، لا موثر فی الوجود الا اللہ سمجھے ہوئے ہوں۔“

لیکن یہ کہنا کسی صاحب حال کا ساکھنا نہ تھا بلکہ ایں تھا کہ : ۱۔  
” بڑھا بھی دیستے ہیں کچھ زیبِ داتاں کے لئے“ غالب کے  
مزہب کے متعلق مولانا حالی لکھتے ہیں :-

” مگر زیادہ تر ان کا میلان طبع تشیع کی طرف پایا جاتا تھا  
اور جانبِ امیر کو رسولِ خدا کے بعد تمام امت سے افضل جانتے تھے۔  
مولانا ازاد دہلوی کی رائے ہے :-“

” مگر اہل راز اور تصنیفات سے بھی ثابت ہے کہ ان کا مذہب شیعہ تھا۔ اور لطف یہ تھا کہ ٹھپور اس کا جوشش بیت میں  
تھا، نہ کہ تبراء و تکرار میں۔“ لیکن غالب کا ایک فقرہ اس سے بھی  
زیادہ کا پتہ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں :-“

”مشرک وہ ہیں جو وجود کو واجب و ممکن میں مشترک جانتے ہیں۔ مشرک وہ ہیں جو مسیلہ کو نبوت میں ختم المرسلین کا شریک گردانستے ہیں، مشرک وہ ہیں جو تو مسلموں کو ابوالآئمہ کا ہم سرجانتے ہیں۔“

”ابوالآئمہ“ سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں اور حن بن رگوں کو حضرت علی کا ہم سرمانا جاتا ہے ان کو ”مسلم“ کہا ہے اور جو لوگ مانتے ہیں ان کو ”مشرک“ کہرا یا ہے۔ ”(۱)“ اس اقتباس میں جس لطیف انداز میں مولانا نے غالب کے دخوی تصور پر تنقید کی ہے وہ ان کی ششگفتہ نگاری کی اچھی مثال ہے اور اس میں مزاح و ظرافت کے علاوہ آخری فقرہ میں طنز کی لہڑی بھی پیدا ہو گئی ہیں مگر ہر آنہ دن میں اور ہر فھرستہ اپنے معیار پر ہے۔

غالب ہی کے بیان میں جہاں مولانا نے غالب کے دو منضاد بیانات کا ذکر کرہ متعلق یہ اُستاد عبدالصمد کیا ہے وہاں فرماتے ہیں :-

”ان دونوں بیانوں میں مطابقت نہیں ہو سکتی بجز اس کے کہ دوسرا بیان یہ طور ظرافت ہے، یا یہ بلت ثابت کرنے کے لئے ہے کہ غالب زبان و ادب فارسی میں کسی کے شاگرد نہ قہے۔ اور یہی واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ پہلا بیان چند فارسی محاوروں کے سلسلے میں ہے جن کے معنوں میں غالب اور نواب خلدادشتیاں کے درمیان اختلاف تھا۔ نواب صاحب ہندوستانی مصنفوں نے اس کے معنوں کو درست سمجھتے تھے غالب اسی خط کی آئندہ سطور میں ان سب فرینگ نویسوں کو نالائق اور غیر معتبر سمجھ رہتے ہیں۔ یہ غالب کی اثمار پر دازی ہے کہ کسی اہم بات کے نئے

۱۔ حامد حسن قادری، مولانا، ”داستانِ تاریخِ اردو“، محوالہ بالا، ص - ۳۹ - ۴۰۔

شامدار اور فیصلہ کرن الفاظ لکھتے ہیں۔ چنانچہ نواب صاحب کا منہ بند کرنے کے لئے لکھ دیا کہ ”میں نے اس سے حقائق و دلائل زبان پارسی کے معلوم کیتے، اب مجھے اس امر خاص میں نفسِ مطمئنہ حاصل ہے“ گویا ”حقائق و دلائل پارسی“ لطائفِ تصورت اور اسرارِ معرفت ملتے کہ ایک مرشد کامل نے دو سال میں سارا سلوک طے کر دیا، یا یہ سے لگا کر ”علمِ لدنی“ آن واحد میں عطا کر دیا۔ اور اس سے ”نفسِ مطمئنہ“ حاصل ہو گیا۔ بلاشبہ غالب کو ”اس امر خاص میں نفسِ مطمئنہ“ حاصل تھا اور اکثر ان کی رائے درست ہوتی تھی لیکن یہ بات ان کو کافی مطالعہ کے بعد حاصل ہونی ہو گی۔ یہ ضرور ہے کہ عبد الصمد ایرانی سے دو سال تک جو فارسی گفتگو کی ہو گی، شعر و شاعری کا ذکر و فکر رہا ہو گا، اس سے یک گونہ بصیرت پیدا ہو گئی ہو گی۔ جس نے فوتو سلیم، فکر صحیح اور مطالعہ وسیع کے ساتھ مل کر آئندہ رائے صاف کا ملکہ پیدا کر دیا۔<sup>(۱)</sup>

مندرجہ بالا عبارت میں خلاصہ فقرہ کی شوخی و نظرافت قابلِ داد ہے۔ بڑی خوبی یہ ہے کہ اس لطیف انداز میں جو بات کہنی چاہتے ہیں وہ بھی بطریقِ احسن ادا کر دی ہے۔

طنز ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے جو دو طرفہ کاٹ کرتی ہے۔ اس سے ہر طرح کے کام لئے گئے میں لیکن ایسا لطیف طنز جس سے جذباتِ مجرم نہ ہوں اور جو بات گفتگی ہے وہ صاف طور پر ادا بھی ہو جائے یہی جماعت کا طالب ہے مولانا کی تحریر میں اسی قسم کا طنز بھیں جا بجا ہتا ہے۔

نواب و فارالملک کے حالات میں ”داستانِ تاریخِ اردو“ کا ایک حاشیہ

(۱) حاجی سعید قادری، مولانا، ”داستانِ تاریخِ اردو“، محوالہ بالا، ص ۲۳۳-۲۴۳

”مرزا محمد خسکری صاحب کی حسنی بی۔ اے نے اپنے ترجمہ ”تاریخ ادب اردو“ میں نواب و قادر الملک کو ”خلافت علی گردھ کا خلیفہ ثانی“ لکھا ہے۔ اس تشبیہ کا ایسی کتاب میں جس کا مناظر و مظاہرہ مذہبی سے تعلق نہیں۔ کوئی محل نہ تھا خاص کر جب کہ ترتیب صحیح کی بناء پر غلط بھی ہے یعنی علی گردھ کا بچ کے سیکرٹریوں میں نواب و قادر الملک کا چوتھا نمبر ہے۔ یاد رہے کہ سید محمود باقا سیکرٹری ہوئے تھے۔ اگرچہ چند روز کے بعد ہی ان کو دست کش ہونا پڑا۔ اس لئے سید محمود کو شمارے سے حذف نہیں کر سکتے۔“ (۱)

آزاد کے بیان میں ”داستان تاریخ اردو“ میں لکھتے ہیں :-

”دوسرے ذوق کے مذہب کو چھپایا ہے اور اپنی لائی ظاہر کی نہ ہے چنانچہ فرماتے ہیں:-

”فقراء اور بزرگان دین کے ساتھ انہیں ایسا دلی اعتقاد تھا کہ اس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ علماء اور اساتذہ سلف کو ہمیشہ با ادب یاد کرتے تھے اور کبھی ان پر طعن و تشییع نہ کرتے تھے۔ اس واسطے ان کے مذہب کا حال کسی کو نہ کھلا۔“

”حالانکہ آزاد کے والد اور استاد دونوں ہم ہمدرد ہم مکتب تھے۔ اور (بقول آزاد)“ وہ رابطہ ان کا سخرون کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا اور آخر وقت تک ایسا بھج گیا کہ قرابت سے بھی زیادہ تھا۔ ”آزاد اکثر سارا سارا چن ذوق کی خدمت میں گزارتے تھے۔ ان کے وضو نماز، وظیفے سب کا ذکر کیا ہے۔ اس پر بھی آزاد کو اور اہل دین کو

(۱) حامد حسن قادری، مولانا، ”داستان تاریخ اردو“، محرر بالا، ص - ۲۲۷

ان کے ذہب کا حال نہ کھلا کر سنتی تھے یا شیعہ؟ ” (۱) تقدیم کے اندر طنز و مزاح کا اعلیٰ مصرف یہی ہے کہ نقاد جو بات کہنی چاہتے ہیں اس میں مزید زور د اثر پیدا ہو جائے۔ بعض جگہ نقاد کا کام طبیب و جراحت کا سا ہو جاتا ہے اور ایسے موقع پر ہی طنز کا نشتر کار آمد ثابت ہوتا ہے ایک ایسے ہی نشتر کا چرکہ ملاحظہ ہوا۔

” دونوں جہاں دے کے دہ سمجھے یہ خوش رہا ۔ ”

یاں آپ ڈی یہ شرم کہ ” نکارہ کیا کریں ۔ ”

یہ شعر غالب کے بہترین اشعار میں ہے اور بہت مشہور ہے۔ خود مولانا حاتی نے ” یادگار غالب ” میں اس کے معنی بیان کر دیئے ہیں کہ ہماری سخت دونوں جہاں سے کر سمجھی بیس نہ کرتی لیکن ان سے نکارہ کرنے اور زیادہ مانگنے سے بھی شرم آئی۔ پھر نکارہ کرنا قناعت کے بھی خلاف تھا۔ اس لئے خاموش ہو گئے۔

پچھے نہ کہا۔ نظم صاحب تے اس پر ” پچھے ” کا اضافہ کیا ہے اور وہ بھی صحیح ہے یعنی ” ہمارا دھوٹی تو یہ ملتا کہ ایک اس سے مقابلہ فت ہوتی اور یہ کچھ نہ ملتا۔ ” لیکن آسی صاحب نے جو مضمون لکھا ہے وہ عجائب فکر و فہم سے ہے۔ فرماتے ہیں:

” ہم نے دونوں جہاں کو اس کے مقابلے پر پیچھے بھا تو ۔ ”

اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ خوش ہے حالانکہ دونوں جہاں کا پھوڑنا ہم کو بہت شاق گزرا تھا۔ مگر شرم یہ تھی کہ اس کا یہ خیال ہے تو یہی سبی اب نکارہ کر د۔ چپ ہو رہا، سر تسلیم خم جسے جو مزانج یاد میں آئے۔ ”

## مولانا قادری کا مقام جدید تقدیر میں

مولانا عملی تقدیر کے دورِ جدید میں منفرد مقام کے مالک ہیں۔ اپنی تعلیم و تربیت

کے لحاظ سے وہ خواجہ الطاف حسین حائلی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا شبیل کی صفت کے ادیب میں۔ مغربی ادب کے مطابق، اور مغربی تنقید کے صالح عناصر کو اپنائے میں وہ بعض جوان ترقادوں سے بھی آگے ہیں۔ باویِ المنظر میں ان کی تحریریوں کے مطابق سے یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ روزمرہ، محاورہ، الفاظ کے استعمال اور فقردوں کے دروبلت کے زیادہ فائل میں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اجزاء ادیب و شاعر کے سے اس کے اوزار و آلات کا درجہ رکھتے ہیں اور ادیب و شاعر تقدار و موڑ خیں فذکار و ہنرمند بھی ہوتا ہے اور جو فن کار ہنرمندی کے ساتھ اپنے پیشے کے آلات کا استعمال نہ کر سکے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی تخلیقات بھتی وجہے میں ہنگم ہونگی۔ میکن مولانا کی تحریریوں کو بغور دیکھنے سے ان کے نقطہ نظر کی صاف وضاحت ہو جاتی ہے۔ وہ روح و جسم دونوں کے فائل ہیں اور دونوں کی اہمیت ان کی حدود میں تسلیم کرتے ہیں۔ جدید نظم، نظم معرثی، نظم آزاد وغیرہ کو ان کے ہم عصر اور ہم عمر ترقادوں میں سے صرف مدد و دے چند نے ہی بالع نظری کے ساتھ دیکھا اور ژرف بیگنی کے ساتھ پر کھا۔ مولانا نے علامہ نیازہ فتحپوری کی فرمائش پر ایک طویل مضمون میں ”نئی شاعری اور نئے رحمانات“ کا جائزہ لیا ہے۔ اس کا بغور مطابق کرنے سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مولانا اپنے ہم عصر بعض جوان ترقادوں سے زیادہ فراخ دل اور بصیرت کے حامل ہیں۔ یہ مضمون بعنوان ”القلابی شاعری“ ماہنامہ ”نگار“ کمپنی کی جزوی و فردی ۱۹۲۴ء کی اشاعت میں شائع ہو چکا ہے لاحظہ ہو:-

”میں زندگی کی طرح شعر ادب میں بھی انقلاب کو ناگزیر  
سمحتا ہوں۔ اس کی ہر نئی شکل، نئے اسلوب، نئے مصنوع کو نظر  
استھان سے دیکھتا ہوں، لیکن فوراً اس ظاہر کے اندر باطن پر نظر  
ڈالتا ہوں اور باطن ری کا تعذر و تعفّن میری نظر میں اس کو گوارا یا  
ناگوار بناتا ہے؛“

انیسویں صدی کا نین چوتھائی حصہ گزرنے تک اردو شاعری کا مقصد سُبْحُر شاعری یا دربارہ داری کے کچھ نہ تھا۔ "شاعرانہ سیفام" اس زمانے میں کوئی چیز نہ تھا۔ ملکی و سیاسی کا کیا ذکر، مذہبی، قومی، معاشرتی اصلاح بھی پیش نظر نہ تھی۔ شاعری کرتے تھے اس لئے کہ سب کرتے ہیں۔ شاعری کرتے تھے اس لئے کہ اور کچھ نہ کر سکتے تھے۔ شاعری کرتے تھے اس لئے کہ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہ تھی لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ان کی شاعری، "روایتی" تھی تو ایسی بھی سمجھی جاتی تھی زندگی کی کوئی تعمیر یا تحریب نہ ان کو مقصود تھی نہ ان کی شاعری سے اس پر کوئی اثر پڑتا تھا۔ حضرت ہرزا منظہر چانِ جانان اور حضرت خواجہ میر درد منڈ روشنہ دہلیت پر ممکن تھے اور بزارہ ہا بندگان خدا کو راہ پیدا لارہے تھے۔ اور صد ہا کو صاحب دل اور روشن ضمیر بنا دیا تھا۔ رخواہ اس کو نیاز صاحب نہ مانیں (لیکن یہ بزرگ بھی غزل لکھتے تھے تو حن و عشق کے کھلے معاملات اور عُریاں جذبات بے تکلف لکھ جاتے تھے اس لئے کہ ان کے زمانے میں ہر فال کو حال سمجھ لینے کا دستور نہ تھا اس سیئے نہ میر و سوادا کو کبھی نے مطلعون کیا نہ زمگین و جان صاحب پر انگلیاں انھیں اس لئے ان کی شاعری سے نہ اخلاق بنتے تھے نہ بگڑتے تھے۔ نہ معیشت و سماج میں کوئی جزو دہ پیدا ہوتا تھا۔ نہ مذہب کی کشتمی ڈانوان ڈول ہوتی تھی۔ سبب ظاہر ہے کہ وہ لپنے مذہب و ایمان سے مطمئن تھے۔ اپنی تہذیب و معاشرت سے خوش تھے۔

اس کے ساتھ اس زمانے کی ایک حقیقت بھی نہایت اہم اور قابل لحاظ ہے جیات و معاشرت کا ایک جزو لا ینی ٹکھریت ہے۔ جس کی اُقیاد و رفتار پر انسان کی ذات و اجتماعی جیات و فرستت کا اختصار ہے۔ اگلے زمانے میں سعوت ذات ایک مستقل جمود و جہالت کی حالت میں تھی، اپنی زندگی پر قائم و مُطمئن، مردوں کے اعمال سے بے نیاز اور ان کی شاعری سے بے خبر۔ اگر شاعری دادیات میں کوئی عنصر تھا تو اس کا اثر چار دیواری کے اندر نہ پہنچتا تھا۔ اس لئے اس زمانے کی تمام فنگ

"بُرُونِ در" اور "درُونِ خانہ" امواج نرم خیز کی طرح چل رہی تھی۔

اس حالت کا عصر حاضر سے مقابلہ کیجئے۔ مذہب سے بے اطمینانی، وضع قدیم سے دشمنی، اخلاق سے آزادی، جذبات کی بے باک، تعلیم کی غلط رفتار، مخلوط تعلیم، سیاسی بے چینی، تحریکات اشتراکیت وغیرہ کا غلط استعمال، سرمایہ داری کا اعمال و اخلاق پر اثر، صنعت و تجارت کی مسابقت کا سوسائٹی پر اثر، یورپ کی کورانہ تقلید گریانی و بے حیائی کی ترغیب و تشویق، جنگ، سالوت و حال سے زندگی کی دشواریاں، مردوں کی گمی، عورتوں سے ان کی خانہ بُرہی۔ یورپ کی زنانہ تحریکات کا سیندھستان میں رواج۔ ایسی کتنی ہاتھیں ہیں جن سے ہماری ذاتی، عاملی، مجلسی، قومی، ملکی زندگی، ہماری ادبیات اور شاعری متاثر ہو رہی ہے۔ انہیں کے زیر یہ اثر جدید رجحانات پیدا ہو رہے ہیں اور انقلابی شاعری کا حشر پا ہو رہا ہے۔ دنیا کے بعض نظریے اور تحریکیں جو مغربی و مشرقی و انقلابی اردو شاعری کا موضوع بنی ہیں۔ ان پر صرف ایک سرسری نظر اور غنقر اشادے اس وقت ممکن ہیں۔

۱۔ سب سے بڑی تحریک خدا سے بے زاری ہے۔ مذہب کا سب سے بڑا کام انسان کے قوائے ذہنی و عملی کی تہذیب اور روک تھام ہے۔ انسان ایسی بے پناہ خلوق، ایسا وحشی جیوان اور خطرناک درزدہ ہے کہ اس کو ایک حد کے اندر رکھنا بڑی سخت بکری اور پکڑ کا کام تھا۔ خدا کے تصور اور مذہب کے قوائیں کا یہی مقصد تھا خدا سے بغاوت بھیتھی ہوتی رہی ہے لیکن کبھی حکومت اور کبھی سوسائٹی اور آن سے زیادہ خود خدا کا تصور، جو سماجی طور پر طبائع میں جاگزین ہو چکا تھا۔ اس سورش کو دبامار ہا۔ علماء اور حکماء نہ صرف یونانی و فرنگی بلکہ اسلامی بھی، خدا کی ہستی اور ذات و صفات میں بحث کرتے رہے ہیں۔ لیکن وہ صرف علم و حکمت کا ایک مسئلہ تھا۔ عملی اور اجتماعی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ پھر انیسویں صدی میں بعض مغربی اہل حکمت و سائنس نے اس مسئلے کو جدید نظریات کی روشنی میں پیش کیا۔ اب وہ زمانہ آگیا تھا کہ ایسی ہر تحریک عالم گیر بننے کے لئے آمادہ تھی۔

خیال درائے کی آزادی عام بور ہی تھی۔ حکومت اور سوسائٹی اپنے اثرات کو استعمال کرنے کے لئے دست کش ہو رہے تھے چنانچہ میسویں صدی کے آتے آتے یہ آگ مغرب سے مشرق اور ہندوستان میں آگئی۔ میسویں صدی نے اپنی آزادی کے پنکھوں کا رُخ بھی ادھر پھیر دیا۔ انسان عجیب تضاد سے مرکب ہے۔ جنگ بے امنی، مصائب، تحطیح، افلاس، جہاں خدا کی یاد دلاتے ہیں، خدا سے بگشت بھی کر دیا کرتے ہیں۔ ہندوستان پر ان آفات کے علاوہ خلامی کی بلا اور فرقہ بندی و تفرقہ اندازی کا و بال بھی تھا۔ ہندوستان کے مفکروں نے ان امراض کا سبب مذہب کو قرار دیا۔ اور یہ علاج تجویز کیا کہ خدا کو ہندوستان سے نکال دیا جائے اور مذہب کا استیصال کر دیا جائے تو ہندو مسلمان، بکھر، پارسی، عیانی سب صرف ہندوستانی رہ جائیں گے اور ایک قوم و ایک حکومت ممکن ہوگی۔

خداوند مذہب سے بیزاری کا جذبہ پیدا ہونے کے بعد قدیم رسم و رواج، سماج روایت، اخلاق سب سے آزاد ہو جائی آسان ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں اس خیال کی کار فرمائی شرم و حیا اور عجفت و عصمت کی بندشوں کو توڑ دیا سہیل کر دیتی ہے۔ آج کل کے نوجوان مردوں اور عورتوں کے اخلاق نمایاں طور پر اس تحریک سے متاثر اور ان کی شاعری پر موثر ہیں۔

۴۔ دوسری زبردست تحریک سرمایہ داری اور صنعت و حرف کی بقیت ہے۔ سرمایہ داری کا اثر ملک پر، حکومت پر، دولت پر، مزدوں پر، خلامی اور آزادی پر، افلاس و خوش حالی پر، جو کچھ ہے ظاہر ہے اور بار بار بحث میں آچکھے ہے۔ لیکن اس پہلو پر کم غور و تامل کیا گیا ہے کہ سرمایہ داری کی لعنت انسان کے ذاتی و اجتماعی اخلاق پر بھی پھا جاتی ہے۔ مذہب و اخلاق سے بے زاری، عزت و آبرو سے بے پرواہی، نفس و ہوس کی شعلہ انگلیزی تمام اعمال خنسہ کی تباہی میں اعانت کرتی ہے۔ تمام مغرب و مشرق اور ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے۔ مغرب کے سرمایہ اور صنایع و ناجر کے پیش نظر اصل میں اپنی دولت افزائی تھی۔ لیکن صنایع و ناجر

اپنے مقصد کے لئے دنیا کی تمام تحریکات سے کام لیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ عین وہ ہوس ناکی کا جوش خود میں و خود آرائی کا شوق، آزادی و بے باکی کا زور، عالمگیر ہے۔ چاپجہ وہ اس جذبے کو ابھارنے اور اس شوق کو پورا کرنے کے لئے صنعت کے ذریعہ ایجادات کرتا ہے اور تجارت کے وسیلے سے ان کو عام کر دیتا ہے۔ ایک بیرونی ولپ اسٹک سے لے کر سینما تک تاہم آرائش و آسائش، تعیش و تفریح کے سامان میں اسی سرمایہ داری و تجارت کی کارہ فرمائی ہے۔ ملک کے دولت مند ہیش پرست ان سرمایہ داروں اور صناعوں کے گویا اعزازی ایجنس ہوتے ہیں۔ جن کے ذریعہ سے متوسط اور ادنی طبقہ اسراف و تعیش میں مبتلا ہوتا ہے ملک کے اخبار اشتہار چھاپ کر، مصنف و شاعر، جنیات کی کتابیں، نظیں، افسانے اور ناول لکھ کر انہی سرمایہ داروں کی گویا بالمعاونتہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ ہندوستان کا افلام اور برعالي قوتِ عمل کا اضھلال، جسم و دماغ کی ناتوانی، اخلاقی پستی سب کے سب نظاہر بالواسطہ لیکن اصل میں بلا واسطہ اسی سرمایہ داری کے کرشمے ہیں۔ یہ میں نے عصر حاضر کی "ہیئتِ کذاں" اسباب و علّل اور تاریخ و عواقب کا صرف ایک رُخ بطور خاکہ پیش کیا ہے۔ زقیار زمانہ اور القاب عالم کی رو سے ان کا ناگزیر ہونا اور قدرتی مہر کی طرح نازل ہونا مجھے تیکم ہے لیکن واقعات کے اس دور و تسلی سے بھی انکا نہیں ہو سکتا اور میرا اپنا ملک بھی در مع الدہر کیف ماوراء ہنپیں ہے۔

القلابی شاعروں نے "ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی" پر بحث کی ہیں۔ اور صرف دوسرے نظریے و اصول کو اپنا ملک قرار دیا ہے۔ یہ زندگی جس کی وہ شعرو ادب کے ذریعے اصلاح و ترقی چاہتے ہیں کہنے کے لئے تو جملہ شعبوں کو محیط ہے۔ علم و تعلیم، اعمال و اخلاق، معيشت و معاشرت، قحط و افلام، مزدور اور کسان سب ان کے احاطہ عمل میں شامل ہیں۔ لیکن جائے تأمل یہ ہے کہ وہ فی الواقع غریب ہندوستان کی کیا اور کتنی خدمت اپنے شعرو ادب سے کر رہے ہیں اور کس قدر فرائض اپنے عمل سے انجام دے رہے ہیں۔ قیدیم

شاعروں کی یہ بڑی جیت تھی کہ ان سے کوئی شخص یہ سوالات نہیں کر سکتا تھا کہ وہ شعر پر اُسے شعر کہتے ہیں یا بولتے گفتگی۔ لیکن اب شاعروں نے پیغام بری انجامی اور انقلاب انگلیزی کے مناصب اپنے لئے تجویز کر لئے ہیں تو حیاتِ مجمل پر نظر کرنے سے یہ حقیقت مٹکشافت ہوتی ہے کہ کوئی ایک انقلابی شاعر اپنے تن من دھن تھج کر اصلاحِ ملک و قوم کا پیرا اٹھائے ہوئے نہیں ہے۔ اب رہی شاعرانہ پیغمبری یا پیغمبرانہ شاعری، تو دونوں کا حال تو اللہ جل جلالہ نہیں بلکہ شاعری کو پڑھنے سے حاف محسوس ہوتا ہے کہ اگر نظم و شعر میں دل کا درد متنقل ہو سکتا ہے تو پلا استثنہ کسی ایک شاعر کی ایک نظم میں بھی دردِ دل اور سوزنِ چمگر کا وجود نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے جب تک ان شاعروں کے حالات وہ یہیں جو ہیں۔ حالات سے میری مراد سیرت و اخلاق نہیں۔ بلکہ ان کی بے عملی اور زبانی باقی ہیں۔ اب وہ زمانہ ہے کہ شاعر و شعر میں شخص دلکش کی نسبت ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو تو شاعر شاعر نہیں اور شعر شعر نہیں۔ یہاں شاعر سے میرا مقصود نوجوان انقلابی شاعر ہیں جنہوں نے نظموں میں نئے رجحان، نئے موضوع، نئے اسلوب اختیار کیے ہیں۔ ان سے زیادہ پُرانے اور پختہ کار شاعر کسی کبھی کبھی استثنائی شان پیدا کر دیتے ہیں۔ اور صحیح تفکر و تدبیر کا ثبوت دیتے ہیں۔ لیکن پیسوں صدی کے انقلابی شعراء سے سابقین میں صرف ایک اقبال کو کامل استثناء و انفردیت حاصل ہے جو صرف بندوقتار و ایران میں نہیں بلکہ تمام ممالک اسلامی میں تنہا مفکرِ اعظم اور قدرِ اعظم تھا۔

دورِ جدید کے انقلابی شاعروں کے ارتقاء فکر و فقارِ سخیل اور ایجادِ اسلامیہ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اُنہی ورق گردانی کرنے سے درقِ افل پر اقبال ری نظر آئیں گے۔ اقبال کی زندگی اور شاعری کے دور اُخر میں تماں یورپ اور ایشیا میں انقلاب، عظیم پریا ہو گیا تھا۔ حکومت و مدنی رفتار و بکردار، ذہن و فکر سب بدل رہے تھے، اسلامی حکومتیں خاص طور پر اس سیلاب کی زد میں آگئیں تھیں۔ اسلامی روایا

اسلامی نظریات، حیات۔ اسلامی اصولِ میثت اس رو میں بینے شروع ہو گئے تھے اور یہ تمام دفترِ عالم، یہ پورا صحیفہ القلب تمام منکروں اور تنازعوں کے سامنے گھٹا ہوا تھا۔ عرب دایران کا ہر مبصراً اس کتاب کو ایسی ہی آسانی سے پڑھ اور سمجھ سکتا تھا جیسے ہندوستان کا دیدہ در۔ لیکن جبرت انگلیز و بھیرت افروز حقیقت یہ ہے کہ ایک پتے میں تنہا اقبال کی فارسی و اردو نظمیں اور دوسرے پتے میں ایران کی تمام جدید القلابی شاعری، تہذیب و کو اٹھایا جائے تو اقبال کی گروہ اور زمیں کے مقابلے میں تمام عجم نہایت بُکت ثابت ہوتا ہے۔ زبان و محاورہ میں نہیں۔ بُکت ایرانی میں نہیں اصناف سخن میں نہیں۔ اشکال نظم میں نہیں۔ بلکہ پایام شاعرانتہ میں ژرف، لکھائی میں حکمت و تدبیر میں، زمانہ کی بحص شناسی میں۔ منتقلی بینی میں، صحت اصلاح و تبلیغ میں، برہفت تخلیل، جدت اسلوب میں یہ بات صرف میں نہیں کہتا خود اہل ایران کو اس برتری اور پیغمبری کا اعتراف ہے۔

اب دوبارہ ایرانی شاعری کے پتے میں اس کی جگہ تمام اردو کی جدید القلابی شاعری کو رکھ کر تبیئے پھر بھی اقبال ہی "منْ تَقْلَتْ مَوَازِينَ" کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس بات سے شاعری کے کسی مبصر کو انکار نہ ہونا چاہیئے۔ لیکن اگر ہو تو پھر یہ میرا، یہ دعویٰ سہی۔ میرے نزدیک اقبال کی اس فضیلت کا سبب ان کے ذوق صحیح کے ساتھ ان کا قلب سلیم بھی ہے۔ اسی سلامت قلب نے بالآخر ان کے گفتگو کردار میں تطابق پیدا کر کے ان کو صحیح منکر اور حقیقی شاعر بنادیا تھا۔ مجھے اس وقت اقبال کا تذکرہ کر کے ایسی بات کو گوشہ نگزار کرنا تھا۔ کہ حقیقی شاعری اور پیغمبرانہ شاعری کے لئے شاعر کو اپنی روح اور اپنی شاعری کی روح کو "یکجان د دو فالب" کرنا لازم ہے۔ یہ بات اقبال میں حصی اور ان کے علاوہ ہندوستان کے کسی پورٹھے جوان اور نوجوان شاعر میں نہیں ہے۔ لہذا عصر حاضر کے زندہ موجود شعر اے اردو میں کوئی فرد داحد "پیغمبر شاعر" نہیں ہے۔ اس پیغمبری کے لئے اور اک کی صحت، احساس کی ثابت، جذبہ کی داقعیت، تجربے کی داردیت کے ساتھ اسی اپنے پر گھری

نگاہ، نتائج پرہ درین نظر، حقائق کا صحیح تجزیہ، خواست پرہ درست تنقید کی ضرورت ہے۔ اور اس سے زیادہ ذہنِ عام سے بلند تر تخلیل، الہامی بیان، پیغمبرانہ اُسلوب لافم ہے اور اس سے بھی بڑھ کر پیام شاعرانہ کی محکمیت "نحو کیسا" کی قطعیت اور قال و مال کی مطابقت ناگزیر ہے۔ کوئی مصلح و مبلغ، کوئی ہادی و پیغمبر صرف باتیں نہیں بتاتا۔ اپنے "پیغام" کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کہتا۔ اپنے عمل سے اپنے قول کی صداقت کو ثابت کرتا ہے۔ اور بالآخر زمانہ کے اہل بصیرت اور دیدہ و رتقاد اس کے پیغام کی یکانی و ہم داری کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کے دشمن اس کے قول پر عمل نہ کریں۔ لیکن اس کے عمل کے یقین اور ثبات و استقلال کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ پیغمبرانہ اوصاف آج صرف ہندوستان میں نہیں تمام عالم اسلامی کے کسی شاعریں نہیں؟ اس دادِ حق اور مَوْهِبَتِ غُطْمَی کا بالفعل دور "طفہ" اور عہدِ تعظیل ہے۔

جب تک کہ :- ۴

"مرد سے از غیب بروں آید و کام سے بکنڈ"

لیکن میں شاعری کو صرف اس قسم میں محدود نہیں سمجھتا۔ شاعری کام بھی ہے اور کھیل بھی۔ شاعری برائے زندگی بھی ہے اور برائے شعر و ادب بھی اور برائے لاشے بھی۔ مشرق و ہندوستان کا نظریہ شاعری مغرب سے بالکل مختلف رہا ہے اور ہے اور رہے گا۔ جب تک ارضِ نوح دیوان ان کی طرح ہندوستان اور ہندوستان کا تختہ نہ الٹ جائے یعنی ہندوستان کا شاہ کبھی اس طرح بھی شعر کہتا ہے کہ اس کے پیش نظر نہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہ شعر و ادب کی ترقی بلکہ اس کو شعر کی مزونیت پسند ہوتی ہے۔ شعر کہنے کو اس کا جی چاہتا ہے۔ شعر کہنا اس کے لئے باتیں کہنے کے برابر آسان ہوتا ہے۔ اسی شوق و شغف میں لوگوں نے قرآن مجید کا منظوم ترجمہ کر دیا ہے۔ مثنوی مولانا مردم کو اردو میں نظم کر دیا ہے۔ مسائل فقة اور قواعد صرف دیکھو نظم میں لکھ دیئے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو شاعری سے تعبیر کریں گے۔ میں بھی آپ سے متفق ہوں لیکن ان کے نظم ہونے سے آپ کو بھی انکار نہ ہو گا۔ یورپ کی شاعری

میں ایسے کارنامے نہیں ہوتے لیکن ہندوستان کی شاعرانہ ذہنیت کی تاریخ میں ان سے صرف نظر مکن نہیں۔ ہندوستان کے سے متعدد یورپ میں کہاں ہوتے ہیں غزوں کے گلدوست، انگلش، فرنچ۔ جو من زبانوں میں کب شائع ہوتے ہیں۔ فی البتہ نظم کئی کارواج دہان کہاں۔ ہندوستان میں باقی کرتے کرتے تاریخ یا رہنمائی کر رہے ہیں۔ میں پہلتے پھر تے غزل موزوں کر رہتے ہیں۔ کتابوں اور مقالوں میں برعکشہ شعر لکھتے ہیں۔ قصر دل میں شعر پڑھتے ہیں۔ خطوں میں شعر لکھتے ہیں۔ عوام بازاروں میں شعر لگاتے چلتے ہیں۔ خواص بنتے لطف صحبتوں میں شعر سننے سنتے ہیں۔ فقر دل کا قوازن اور نظم کے قوافی ہندوستان کی گھٹی میں پڑھے ہوئے ہیں۔ بیان کی کہاؤتوں اور مشتبیہ موزوں اور مقفلی میں۔

ان میں سے بیشتر کو اعلیٰ شاعری سے خارج کیا جاسکتا ہے لیکن ہندوستان کے شاعرانہ ماحول سے باہر نہیں نکالا جاسکتا۔ کسی طفل شیرخوار کو ہندوستان سے جا کر انگریز دل کے پرد کر دیا جائے تو وہ بالآخر خواب بھی انگریزی میں دیکھا کر لے گا لیکن اس طرح کا سinx فطرت ہندوستان میں رہنے والوں کے لئے مستقبل بعد میں بھی امکان فقوع نہیں رکھتا لیکن ہمارے انقلابی شاعر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زمانہ بدلتے ہیں تو گویا ہندوستان کی اقواء طبع بھی بدلتے ہیں۔

میرا مقصود یہ ہے کہ انقلابِ جدید کے اثر سے اردو شاعری کے قدیم موقوفات میں تغیر ہو جائے۔ قدیم اصناف تبدیل ہو جائیں، نئے تجربات لکھے جائیں، نئی افادی ہیئت پیدا ہو جائے، کوئی مرضائقہ نہیں۔ لیکن ہندوستانیت فنا نہ ہونی چاہیے۔ مشرقيت تباہ نہ ہو جائے، قدیم طرزِ تخلیل اور اسلوبِ بیان میں خرابیاں بھی تھیں۔ حوزمانے کی "نظر بندی" کے سبب سے ان لوگوں کو محسوس نہ ہوتی تھیں اور اب فکر و نظر کی آزادی کے سبب سے نایاں ہو گئی ہیں، مغربی شاعری کے موضوع خیالات، اسالیب سب کچھ اردو شاعری میں یئے جاسکتے ہیں اور لینے چاہیں۔ لیکن وہ جو ہندوستان کی فطرت میں جذب ہو سکیں اور زبان میں سحوتے جاسکیں۔

انقلاب شاعر بس اسی نکتے کو مجموعے ہوئے ہیں جیب بات ہے کہ میدان سیاست میں تو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ہندوستانی ہیں پھر اور کچھ ہیں لیکن ثانوی میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کچھ ہوں یا نہ ہوں ہندوستانی ہرگز نہیں ہیں۔

نسی شاعری کی جدت آفرینی کے مختلف اہماع و عناصر ہیں اور ان کی الگ الگ چیزیں اور اہمیت ہے مثلاً تحریر میں مصروعوں یا مصروعوں کے نکڑوں کو الگ الگ چیزیں، نچے اور پہلے لکھنا، ایک مصرع چند سوال وجواب سے مرکب ہو تو ان کو افانہ کے مکالمہ کے طور پر لکھنا۔ یا نظم کے بندوں میں قافیوں کی نئی ترتیب پیدا کرنا۔ یہ سب ظاہری باتیں ہیں۔ باطنی شاعری سے ان کو کچھ تعلق نہیں۔ لباس کی فلطح و راش ہے۔ کمرے کے فریضہ کی ترتیب ہے۔ مختلف وضع و تنفع کے لباس بیان طور پر بھی معلوم ہونے ہیں۔ کمرے کو بہت صورتوں سے آہستہ کیا جاسکتا ہے۔ اصل چیز لباس اور کمرے میں ہمیت کی موزونیت اور نوع گی لطافت ہے۔ میرے نزدیک بصرعوں کی ہر ترتیب جائز ہے۔

دوسری جدت بے قافية نظم کی ہے میں اس کو ہندوستانی مذاق کے خلاف سمجھتا ہوں۔ ترک فافية کے لازم دنگزیر ہونے کا میں قابل نہیں ظاہر ہیں ترک فافية آسان تو ہے مگر ”دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔“ خود انقلابی شاعر فافية کی پابندی کے ساتھ بہت آسانی سے نہایت خوبصورت نظمیں لکھ لیتے ہیں۔ یورپ کی شاعری میں ”بلینک درس“ طویل نظموں اور دراموں کے لئے اختیار کی گئی تھی اور وہاں اس کی ضرورت تسلیم کی جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ فافية کی پابندی نہ ہونے سے نظم کو نشر کی ترتیب سے قریب تر لایا جاسکتا ہے۔ اور افراد افانہ کے غنیمہ کا لئے اونٹ طویل تقریب نثر سے جس قدر مسائل اور روزمرہ سے جس قدر مطابق ہوں بہتر ہے۔ لیکن وہاں بھی وہ نظم سرتاسر نظم نہیں ہو سکتی۔ بیان اردو کی محصر نظموں میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ نظم کو نشر کی ترتیب کے ساتھ موزوں کرنا نظم کے محاسن میں نہیں ہے۔ بلکہ نظم کا نثر سے ممتاز ہونا ہی اس کا حسن ہے۔ بہر حال میں بے قافية نظم

کا شدید مخالف نہیں نظم کے مُقْفَیٰ یا مُعْرَفَی ہونے کو میں نفس شاعری سے خارج سمجھتا ہوں۔ میں صحیح نظر میں شاعری کا قائل ہوں۔ قدیم و جدید نشرنگاروں کے سدر فرستے ہیں جن کو میں اشعار سے بہتر شعریت کا حامل سمجھتا ہوں۔ وہ نشراں کے کسی وزن میں رکھ دی جائے تو میں زیادہ متاثر ہوں گا اور اگر مُقْفَیٰ ہو جائے سے تاثیر میں فرق نہ آئے تو اور زیادہ لطف انداز ہوں گا۔ فافیہ سے لازم طور پر تاثیر میں فرق آجائے کا میں قابل نہیں۔

تیری انقلابی شان "آزاد نظم" ہے۔ یہ عجیب ہیولی ہے اور عجیب بنتی ہے اور عجیب بنتی ہے بے دُول چیز یعنی اس میں فافیہ کے علاوہ وزن سے بھی آزادی ہے یا کم از کم وزن کی آزادی حاصل ہے کہ ایک ہی نظم میں مختلف وزنی شکلیں ہو جائیں یا ایک وزن کی صریح میں پورا ہو کسی میں چوتھائی، کبھی وزن کا قفس بالکل توڑ دیا جاتا ہے اور اس کی تبلیاں بکھری رہتی ہیں، یعنی بجائے نظم کے نظری کو آزاد نظم کہا جاتا ہے لیکن اس میں اتنا امتیاز پیدا کر دیا جاتا ہے کہ انفاظ کی ترتیب سے ایک قسم کا الحن یا آہنگ پیدا ہو جاتا ہے اس کو انگریزی میں "فری درس" (آزاد نظم) کہتے ہیں۔ آزاد نظم یورپ و امریکہ کی ایجاد ہے۔ لیکن اس کا وجود ہماری زبانوں میں بھی ہے۔ قرآن مجید الحن و آہنگ سے بھرا ہوا ہے۔ گلتان کے بہت سے فقردوں میں آہنگ موجود ہے۔ آزاد نظم کے آہنگ کو انگریزی میں کیڈنس (کہتے ہیں اس کے لئے عربی الفاظ تلحین و تجوید ہیں۔ قرآن کا الحن یا تجوید مشہور ہے لیکن اس کو نظم کہنا ہمارے تصور شاعری کے بھی خلاف ہے اور قرآن مجید کے لئے بھی کریشان ہے۔ بقولہ تعالیٰ وَ مَا يَبْغِي لَهُ قرآن کا اعجاز یہی ہے کہ نظم میں نظر ہے۔ لیکن عرب کے شاعروں نے اس نظر کو سُن کر اپنی نظمیں پھاڑ کر پہنچ دی تھیں اور قرآن مجید کا تذکرہ کیا ہے کوئی شاعر گلتان کے فقردوں کو نظم کر دے تو ہم نظر کے بدیے میں اس نظم کو لینے کے لئے تیار نہیں۔ بھی بات اردو آزاد نظم کے حمایتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ صرف حمایت اور خالی کہنا ہی کہنا ہو گا۔ کاش وہ

واقعی ایں کہنے کا حق رکھتے۔ پھر پرانے خیال کے لوگوں میں کہے کم میں توان کی آزاد نظم کو آنکھوں سے لگانا اس لئے کہ میرے نزدیک نثر میں بھی شاعری ہو سکتی ہے۔ لیکن میری رائے میں شاعری مضمون اور بیان دونوں کے اعجاز کا نام ہے یا واضح توپوں سمجھیے کہ جو خیال، خدیہ یا تجربہ ہو، شاعر کا ذاتی احساس اور اس کی اپنی دریافت ہو۔ احساس میں ثابت اور دریافت میں جدت ہو۔ وہ بات کہے جو حصے نے نہ کہی ہو اور اس طرح کہے کہ اس سے بہتر نہ کہی جاسکے۔ لیکن سنتے والا جانے کہ کیا یہ میرے بھی دل میں تھا۔ یعنی یہ عوسم کرے کہ یہ بات بلاشبہ اسی طرح کہنے کی تھی اور اس پر متخبر ہو کہ یہ بحکمة شاعرنے کیا سے پیدا کیا۔ اور یہ پیرائیہ بیان کس طرح ذہن میں آیا۔ خلاصہ یہ یہ کہ سُن کر روح وجد میں آجائے اور دماغ ادبی صرت سے سرشار ہو جائے۔

لیکن القلابی شاعروں کی آزاد نظم کیا پابند نظم میں بھی شاعری کی یہ روح اور نظم کے یہ اجزاء بہت کم ملتے ہیں۔ با وزن و با فافیہ نظم کے تو میری نظر میں اور مصاف بھی ہیں۔ ادبیات میں اس کے لئے بہت گنجائش ہے لیکن آزاد نظم جس میں اور کچھ نہیں ہے اگر اس میں یہ بھی نہ ہو تو پھر ادب میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے شاعری کا تعلق مضمون و مفہوم تخلیق و تجربہ، بیان و اسلوب سے جہاں تک ہے نثر میں بھی ممکن ہے لیکن دنیا کی ہر زبان میں شاعری کا وجود ہے۔ نثر میں شاعری کی ہیں کافی نہیں سمجھی جاتی تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی مابہ الامتیاز ہے اور وہ بخوبی لحن اور نے کے کچھ نہیں۔ اس لئے وزن نظم کے لئے پہلی شرط ہے۔ یہ بحث ہی نسول ہے کہ لوازم شعر و نظم میں ذرعن کا کیا درج ہے۔ پہلا درج ہے سب سے پہلا۔

اب وزن اور لحن کا یہ حال ہے کہ نظم اس کی ساخت کے تابع ہے اور اس کی پسندیدگی ابل زبان کی طبیعت اور عادت پر منحصر ہے۔ انگریزی "گانا" گایا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے سُرے چیخ رہے ہیں حالانکہ انگریز اسی کو سن کر جھوم جھوم

جاتے ہیں۔ ہم نے بعض عربی بھری مُسترد کر دی ہیں اس لئے کہ ان سے ہمارا ذوقِ نعمہ پورا نہیں ہوتا۔ توابِ اردو میں آزادِ نظم کو گوارا کرنے کے لئے ہمارے ذائقے اور طبیعت تغیر ہونا چاہیے۔ یہ جب تک نہ ہو ہمیں اس آزادی سے معاف رکھا جائے۔ ایسی زپردازی گل مزار بہتر۔ بکج قفس، بال و پرہ می فروشم  
آزادِ نظم کی بے وزنی اور پریشانِ وزنی کا اندازہ ان چند نمونوں سے ہو سکتا ہے۔

۱۔ میراجی اپنی نظم (ترغیب) میں لکھتے ہیں :-

رہیلے جرائم کی خوش بو	فولن فولن فولن
مرے ذہن میں آہی ہے	فولن فولن فولن
تجھے حدِ ادک سے دورے جاہی ہے	فولن فولن فولن فولن
جوانی کا خون ہے	فولن فولن

قانونِ اخلاق کے سارے بندھن شکر نظر آ رہے ہیں

فولن فولن فولن فولن فولن فولن فولن

اس وزن کا ایک مصروف چار فولن سے بتاہے لیکن اس نظم میں کہیں پورے وزن کا ہر ہا ہے کہیں ہر ہا کہیں ا ہر ہا ا ہر ہا لیکن بعض مصروفے پورے بھی ہیں جو میں نے نہیں لکھتے تاہم اس میں یہ خصوصیت ہے کہ ایک ہی وزن کے رکن سے مرکب ہونے کے سبب سے تمام نظم میں وزن ٹوٹنا نہیں اور کئے منظر نہیں ہوتی۔ اسی قدن کو ایک نظم میں ایک شاعر نے نہایت طویل مصروفے مرتب کیے ہیں۔

۲۔ دشوامتر عادل کی نظم (راہرو) کے بعض متفرق مصروفے دیکھو

بھری ہوئی چاندنی اپنے خاموش ہوتوں سے سرگوشیاں کر رہی ہے۔ ۸ بار

دہ سرگوشیاں جن کو سنتا ہوں لیکن یہ ظاہر کیے جا رہا ہوں ۷ بار فولن

نہیں ان کو میں نے سنا ہی نہیں ہے ۴ بار فولن

مرے پیچے پھیلے ہوئے لستے پر کہانی کے ذرقوں کی زنگین قبریں بنی جا رہی ہیں ۱۰ بار فولن

لیکن اگر وزن مختلف ارکان سے مرکب ہو تو یہ ہم آہنگی قائم نہیں رہ سکتی۔  
دیکھیے۔

- ۱۰۔ میرا جی کی نظم (اوپھا مکان) کے بعض مصرے ہیں :-
- (۱) بے شمار آنکھوں کو چہرے پہ لگائے ہوئے اسادہ ہے اک قشر عجیب  
فاحلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن تن فعلاتن فعلات  
(۲) لے سے تندن کے نقیب

فاعلاتن فعلات  
(۳) تیری صورت ہے مہیب

(۴) ذہن انسانی کا طوفان کھڑا ہے گویا فاعلاتن فعلاتن فعلن

(۵) دھل کے لہروں میں کی گیفت نائی مجھے دیتے ہیں مگر  
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن تن فعلن

(۶) ان میں اک جوش ہے بیداد کا فریاد کا اک عکس دراز  
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن تن فعلات

(۷) اور انفاظ میں افانے ہیں بے خواہی کے  
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

یہ سات مصرے نظم کے آغاز کے ہیں، اور مسلسل میں، متفرق نہیں۔ ان میں سے چوتھا اور ساتواں مصرع وزنی متعارف میں پورا ہے۔ پہلے پانچوں اور پھٹے میں اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن تینوں جگہ وزن کے آخری حصے سے بڑھایا ہے۔ یہ بھی اک اسول کی بات ہے۔ دوسرے مصرعون یا بھکڑوں میں وزن کے پہلے حصے سے پورے

اور ادھورے ارکان لئے گئے ہیں۔ اس میں بھی مضافات نہیں۔ لیکن ان تمام و ناتمام مصروعوں کو مدل پڑھنے سے اور لحن کی وہ یکسانی نہیں رہتی جو پہلے دو نمونوں میں (فرعون) کی تکرار کے سبب سے تھی۔ وزن اگر مختلف ارکان سے مرکب ہو تو سب مصروفے بالکل برابر ہونے چاہیں۔ وزن مقرر کو کتنا ہی پڑھایا جائے لیکن اضافات تمام مصروعوں میں یکساں متوازن اور متوازی ہونا چاہیے۔

یہ اشارہ غالباً ہے مغل نہ ہو گا کہ وزن کو حد مقرر سے بڑھانا جدید شاعروں کی ایجاد نہیں ہے۔ اگلے شاعروں نے بھی پڑھنے بلے بلے مصروفے مرتب کیے ہیں اور قصیدے کے قصیدے کے لکھوادیتے ہیں۔ لیکن اپنے عرض اور شاعری کے اصول کو قائم رکھا ہے۔ ایک صاحب نے تو اس قدرے بڑھائی تھی کہ ان کے ایک شعر کے دو مھرے نے مگار کے ایک صفحے میں نہیں سما سکتے تھے۔ یہ نے تیس سال ہوتے جس پرچے میں دیکھے تھے وہ چھوٹی تقطیع کا تھا اور اس کے تین صفحوں میں دو مھرے پرچے تھے یہ عرض کی پہلوانی ہے۔ شاعری نہیں۔ لیکن ایک حد کے اندر وزن کو حد سے بڑھایا جاسکتا ہے۔ جیسا مولوی غلام امام شہید نے کیا ہے۔ انہوں نے فارسی و اردو کے دو قصیدے سے نعت شریعت میں لکھے ہیں۔ ان میں بھی اد پر کے تیرے نو نے کا وزن بڑھایا گیا ہے۔ شہید کے اردو قصیدے کا مطلع یہ ہے:-

یہ سحر کیسی ہے پر نور کہ جمہور میں مسرور ہے سامان بہار  
مگل جمکتا ہے چن زور جمکتا ہے شیکتا ہے ہر اک شاخ ترد تازہ سے فیضان بہار  
اور فارسی قصیدے کا مقطع ہے:-

ایں شہید است جگر تھہ دیڑھ مردہ و افردہ و غم دیدہ و شوریدہ و آشہتہ دلاغ  
کہ بدیوانگی دوحتت و سودا و جہون و غم و احوال زبوں است غزل خواں بہار  
اس کا وزن یہ ہے:-

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن  
یہ وزن حد سے بڑھ کر بھی حد کے اندر اس لیتے ہے کہ چار کنوں سے ایک

صرع کا مرتب ہونا معمول دستعارف ہے۔ شہید نے دو مصروع کا ایک مصريع بنایا ہے اسی کو حد سے باہر اس شاعر نے کر دیا تھا جس نے فلاتن کی تحریر دو سو مرتبہ کر دی تھی۔

بہر حال ان نونوں سے آزاد نظم کے آہنگ کا اندازہ ہو گیا ہے اس آہنگ کا قائم لکھنا دار اور توجہ کا کام ہے۔ میراجی اور دوسرے شاعروں سے کہیں کہیں یہ کے ٹوٹ بھی گئی ہے لیکن اس موضوع پر زیادہ رد و قدر کرنا مقصود نہیں ہے۔ بیش نہ لات خود نظم کی اس آزادی کو بھی گوارا کر سکتا ہوں یا شاعریکہ شاعری کے صلی محسن موجود ہوں۔ لیکن تبع صداقت یہ ہے کہ کسی انقلابی شاعر کا پیام تو کیا تغیین ہوتا، کوئی ایک مقصد و مذک بھی مقرر نہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو سیاسی ہہنا بھی کہتے ہیں۔ سماج کا مصلح بھی، مفکر و مدرس بھی، شاعر و مصور بھی۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ حضرات کوئی سیاسی یا سماجی، بیانی یا خیالی نظم کہتے ہیں تو یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ شاعر بھی ہیں اور شاعری دموزو نیت ہیں بڑا فرق ہے تیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظم میں سیاست، اصلاح انقلاب جو کچھ ہو شاعری نہیں ہوتی۔ میرا یہ تبصرہ آزاد دیا بند دونوں قسم کی نظموں کو شامل ہے جو گزشتہ پندرہ بیس سال میں لکھی گئی ہیں بعض نونے دیکھیئے:-

ن.م. راشد مشہور انقلابی آزاد بگار شاعر ہیں۔ اردو میں آزاد نظم کے بانی در شاعر اول ہیں ان کی ایک عجیب نظم ملاحظہ ہو جس میں وطن پرستی اور ہوس پرستی کا تضاد یکجا کیا گیا ہے۔

## انتقام

اس کا چہرہ اس کے خدد خال یاد آتے نہیں  
اک شبستان یاد ہے۔

جن کی تواروں نے رکھا تھا یہاں  
نگ بندیا د فرنگ !  
اس کا چہرہ اس کے خدوخال یاد آتے ہیں۔  
ایک بہہنہ جنم اب تک یاد ہے  
اجنبی عورت کا جنم !  
مرے ہونٹوں نے لیا تھا رات بھر  
جس سے ارباب وطن کی بے بی کا انتقام

ایک بہہنہ جنم آتش داں کے  
پاس فرش پر قابین، قالینوں پر پنج  
دھات اور پھتر کے بُت  
گوشہ دیوار میں ہنتے ہوئے  
اور آتش داں میں انگاروں کا شور  
ان بتوں کی بے حسی پر خشمگیں  
احلی احلی اوضیحی دیواروں پر عکس  
ان فرنگی حاکموں کی یادگار

اس میں شاعری کیا ہے؟ اچھوتا پن کیا ہے؟ کیا یہ وطن پرستی کا صحیح جذبہ  
ہے؟ کیا ارباب وطن کو اسی طرح انتقام لینے کی مذمت مقصود ہے؟  
راشد صاحب! اس نظم کو اپنا شاہکار نہیں سمجھتے۔ ان کی رائے میں ان کی  
بہترین نظر (دو بیچے کے قریب) ہے لیکن بہت طویل ہے، اس لئے درج نہیں  
کرتا۔ مجھے اس میں اتنی بھی ندرت اور چدت نظر نہیں آتی جتنا انتقام میں ہے، صرف  
ان کا جدید مگر دا جدید رجمانات کے غور پر نقل کرتا ہوں۔ ن.م. راشد  
دری پچھے کے قریب والی نظم میں کسی کو "میری جان" کہہ کر اپنے پاس دری پچھے کے  
قریب بلاتے ہیں۔ اور شہر کے مختلف مناظر دکھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے:-

ایک عفریت اداں  
تین سو سال کی ذلت کا نشان  
ایسی ذلت کہ نہیں جس کا مداکوئی

اسی میزار کے سایتے کچھ یاد بھی ہے  
اپنے بیکار خدا کے مانند  
اوگھتا ہے کسی ناریک نہان خانے میں  
ایک افلام کا مارا ہوا ٹلاٹے ہوئے

خدا کی بے کاری اور بے سودی کی تبلیغ بھی انقلائی شاعری کا ایک عضور ہے۔

میں راشد صاحب کی ایک اور نظم کو ان کی اکثر نظموں سے بہتر سمجھتا ہوں ایں نظم ان کے مجموعہ کلام (ماوراء) کی آخری نظموں میں ہے۔

## اجنبی عورت

ایشیا کے دور افتادہ ستانوں میں	کاش اک " دیوار رنگ "
میرے خوابوں کا کوئی رومان نہیں	میرے خوابوں کے درمیان حائل نہ ہو
کاش اک دیوار ظلم	یہ سبھ پیکر برہنہ را ہرو۔
میرے ان کے درمیان حائل نہ ہو	یہ گھروں میں خوبصورت عورتوں کا زہر خند
یہ ت قدیم	یہ گز گاہوں پہ دیوانہ سا جوان
یہ خیابان، یہ چمن، یہ لالزار	جس کی آنکھوں میں گستہ آندوؤں کی پک
چاندنی میں نوحہ خوان	مشتعل بیباک مردوروں کا سیلا ب عظیم
اجنبی کے درست خارت گر سے ہیں	ارضِ مشرق ! ایک سبھ خون سے لرزاں ہوں یہیں
زندگی کے ان نہان خانوں میں بھی	آج ہم کو جن تنادوں کی حرمت کے سبب
میرے خوابوں کا کوئی رومان نہیں	ڈھنوں کا سامنا مغرب کے میدانوں ہیں ہے
	ان کا مشرق میں نشان تکبھی نہیں۔

---

اس نظم کا مرکزی خیال بہت خوبصورت ہے۔ ایک مغربی عورت کا ایشیا کے حلیل زار پر افسوس، درست خارت گر کی تکاپت، دیوار ظلم و رنگ کے حائل ہونے پر تائیں بڑی صحبت اور موزوںیت کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ آخری چار مصروفے نظم کی جان ہیں اور نہایت مؤثر ہیں۔ مغرب و مشرق کا مقابلہ نہایت حسرت آمیز انفاذ میں کیا گیا ہے اور بہت دل کش و بصیرت افزودہ ہے۔ لیکن میرے نزدیک اس میں نظم کا کوئی لطف نہیں

یہ مضمون کامل مترجم اور متفقی مصروعوں میں لکھا جاسکتا تھا اور سامعین پر زیادہ اثر کرتا۔ دوسرے مشہور و مقبول انقلابی شاعر میرا جی ہیں۔ لیکن حُسن کا "نظریہ افادت" جو یونیپ کا مفرد و صہرا اور ہمارے شاعروں کا مسلک و معمول ہے اگر بھی ہے جو ان فضموں میں ہے، جون. م۔ راشد کی متدرجہ بالا نظم (انتقام) میں ہے، جو میرا جی کی اپنی منتخبہ بہترین نظم (ادنچا مکان) میں ہے۔ یہ تو صرف ہندوستانیت نہیں، انسانیت کا خاتمہ ہے اور بہبیت و سُیّعیت کی حکومت۔ میرا جی کا شاہکار (ادنچا مکان) پڑھنے سمجھنے اور خور کرنے کی چیز ہے۔ لیکن اس قدر طویل ہے کہ سب کا نقل گزنا طول اہل ہے۔ میرا جی ایک اوپرے مکان میں اپنے احصاب کو آسودہ بنانے کے لئے پہنچتے ہیں اور اوپرے مکان سے فنا طب ہو کر فرماتے ہیں:-

بھرا احصاب کی تعمیر کا اک نقش عجیب  
جس کی صورت سے کرامہت آئے  
اور وہ بن تر اتم مقابل پل میں  
ذہن انسانی کا طوفان کھروا ہو جائے  
اور وہ ناز نہیں بے ساختہ بے لگ ا روئے کے بغیر  
ایک گرتی ہوئی دیوار نظر آنے لگے۔  
شب کے بے روح تماشائی کو۔  
بھول کر اپنی تھکن کا نغمہ  
محصر لرزش چشم در سے  
ریگ کے قصر کی مانڈبکار کرے  
بھرا احصاب کی تعمیر کا اک نقش عجیب  
ایک گرتی ہوئی دیوار کے مانڈبکر کھا جائے۔

میں یہ نتا نھا ترے چم گر انبار میں بتر بیچا  
اور اگ ناز نہیں لیٹی ہے وہاں تناہی

ایک پیکی سی تھکن بن کے جھسی جاتی ہے  
ذہن میں اس کے مگروہ بیتاب  
 منتظر اس کی ہے پردہ لرزے  
پیر ہون ایک دھکتا ہٹوا بادل بن جائے  
اور در آئے اک ان دیکھی انوکھی صورت  
کچھ غرض اس کو نہیں ہے اس سے  
دل کو بھاتی ہے نہیں بھاتی ہے  
آنے والے کی ادا  
اس کلپنے ایک ہی مقصود وہ استاد گئے

یہ نظم تشریح و تنقید سے بالاتر ہے۔ اس کے مضمون و موضوع سے ناظرین لطف

اندوز ہوں اور زندگی کی اس عکاسی میں انقلاب و افادت کے حسن و جمال کا مشاہدہ کریں۔ مجھے تو صرف اس قدر عرض کرنا ہے کہ اس نظم کو شاعری سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں۔ شاعری کا بھی وجود نہیں۔

اسی سلسلے میں ایک اور توجیہ کے انقلاب پر خجالات دیکھئے۔ شریف سُنْجَايی لکھتے ہیں کہ اپنی نظموں میں سے مجھے "پسپائی" سب سے زیادہ پسند ہے مرد کی خواہش کے سامنے سورت کی "پسپائی" یا بقول میراجی ایک گرتی ہوئی دیوار نظر آنا ملاحظہ ہو۔

## پسپائی

اپ اس بی کوتاریک بنار کھا ہے۔  
اس کوتاریک ہی قم رہنے دو۔  
دل کی دنیا میں اجلاں کرو۔  
میری امیدوں کو مرہوش پڑا رہنے دو  
تم نہیں مانو گے؟  
تم دیکھتے ہی جاؤ گے؟  
اچھا دیکھو!  
و جلوں کے سینے کے چلخ دل کی بیتی میں اجلا کر دو۔  
پھر مرے جینے کا۔ یار نے کا۔ سامان کر دو۔

کیوں جگاتے ہو مرے سینے میں امید کو؟  
رہنے دو۔ اتنا نہ تم احسان کرو۔  
میں تو پر بی ہوں اور آفی ہوں دو دن کیلئے  
کل چلی جاؤں گی یا پہ سوں چلی جاؤں گی۔  
اور پھر آنے کا امکان نہیں۔  
روز یوں گھر سے نکلنے بھی تو آسان نہیں  
کیوں جگاتے ہو میرے سینے میں امیدوں کو۔  
کیوں جگاتے ہو مرے دل کے چولاغ؟  
میں نے یہ سارے دیے خود ہی بچار کھے ہیں۔

شاعری کے اقتبار سے یہ بھی باکل پاش ہے۔ پہلی نظم سے زیادہ بے لطف۔  
اور اس میں آزاد نظم کا آہنگ بھی کیا نہیں۔ (تم نہیں مانو گے) وزن کا ابتدائی حصہ ہے  
(تم دیکھتے ہی جاؤ گے) وزن کا آخری حصہ ہے۔ اس کے بعد (اچھا دیکھو) پھر آخری

جھترہ ہے۔

یہ عربی یہ فناشی قدیم شاعری میں بہت تریادہ، بہت کھلی ہوئی ہے۔ اور ایسی ہی قابل اعتراف ہے جیسی یہ نظمیں لیکن دہان و وزن کا تنہم ہے۔ فافیہ کی دل کشی ہے شاعرانہ سخیل ہے اسلوب کا اچھوتا پین ہے۔ یہاں ان میں سے ایک بات بھی نہیں ہفت ہوس انگریزی اور محض لذت گناہ ہے۔

میرے نزدیک "ادب برائے ادب" اور "ادب برائے زندگی" میں تضاد نہیں ہے، ان کا اجتماع ممکن ہے۔ ادب و شاعری، شروع نظم اپنی ادبی و شعری تکمیل کا ایک معیار رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک درجہ یا ایک انداز دا اسلوب الحمل و اعلیٰ اور بہترین ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر تصور میں نہیں آ سکتا۔ بہ درجہ اور اسلوب ہمیشہ ایک احمدیکاں رہتے ہے۔ بدلتیں نہیں سکتا۔ خیالات تجربے موضوعات نئے نئے ہوں بدلتے رہیں مگر ان کے اظہار کا بہترین طریقہ نہیں بدلتا۔ ایک کامل شاعر، فطری شاعر، پیغمبر شاعر، ہمیشہ وہی طریقہ پسند کرتا ہے۔ یہ ادب برائے ادب اور شاعری برائے شاعری ہے۔ اب اگر وہ تجربے اور موضوع زندگی کے کسی شعبے سے متعلق ہیں تو وہ شاعری برائے زندگی بھی ہو جائے گی۔ اور برائے شاعری بھی رہے گی۔ یہاں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جب ایک ہی طریقہ بہترین ہو گا۔ تو ہر تجربہ و خیال ایک ہی طریقہ سے بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ وہ تجربے کبھی ایک سے نہیں ہو سکتے۔ ایک قسم کی مہم شاعری بھی انقلاب پسندوں نے شروع کی ہے۔ سادی نظم پڑھنے کے بعد بھی یا تو کوئی مدعای مقصود ہاتھ نہیں آتا۔ یا صرف مرکزی خیال تو مل جاتا ہے لیکن خیالات کی کڑیاں مارلوٹ نہیں ہوتیں۔ کنایہ و ابهام میں مطلب ادا کیا جاتا ہے مثلاً فیض احمد فیض کی ایک نظم "تنهائی" ہے۔

سو گئی راستہ تک تک کے ہر اک را گند۔  
اجنبی خاک نے دھنڈ لائیے قدموں کے سراغ۔

پھر کوئی آیا دل زارہ بانہیں کوئی نہیں!۔  
راہرو ہو گا کہیں اور چلا جائے گا۔

ڈھل جکی رات بکھرنے لگا تاروں کا خبار  
فل کر دشمنیں، بڑھادوئے وہینا وایا غر  
رد کھڑا نے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ۔ اپنے بے خواب کوارٹوں کو مغلل کر لو  
اب بیل کوئی نہیں، کوئی نہیں آئیگا۔

یہ تہائی کا تصور ہے لیکن صاف و مسلسل نہیں اگرچہ ن۔ م۔ راشد اس نظم کو ہمیں  
اور اتنا درجے کی اثر آفرین نظم قرار دیتے ہیں؟ "خوابیدہ چراغ" کی ترکیب یہاں  
موزوں نہیں۔ "خاموش" کا مضمون ہوتا تو خوابیدہ درست ہو جاتا۔ "ردا کھڑا نے" کے  
لئے سغودگی کی ضرورت نہیں۔ "بے خواب کوارٹوں" کی ترکیب بھی پہنچے پہنچ آئی۔ یعنی اس  
مرکان کے کوارٹ جس میں اب تک خواب کا گزر نہیں ہوا۔ یہ استقلال صفت، موصوف  
اصلی سے اس کے کسی متعلق قریب کی طرف اندوفارسی میں ناماؤس نہیں ہے لیکن  
انگریزی میں متعلق بعد کی طرف بھی استقلال صفت بہت عام ہے اور تہائیت معنی خیز  
ہو جاتا ہے۔ "بے خواب شخص" کی بجائے "بے خواب بتر"، "بے خواب بکر"  
"بے خواب مرکان" مستعمل ہیں۔ "بے خواب کوارٹوں" میں بعد ذرا زیادہ ہو جاتا  
ہے لیکن معنویت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ میراجی کی کسی نظم میں تہائی کو "پھیکی سی  
تھکن" کہا گیا ہے۔ یہ استعلاء اور تشبیہ دونوں دل کش ہیں۔ تھکن میٹھی بھی ہوتی  
ہے پھیکی بھی۔ تہائی پھیکی تھکن ہے۔ انتظامِ عجوب کو میٹھی تھکن کہہ سکتے ہیں۔  
پروفیسر فیضِ احمد فیض نے کسانوں کے افلاس اور خستہ حالی کے لئے اس شعر میں کیا  
خوب استعارہ کیا ہے:-

یہ سین کھیت پھٹا پڑتا ہے جو بن جن کا  
غلہ پیدا کر کے بھی عجوب کر رہتے ہیں تو ان کے لئے تو گویا بھوک ہی اگئی ہے  
اس نوع کا اسلوب تخلیل، ترکیب بلاشبہ شعر و ادب میں قیمتی اضافے ہیں۔ ان کو  
سموکر اختراع و استعمال کیا گیا تو سکھ رائج بن جائیں گے۔

اسی سے متأجل ایک اور اسلوب بھی نئے تخلیل کی بدولت وجود میں آیا ہے

یہ پیرا یہ غزل جدید میں پیدا کیا گیا ہے مثلاً اس شعر کو پڑھیئے :-  
دم نے رہی تھیں حُسن کی جب سحر کاریاں  
ان وقفہ ہائے کفر کو ایمان بنا دیا

اس کا مطلب ہو چکے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ حُسن کی سحر کاریوں کا دم لینا کیا؟  
اور دم لینے کے لئے وقفہ ہائے کفر کبیوں؟ اور ان وقفوں کو ایمان بنا دنیا کیا؟  
سوچ لینے کے بعد خود شاعر کی مندرجہ ذیل تشریح پڑھیئے :-

”کفر و ایمان کے الفاظ کافی فرسودہ ہیں۔ حُسن کائنات و  
حیات کا زندہ احساس کفر ہے یعنی وہ لطیف رنگینی نازک اور شدید  
دھرتی جسے لوگوں نے (کم از کم میں نے) کفر کہا ہے۔ یونانی پیگززم  
یہی کفر ہے۔ لیکن اس حُسن کا عکس تاریخِ انسانی کے بعض دوروں میں شعور  
انسانی کے آمیختہ میں دکھائی نہ دیا۔ یہی وقفہ ہائے کفر ہیں۔ یعنی وہ وقفہ  
ہیں جب حسن کی سحر کاریاں گویا دم لیتی ہیں۔ انہیں وقفوں میں آسمانی خدا کا  
حدود اور غلط تصور و حدیث اور ایمان کے نام سے مرتب ہوا۔ عبرتیت  
اور رہبانیت اور زندہ خشک کا دور ایمان اور زندہ بُب کے نام پر قائم رہا۔  
جب حسن کی شجر کاری کا تھر تھرا تا ہوا عکس پھر تاریخ کے آئینے پر پڑا تو  
ایک زندہ دھرتی یعنی کفر کا نیا جنم شروع ہوا۔ دنیا میں ایک مرتب پھر فلسفہ  
دھرتی جگ گا اٹھا۔ اسی حقیقت کی طرف اس مختصر شعر میں اشارہ ہے“

اب اس شعر کو پڑھیئے۔ کب پا نکا شعر معلوم ہوتا ہے لیکن کیا یہ نامنکپن تشریح  
معلوم ہونے سے پہلے بھی ان الفاظ میں تھا؟ یہی مرے نزدیک ابہام ہے۔ اس  
شعر کے مفہوم پر مجھے تنقید کرنی مقصود نہیں ہے۔

کفر ان کو غرزی اور ایمان ہمیں      کُل جنْبَرْپَمَا لَذِيْهِمْ فَرِحُونَ ۝  
یہ شعر پروفیر فراق گھور کھپوری کا ہے۔ مع تشریح رسالہ ”زمانہ“ کا پور میں شائع  
ہوا تھا۔ پروفیر صاحب نے اپنی شاعری میں تنقیدِ حیات کی کوشش کی ہے۔ اور

حقائقِ حیات و کائنات سے متاثر ہو کر شعر لکھتے ہیں۔ یہ بڑی ضروری، بہت دلچسپ اور نہایت قابل تحسین چیز ہے لیکن یہ چیز اگر غزل کے ایک شعر میں ہو تو الفاظ کی دلات واضح و صریح ہوئی ضروری ہے ورنہ شعر مکمل نہ رہے گا۔ دوسرے اسلوب بیانِ عیثیہ شاعرانہ ہونا چاہیے۔ ہر داقعہ سادھ پر برائے میں بیان ہوتے ہے دلکش نہیں ہو جاتا۔ مولانا کی تحریروں میں بڑی سلامت، روافی اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ موتخ کے واسطے اسلوب کا اختیاب اور الفاظ کی ترجیح کا مسئلہ بہت ابھم ہوتا ہے۔ موضوع خواہ ادب کی تاریخ ہو یا عام تاریخ، افسوی طرز سے بڑی حد تک مختلف ہوتا ہے۔ اور افراط و تفریط یا تو موتخ کی تحریر پائے اعتبار سے گر جاتی ہے یا خشک اور بے مزہ ثابت ہوتی ہے آول الذکر کی مثال مولانا محمد حسین آزاد کے ہان بکثرت ہے۔ آزاد کا انداز بیان اس درجے زنگین اور افسوی ہے کہ تاریخ و تذکرے سے زیادہ اساطیر و صنیمات کے لئے موزوں ہے۔ ثانی الذکر کی مثال مولوی ذکاء اللہ کی تحریریں ہیں۔ بالکل خشک اور بے مزہ۔ مولانا قادری کی تحریر کا کمال یہ ہے کہ خواہ وہ ادب کی تاریخ لکھ رہے ہوں یا عرض و بلاغت کے حقائق و دقائق بیان کرتے ہوں، نشنگار پر تبصرہ ہو یا شعر و شاعری پر تنقید۔ ہر جگہ ان کی تحریر میں شکفتگی اور دلکشی ہے۔ زنگین ہے جو فاری کے دہن کو اصل موضوع سے مٹا دے نہ ایسی خشنگی و بروست ہے کہ تحریر کے چند صفحے پڑھنے مخالف ہو جائیں۔ مولانا کی تحریروں کے صفحے کے صفحے پڑھتے چلے جائیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شیرین حشر ہے جو نرم روی کے ساتھ گل و گل زار اور مرتع زار کے درمیان بہہ رہا ہے۔ اگر خس و خاشاک اور سنگ و خشت سے بھی گزرتا ہے تو خوش گوار ترجم پیدا کر دیتا ہے۔ مولانا کی بڑی خصوصیت ان کا اخذال ہے۔ اسی میں ان کی شخصیت کا مکمل عکس نمایاں ہے۔

تشبیہ و استعارہ کا استعمال مولانا کی نظر میں بھی موجود ہے مگر اس درجہ نہیں کہ نظر کو نظم کی طرح سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت پیش آئے۔  
اصابت فکر، نزد، نگاه، احاطہ، فن، کمال کی حد تک مولانا کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے۔

مولانا نے عملی تنقید کے اصولوں کو اچھی طرح پرکھا اور بنتا ہے۔ مغربی تنقید کے صحت مند اجزاء کو اپنی تحریر میں اس طرح سمجھ دیا ہے کہ وہ مشرقی انداز فکر و نظر کا ہی حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ مولانا نے "داستان تاریخ اردو" میں پہلی مرتبہ ہر ادبی تحریروں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کے ذاتی و نجی حالات کی اہمیت کو واضح کیا اور خاندان تربیت، دراثت، ماحول اور افتاد طبع کے اثرات جو نسباتی طور پر غیر شعوری انداز میں مزاج و عادات پر مرتب ہوتے ہیں انہیں بیان کیا۔ ان کی تحریروں کا تجزیہ کیا اور ہر جزو کو تنقیدی نگاہ سے پرکھا اور پھر اس جزو کو کل کے ایک جھٹے کے طور پر کھکھ کر اس کا تمام تر ادبی مجموعی تاثر بیان کیا اور دوسرے ادیبوں کے نمونوں سے اس کی دضاحت کی۔

داخلی جذبات، ذاتی تجربات کس طرح ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر ادیب و شاعر کے مزاج اور خصلت و طینت کی تشكیل کر کے اس کی تخلیقات کے ذریعے ماحول و معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کو مولانا نے بہتر طور پر شعر و ادب کی تنقیدوں میں بیان کیا ہے۔ مولانا نے شاعر کے زندگ پر جو بحث کی ہے اسے بھی متألوں کے ذریعے سے اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔

مولانا کی تحریریں ٹھوس اور پریمفرز ہوتی ہیں۔ اپنے علم و فضل کی نمائش اور فن و کمال کی نمائش کے لئے وہ ثقیل و دقیق الفاظ کا دھیر نہیں لگاتے نہ دوسروں کو مرعوب کرنے کی خاطر مغربی نقادوں اور ادیبوں کے ناموں کی فہرست گناتے ہیں ان کی تحریروں میں فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کے مفکرین کے نظریات اور ان کی تحریکوں کا اشارہ بھی نہیں ملتا لیکن وہ اپنے عہد کی بیش تر تحریکوں سے واقعیت ہیں اسی لیئے ان کا ذہنی افق اپنے ہم عصر دہم عمر نقادان فن سے وسیع تر ہے لیکن ان تحریکات کا انہوں نے سمجھنے اور پرکھنے کی خاطر بغور مطالعہ کیا اگر کہیں ان کو کوئی ایسا غصہ ریا جزو دکھائی دیا جو ان کے مشرقی انداز فکر اور مشرقی ادبی سے مطابقت رکھتا ہو یا کم سے کم اس میدان میں مفہومی ثابت ہو سکے تو اس کو انہوں نے ضرور اپنایا ہے۔ اور یہ ان کی تحریری کی بڑی خوبی ہے کہ بظاہر سراسر مشرقی انداز میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے لیکن حقیقتاً اور عملًا وہ اپنے دُور کی

ویقیع تحریکات اور اپنے غصر کے رجحانات سے خالی نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ مولانا اردو تنقید میں ایک ایسے مقام کے حامل ہیں جیسے کوئی تکمیل صیحہ طور پر نہ پہچانا گیا ہے اور نہ شایان شان اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس بات کی نشان دہی اردو کے ماہر ناز ادیب و نقاد اکثر اپنی تحریروں اور تقاریر میں کر چکے ہیں۔

## فہرست ماحصلات

- ۱۔ احسن فاروقی، ڈاکٹر، فانی اور ان کی شاعری، کراچی: جادید پریس ۱۹۹۳ء۔
- ۲۔ احسن مارہدی، مولانا "تاریخ نظر اردو"، علی گڑھ، مسلم یونیورسٹی پریس ۱۹۶۰ء۔
- ۳۔ احسن مارہدی، مولانا "نمونہ منتشرات"، علی گڑھ، مسلم یونیورسٹی پریس، سنبھال ۱۹۶۱ء۔
- ۴۔ اختر آنصاری دھلوی، پروفیسر، حالی اور نیا تنقیدی شعور، کراچی، اردو اکیڈمی سندھ، ۱۹۶۱ء (مترجمہ انجمن ترقی اردو ہند) "خطبات گارسین دنیاسی"، اوزنگ آباد (دکن)؛ انجمن ترقی اردو (ہند) ۱۹۳۵ء، حصہ اول۔
- ۵۔ امین زیری، محمد (دیوبی) یوسف قیصر، سید محمد (مرتبین)، خطوط شبی بنام عطیہ فیضی، زہرا بیگم صاحبہ فیضی، آگرہ، شمسی میشن پریس۔
- ۶۔ انشاء، سید انشاء اللہ خان، دریائے لطافت۔
- ۷۔ آمنہ صدیقی، "افکارِ عبدالحق"؛ کراچی: انجمن پریس، ۱۹۶۲ء۔
- ۸۔ شاقب اکبر آبادی، (ڈاکٹر) احسن اللہ خان، پروفیسر (مرتبین)، "مکتوبات امیر میانی"۔
- ۹۔ حامد حسن قادری، مولانا، "ابراهام بنکن"؛ کراچی: انجمن پریس، ۱۹۵۶ء۔
- ۱۰۔ حامد حسن قادری، مولانا، (مرتب)، انتخاب دیوان مومن، علی گڑھ؛ انجمن ترقی اردو (ہند)، ۱۹۵۹ء۔
- ۱۱۔ حامد حسن قادری، مولانا، آئرانی افسانے "آگرہ، آگرہ اخبار" پریس، ۱۹۳۷ء۔
- ۱۲۔ "کثارات التواریخ" (محفوظہ)، ملوكہ ڈاکٹر خالد حسن قادری، پر مولانا قادری۔
- ۱۳۔ "باغبان"، رترجمہ منظومات رائیندہ ناچھ ٹیگور، کلکتہ: میکمل اینڈ کمپنی ۱۹۴۳ء۔

- ۱۲۔ "پھولوں کی ڈالی"؛ کراچی: پر آرٹ پر لیس، ۱۹۶۸ء
- ۱۳۔ "تاریخ مرثیہ گوئی"؛ کراچی: (ناشر) اردو اکیڈمی سندھ، پر آرٹ پر لیس ۱۹۴۵ء
- ۱۴۔ "تاریخ و تفہید؟ آگرہ"؛ آگرہ اخبار پر لیس، ۱۹۳۹ء
- ۱۵۔ "تاریخ و تفہید"؛ کراچی، ٹائمز پر لیس ۱۹۷۶ء (تمیرا ایڈلشن)
- ۱۶۔ "جامع التواریخ" (غیر مطبوعہ)، مملوکہ ڈاکٹر خالد حسن قادری.
- ۱۷۔ "جو اہرام مثل" (قطعات)، (غیر مطبوعہ)، مملوکہ جناب ماجد حسن فریدی
- ۱۸۔ پسر مولانا قادری
- ۱۹۔ "داستان تاریخ اردو"؛ آگرہ: غریزی پر لیس، ۱۹۵۷ء
- ۲۰۔ "داستان تاریخ اردو"؛ کراچی، ایجوکیشنل پر لیس، (ناشر) اردو اکیڈمی  
بندھ ۱۹۹۹ء (تمیرا ایڈلشن)
- ۲۱۔ "دفتر تاریخ" (غیر مطبوعہ)، مملوکہ ڈاکٹر خالد حسن قادری.
- ۲۲۔ "شور عذر"؛ آگرہ، آگرہ اخبار پر لیس، ۱۹۵۱ء
- ۲۳۔ "صید و صیاد"؛ آگرہ؛ (ناشر) لکشمی نرائن آگر وال آگرہ  
اخبار پر لیس آگرہ ۱۹۳۳ء
- ۲۴۔ "کمال داعن"؛ آگرہ، آگرہ اخبار پر لیس، ۱۹۵۹ء
- ۲۵۔ "مرأۃ سخن" (دیوان غزلیات)، (محفوظہ) مملوکہ ڈاکٹر خالد حسن قادری.
- ۲۶۔ "نظم زنگین، یعنی قصہ قاصی جون پور"؛ رام پور؛ پر لیس دسن ندارد.
- ۲۷۔ "نقد و نظر"؛ آگرہ؛ آگرہ اخبار پر لیس، ۱۹۲۲ء
- ۲۸۔ زور، ڈاکٹر محی الدین قادری، "روح تفہید"؛ لاہور؛ مکتبہ معین الادب،  
۱۹۴۳ء، (چھٹا ایڈلشن)
- ۲۹۔ ساحر سہسوائی، "طہم تاریخ"؛ مراد آباد (لیوپی، بھارت)؛  
دارالعلوم، ۱۹۱۱ء
- ۳۰۔ سُرور، پروفسِر آل احمد، "تفہید کیا ہے؟" دہلی، راجانی پر لیس، ۱۹۳۷ء

- ۳۱۔ شبی نعماں، علامہ، "شعر الحجم" (جلد چہارم)، اعظم گرڈ (ندوۃ المصنفین)، سن شمس الرحمن (مرتب)، "اردو خطوط"، دہلی: آزاد پریس ۱۹۷۲ء
- ۳۲۔ صبا مسٹر اودی، "ترویج فن تاریخ"، کراچی: مکتبہ اردو، ۱۹۶۰ء
- ۳۳۔ طاہر فاروقی، ڈاکٹر مولوی محمد، "بزمِ اقبال"، آگرہ اخبار پریس، ۱۹۷۳ء
- ۳۴۔ مشاہیر بھراویں، "رمخطوط"، مملوکہ ڈاکٹر مولوی محمد طاہر فاروقی۔
- ۳۵۔ عبادت یہودی، ڈاکٹر، اردو تنقید کا ارتقاء، کراچی: انجمن ترقی اردو۔

(پاکستان) ۱۹۶۱ء

- ۳۶۔ عبدالشکور، "اردو ادب کا تنقیدی سرایہ"، آگرہ: حوزی پریس، ۱۹۵۱ء
- ۳۷۔ عبد الغنی، پروفیسر محمد، "تاریخ ادب فارسی در عہد سلاطین مغلیہ" (جلد سوم)
- ۳۸۔ علکری، مزرا محمد (مترجم)، "تاریخ ادب اردو" اذ رام بابو سکپینہ، لاہور
- ۳۹۔ منظور پنڈنگ پریس، ۱۹۶۷ء۔ مقام و سن اشاعت ندارد۔
- ۴۰۔ غلام عباس، "انتساب پھول"، مقام و سن اشاعت ندارد۔
- ۴۱۔ غلام مصطفیٰ خان، ڈاکٹر، "حالي کا ذہنی ارتقاء"، لاہور: مکتبہ کاروان ۱۹۵۶ء
- ۴۲۔ کشفی، ڈاکٹر سید ابوالحسن، "بخارے عہد کا ادب و ادب"، کراچی: جاوید پریس
- ۴۳۔ ۱۹۶۱ء۔

۴۴۔ کلیم الدین احمد، پروفیسر، اردو تنقید پر ایک نظر، لاہور: عشرت پبلشگ

ہاؤس، ۱۹۶۵ء۔

- ۴۵۔ ل۔ احمد اکبر آبادی، "ادبی تاثرات"؛ مکتبہ، انجمن ترقی اردو (ہند) ۱۹۶۳ء
- ۴۶۔ معنوں گور کھیوری، "ادب اور زندگ"؛ راجہ: مشہور آفس پریس ۱۹۶۹ء
- ۴۷۔ محمود ارجمن، "بچوں کا ادب"؛ کراچی، کراچی، نیشنل بک فاؤنڈیشن، س۔ ن۔
- ۴۸۔ محمود خاں شیرازی، حافظ، "پنجاب میں اردو"؛ لاہور: انتشار پریس، ۱۹۲۹ء
- ۴۹۔ محمود اکبر آبادی، "صحیفہ اردو"؛ آگرہ، گیا پرشاد اینڈ سز، ۱۹۳۳ء

۴۹. مسعود حسن خان، ڈاکٹر، "تاریخ زبان اردو"، دہلی: آزاد کتاب گھر، ۱۹۵۲ء
۵۰. مہر نقوی، "ایس کی تاریخ گوئی" ، (مخطوطہ) .
۵۱. نصیر الدین ہاشمی، "بورپ بیں دکھنی مختصرات" ، جید آباد (دکن)؛ شمس المطابع، ۱۹۳۶ء.

۵۲. نظم طباطبائی کھنلوی، مولوی علی حیدر، "شرح دیوان غالب"
۵۳. یوسف حسین خان، ڈاکٹر، "روحِ اقبال" ، حیدر آباد (دکن)؛ ناشر ادارہ اشاعت اردو، رطابع، "دالی مشین پریس" ، ۱۹۳۳ء (طبع ثانی)
۵۴. " " " " " " تاج اردو" ، آگرہ، گرگہ اخبار پریس، ۱۹۲۳ء
۵۵. بریم کھپوری، حکیم رامک د مدیر) "فقہ و عطر فتنہ" گرد کھپورہ  
بے تفسیل ذیل، فردری، ۱۹۱۰ء، ج ۲۵، ش ۵  
فردری، ۱۹۱۰ء، ج ۲۵، ش ۶
۵۶. اپسیل ۱۹۱۰ء، ج ۴۵، ش ۱۵  
یکم فردری، ۱۹۱۱ء، ج ۲۶، ش ۵
۵۷. حامد حسن قادری، مولانا (مدیر)، "شفق" ، آگرہ ۱۹۳۹ء، ج ۳، ش ۱۱

۵۸. حامد حسن قادری، مولانا (مدیر)، "خبراء سعید" ، کان پور، ۱۵ مارچ، ۱۹۱۸ء
۵۹. حقی، شان الحق (مدیر)، "اردو نامہ" (سہ ماہی)، کراچی، ترقی اردو بورڈ جنوری تا مارچ ۱۹۴۵ء، ش ۱۹ -
۶۰. غبیل اتر حملن، میر رامک د ایڈیٹر ان چیف، روزنامہ جنگ، کراچی -  
۱۹۴۵ء، جون ۲۵، جون ۱۹۴۶ء .
۶۱. ڈلگھب سرکبر آبادی، شاہ نظام الدین (مدیر)، "نقار" (ماہنامہ)  
آگرہ، (رمیوہ کٹھو)، مئی، ۱۹۱۹ء -
۶۲. سیماں اکبر آبادی (مدیر)، "شاعر" (ماہنامہ)، آگرہ، ستمبر ۱۹۳۶ء .

- ۷۲۔ صابری، فضل حسین ( مدیر )، "دُبَدَبَةٌ سَكَنْدَرِیٌّ" ، رامپور، ۱۹۰۳ء.
- ۷۳۔ صلاح الدین ، مولانا ( مدیر )، "کتابی دنیا" ، لاہور ، جون ، ۱۹۶۳ء
- ۷۴۔ طفیل محمد ر مدیر و مالک )، "نقوش" ( رسہ ماہی ) ، لاہور  
جنوری، ۱۹۵۵ء شمارہ جات ۲۸۔ ۲۳ ( شخصیات نمبر )
- ۷۵۔ "نقوش" ( رسہ ماہی ) ، جنوری ، ۱۹۶۶ء ، ( سال نامہ )
- ۷۶۔ عبد الحق ، بابائے اردو ذاکر مولوی ، ( مدیر ) ، "اردو" ( رسہ ماہی )  
دہلی ، جولائی ، ۱۹۳۵ء .
- ۷۷۔ خبد القادر ، سر شیخ دو) اکرام ، شیخ محمد ( مدیران ) "مخذن"
- رسہ نامہ ) ، لاہور ، ستمبر ۱۹۰۸ء -
- ۷۸۔ فرمان فتح پوری ، ذاکر ( مدیر ) "نگار" ، کراچی ، ۱۹۶۲ء ( سال نامہ )  
اصناف ادب نمبر ) .
- ۷۹۔ ماجد حسن فریدی ( زد ) سردار اکبر آبادی ( رسہ نامہ ) ، "شفق"  
کراچی ، جون ، ۱۹۷۳ء ( قادری نمبر )
- ۸۰۔ بابائے اردو ( نگران ) ، ( زد ) مشق خواجہ ( مدیر ) ، "قومی زبان"  
ر پندرہ روزہ ، کراچی ، یکم اکتوبر ۱۹۵۸ء ، ج ۱۳ ، ش ۷ ۔
- ۸۱۔ نگم ، پنڈٹ دیانت رائے ، ( مدیر ) ، "زمانہ" ( مہنامہ ) ، لاہور  
ماਰچ ، ۱۹۱۹ء ،
- ۸۲۔ نیاز فتح پوری ، ( مدیر و مالک ) "نگار" ( مہنامہ ) ، کراچی ، ۱۹۶۳ء  
ر خاص نمبر )
- ۸۳۔ "نگار" ( مہنامہ ) ، لکھنؤ ، ستمبر ، ۱۹۲۵ء
- ۸۴۔ "نگار" ( مہنامہ ) ، لکھنؤ ، جون ، ۱۹۲۶ء
- ۸۵۔ "نگار" ( مہنامہ ) ، لکھنؤ ، جنوری ، فروری ، ۱۹۲۳ء ،  
جلد ۵م ، شمارہ جات ۱ ، ۲۰ ،

# قہرست تصییفات مولانا حامد سعیدی

## مطبوعہ تصانیف

- ۱۔ بی اے، پرشنیں کورس، ۴۲۔ پیکر اردو  
 ۲۔ جمال اردو، ۴۴۔ جوہر اردو،  
 ۳۔ چھٹاں ادب، ۴۶۔ چھٹاں اردو.  
 ۴۔ حرف نو، ۴۰۔ داستانِ رسم و سہراپ  
 ۵۔ دامنِ گل چین، ۴۲۔ عیارِ تعلیم،  
 ۶۔ گوہر اردو، ۴۲۔ مطالبِ بہرتو  
 تبصرہ مصطفیٰ خجم و ہند، ۴۵۔ منتظر اردو.  
 ۷۔ نقشِ نازہ (نظم و نثر)، ۴۲۔ نہایل اردو  
 ۸۔ ہلائی اردو، ۴۹.

- ترجمہ:- ۰۳۔ الکھل اور زندگی،  
 ۰۴۔ باغ بان، ۴۲۔ فطرت اطفال،  
 ۰۵۔ سیر و سوانح، ۴۳۔ ابراھام لنکن،  
 ۰۶۔ حسنیں -

اخلاقیات:- ۱۔ رفیقِ تنہائی،  
 ۲۔ گلدستہِ اخلاق۔

افسانوی ادب:- ۳۔ ایرانی افسانے  
 ۴۔ صید و سیاد۔

بچوں کا ادب:- ۵۔ بچوں کی ڈالی،  
 ۶۔ ترانہ ہند، ۷۔ جادو گرنی، ۸۔ جن پھپی  
 ۹۔ ستارہ ہند، ۱۰۔ کافڑ کے کھونے،  
 ۱۱۔ گذری کالال، ۱۲۔ گم شدہ طالب علم  
 ۱۳۔ ہمت کا پھل،

تحقیق و تنقید:- ۱۳۔ انتخابِ مومن

۱۴۔ تاریخ و تنقید، ۱۵۔ تاریخ مرثیہ گوئی۔

۱۶۔ داستانِ تاریخ اردو، ۱۸۔ شاہنگار

انیس، ۱۹۔ کمالِ فانغ، ۲۰۔ نقد و نظر

تدریسی کتب:- ۲۱۔ انحر اردو،

۲۲۔ انتخابِ مراثی انیس و دبیر،

نظم:- ۷۴م۔ قصيدة عطار۔ ۷۴م۔ مثنیہ شور مختصر۔  
مدبوب:- ۷۵م۔ مجمع الکرامات۔

## غیر مطبوعہ تصانیف مولانا قادری

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| ۷۴م۔ دفتر تواریخ،         | ۳۸۔ ادبی مقالات،              |
| ۷۸۔ دیوان غزلیات قادری،   | ۳۹۔ آسین النظر،               |
| ۷۹۔ رباعیات قادری،        | ۴۰۔ انتخاب اکبر الہبادی،      |
| ۷۷۔ شجرۃ الانبیاء،        | ۴۱۔ انتخاب راز رام پوری،      |
| ۷۸۔ شجرۃ الاولیاء،        | ۴۲۔ انتخاب رسا رام پوری،      |
| ۷۹۔ کنز الکرامات،         | ۴۳۔ انتخاب دیوان غالب (اردو)  |
| ۷۶۔ گل صد برگ،            | ۴۴۔ انتخاب دیوان غالب (فارسی) |
| ۷۴۔ گنجینہ تواریخ،        | ۴۵۔ انتخاب ہرزا بیدل،         |
| ۷۵۔ قنوی نورۂ جہت،        | ۴۶۔ انتخاب ہیر درد،           |
| ۷۶۔ مذہبی باتیں،          | ۴۷۔ آثار التواریخ،            |
| ۷۷۔ مرآۃ شعرو سبحان،      | ۴۸۔ تصویر التواریخ،           |
| ۷۸۔ مقالات قادری،         | ۴۹۔ تذكرة الواقعات،           |
| ۷۹۔ میزان التواریخ،       | ۵۰۔ تذکرے و تبصرے،            |
| ۸۰۔ زادۃ منتخبۃ شعرو ادب، | ۵۱۔ جامع التواریخ،            |
| ۸۱۔ یوسف زلیجا،           | ۵۲۔ جلوہ گاہ تضییں،           |
| ۸۲۔                       | ۵۳۔ بحیرتی اور درسرے افانے    |
| ۸۳۔ نقد و تبصرہ،          | ۵۴۔ خزانہ رباعیات،            |
| ۸۴۔ انقلابی شاعری،        | ۵۵۔ خزینہ رباعیات،            |
| ۸۵۔ تنقیبات پر ایک نظر،   | ۵۶۔ خلاصہ تواریخ،             |

**Marfat.com**

مُنْجِل بَلْكَسْتَانِ الْأَكْبَرِي

Marfat.com